


رسول الله
محمد

تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہیۃ

حصہ
سوم چہارم



نفس اکبر بازار کراچی طبعی

علامہ حفظہ ابو الفداء عماد الدین ابن کثیر دمشقی

وَذَكَرَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَئِن فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

تاریخ ابن کثیر

شہرہ آفاق عربی کتاب

الْبَيْدَةُ أَيْ تَمَّتْ لِنَهَائِهَا

کار دو ترجمہ

جلد چہارم

تصنیف ✽ آٹھویں صدی ہجری کے نامور مورخ، فقیہ، محدث اور مفسر قرآن
عَلَامَةُ حَافِظِ أَبُو الْفِدَاءِ عَمَادُ الدِّينِ ابْنُ كَثِيرٍ (۷۱۶ھ-۷۷۴ھ)

ترجمہ ✽ پروفیسر کوکب شادانی فاضل ادب (عربی)
ایم اے (فارسی) ایم اے (انگریزی) ایم اے (اسلامیات) ایم اے (تاریخ اسلام)
سابق پروفیسر ڈبلیو کالج (اندور) فرگوسن کالج (پونا) الٹیشن کالج (بھجنی)

نفسِ اکیسی
اُردو بازار، کراچی طبعی

الْبَدَايَةُ وَالنَّهَائَةُ

مصنفہ علامہ حافظ ابوالفدا عماد الدین ابن کثیر کے حصہ سوم چہارم کے اردو ترجمے کے جملہ
حقوق اشاعت و طباعت، تصحیح و ترتیب و تیویب قانونی بحق

طارق اقبال گاہندری

مالک نفیس اکیڈمی کراچی محفوظ ہیں

تاریخ ابن کثیر (جلد چہارم)	نام کتاب
علامہ حافظ ابوالفدا عماد الدین ابن کثیر	مصنف
پروفیسر کوکب شادانی	ترجمہ
نفیس اکیڈمی - کراچی	ناشر
جون ۱۹۸۷ء	طبع اول
آفسٹ	ایڈیشن
۲۸۰	ضخامت
۰۲۱-۷۷۲۲۰۸۰	ٹیلیفون

فہرست عنوانات

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۵۹	عمرو بن سعدی قرظی کا قصہ	20	۶	سال سوم ہجری کے واقعات غزوہ ذی امر	1
۶۱	غزوہ بنی الحیان	21	۸	قیدیوں کے یہودیوں کی مدینے میں اطلاع	2
۶۳	غزوہ ذات الرقاع	22	۱۰	زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی غزواتی مہم	3
۶۴	غورث بن حارث کا قصہ	23	۱۱	مقتل کعب بن اشرف	4
۶۵	اس عورت کا قصہ جس کا شوہر گم ہو گیا تھا	24	۱۳	غزوہ احد	5
۶۷	جابر کے اونٹ کا قصہ	25	۲۲	مقتل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ	6
۶۹	غزوہ بدر آخر	26		فصل	
	فصل		۲۶	غزوہ احد میں امداد خداوندی	7
۷۱	سال چہارم ہجری کے واقعات کا خلاصہ	27		فصل	
۷۲	سال پنجم ہجری کے واقعات غزوہ دومتہ الجندل	28	۳۲	ام عمارہ کا بیان	8
۷۵	غزوہ خندق یا غزوہ احزاب	29		فصل	
	فصل		۳۴	غزوہ احد میں مسلمانوں کو پیش آمدہ حوادث	9
۸۰	غزوہ خندق کے بعد	30	۳۹	غزوہ احد میں نبی کریم ﷺ کی دعائیں	10
	فصل			فصل	
	غزوہ خندق کے دوران میں آنحضرت ﷺ	31	۴۰	شہداء و مجروحین احد کی تلاش	11
۸۹	کی دعائیں			حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے احد کی نماز	12
	فصل		۴۲	جنازہ	
۹۴	غزوہ بنی قریظہ	32	۴۵	آنحضرت ﷺ کی احد سے مدینے کو واپسی	13
۱۰۲	سعد بن معاذ کی وفات	33	۴۶	واقعہ احد پر شعرائے عرب کا سرمایہ شعری	14
۱۰۷	غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ پر اشعار	34	۴۸	سال چہارم ہجری کے واقعات	15
۱۰۸	مقتل ابورافع یہودی	35	۵۰	غزوہ رجیع	16
۱۱۳	مقتل خالد بن سفیان الہزلی	36	۵۲	عمرو بن امیہ ضمری کی مہم	17
۱۱۶	عمرو بن عاص اور نجاشی کا قصہ	37	۵۵	بیتر معونہ کی مہم	18
۱۱۹	ام حبیبہ سے آنحضرت ﷺ کا رشتہ ازدواج	38	۵۷	غزوہ بنی نضیر	19

۱۷۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تربت کی طرف مہم	59	۱۲۳	نزول آیت حجاب	39
۱۷۹	یسیر بن رزام نے خلاف عبداللہ بن رواحہ کی مہم	60	۱۲۵	سال ششم ہجری کے واقعات	40
۱۸۰	بشیر بن سعد کی آخری مہم	61	۱۲۶	غزوہ ذی قرد	41
	وہ مہم جس میں مخلم بن جشام نے عامر بن اشیط	62	۱۲۸	غزوہ بنی مصطلق	42
۱۸۱	کو قتل کر دیا تھا		۱۳۱	قصہ اُفک	43
۱۸۳	عبداللہ بن حذافہ ابی کی مہم	63	۱۳۳	غزوہ حدیبیہ	44
۱۸۴	عمرۃ القضا	64	۱۳۳	سال ششم ہجری میں دیگر مہمات	45
	میمونہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی ترویج کا	65	۱۳۶	سال ششم ہجری کے کچھ دیگر واقعات	46
۱۸۸	مسئلہ		۱۳۷	سال ہفتم ہجری غزوہ خیبر	47
	فصل			فصل	
	سال ہفتم ہجری کی باقی ماندہ مہمات بنی سلیم کی	66	۱۵۷	خیبر کے قلعے	48
۱۸۹	طرف ابن ابی العوجاء سلمیٰ کی مہم		۱۵۹	صفیہ بنت حمی کا قصہ	49
	سال ہفتم ہجری کے واقعات عمرو بن عاص	67		فصل	
۱۹۰	خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ کا قبول اسلام		۱۶۱	آنحضرت ﷺ سے اہل فدک کی درخواست	50
۱۹۳	خالد بن ولید کی اسلام کی طرف تدریجی رغبت	68		فصل	
	شجاع بن وہب اسدی کی ہوازن کے خلاف	69	۱۶۲	مہاجرین حبشہ کی واپسی	51
۱۹۶	مہم		۱۶۳	زہرا لود بکری کے گوشت کا قصہ	52
۱۹۷	بنی قضا کے خلاف کعب بن عمیر کی مہم	70		فصل	
۱۹۸	غزوہ موتہ	71	۱۶۷	وادی قریٰ کا محاصرہ	53
	موتہ میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے	72		فصل	
	اندوہناک قتل پر آنحضرت ﷺ کا اظہار		۱۶۹	شہدائے خیبر	54
۲۰۲	ملال		۱۷۰	حجاج بن علاط البہزی کا قصہ	55
	فصل			فصل	
	امراء لشکر اسلام زید، جعفر اور عبداللہ رضی اللہ عنہم	73		آنحضرت ﷺ کا وادی قریٰ سے گزراں کا	56
۲۰۴	کے فضائل		۱۷۲	محاصرہ اور یہود سے مصالحت	
۲۰۸	شہداء موتہ کے اسماء گرامی	74		فصل	
۲۰۹	ملوک عالم کے نام آنحضرت ﷺ کے خطوط	75	۱۷۴	فتح خیبر کے بعد یہودیوں سے شرائط	57
۲۲۱	غزوہ ذات السلاسل	76	۱۷۶	سال ہفتم ہجری کی چند دیگر اسلامی مہمات	58

۲۵۳	فتح مکہ کے بعد مشرکین کی آنحضرت ﷺ سے بیعت	86	۲۲۳	ساحل بحر کی طرف غزوہ اتی مہر	77
۲۵۶	غزوہ ہوازن یوم حنین	87	۲۲۵	فتح مکہ	78
۲۶۱	حنین سے کچھ مسلمانوں کے فرار اور پھر حنین کی کامیابی کا واقعہ	88	۲۲۹	آنحضرت ﷺ کی مدینے سے مکے کی طرف روانگی	79
۲۶۲	غزوہ اوطاس	89		فصل	
۲۶۶	غزوہ طائف	90		عباس بن عبدالمطلب، ابی سفیان بن حارث بن عبدالمطلب اور ام المومنین ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ مخزومی کا قبول اسلام اور مکے کے راستے میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری	80
۲۶۹	آنحضرت ﷺ کی طائف سے مراجعت اور غنائم ہوازن کی تقسیم	91	۲۳۰	ظہران سے آگے بیرون مکہ آنحضرت ﷺ کا آخری پڑاؤ	81
۲۷۱	آنحضرت ﷺ پر بعض اہل شقاق کے اعتراضات	92	۲۳۱	آنحضرت ﷺ کا مکے میں داخلہ	82
۲۷۳	حجرانہ میں آنحضرت ﷺ کی اپنی رضاعی بہن سے ملاقات	93	۲۳۲	فتح مکہ کے شرکاء و شاہدین کی تعداد	83
۲۷۵	آنحضرت ﷺ کی حجرانہ سے عمرہ کے لیے روانگی	94	۲۳۲	انہدام عزیٰ کے لیے خالد بن ولید کی روانگی	84
۲۷۶	کعب بن زہیر بن ابی سلمیٰ کا قبول اسلام اور ان کے قصیدے بانٹ سعاد کا قصہ	95	۲۳۸	مکے کے دوران قیام میں آنحضرت ﷺ کے احکام	85
۲۷۸	سال ہشتم ہجری کے مشہور واقعات و اموات	97	۲۵۱		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سال سوم ہجری کے واقعات

غزوہ ذی امر

سال سوم ہجری کے آغاز میں غزوہ نجد وقوع پذیر ہوا جسے غزوہ ذی امر بھی کہا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ غزوہ سویق سے واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں ماہ ذالحجہ کم و بیش پورا گزارا جس کے بعد آپ غزوہ نجد کے ارادے سے غطفان کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی غزوہ نجد کو جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا غزوہ ذی امر بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس غزوے کے لیے روانگی کے وقت آنحضرت ﷺ نے مدینے کی نیابت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی تھی۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے نجد میں ماہ صفر پورا گزارا تھا۔ تاہم وہاں کفار سے مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔

واقعی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو اطلاع ملی تھی کہ غطفان اور بنی ثعلبہ بن محارب کا ایک بہت بڑا گروہ جنگ کرنے کے لیے نجد کی طرف آ رہا ہے، اسی لیے آپ ان سے مقابلے کے لیے روز پنجشنبہ جب کہ ماہ ربیع الاول ۳ ہجری کے دس دن گزر چکے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کر کے خود ہی وہاں سے نجد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس معرکے کے لیے آپ گیارہ روز مدینے سے باہر رہے جہاں چار سو پچاس صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ مدینے سے روانہ ہو کر ان پہاڑوں کے اوپر سے گزرے اور آگے بڑھ کر پانی کے قریب اس علاقے میں ٹھہرے جسے عرب کے لوگ ”ذو امر“ کہتے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی زور کی بارش آگئی جس سے آپ کا تمام لباس بھیگ گیا، چنانچہ آپ نے اپنے اور اپنے ہمراہیوں کے کپڑے خشک ہونے تک وہیں درختوں کے سائے میں قیام فرمایا۔ البتہ آپ نے وہاں شب بسر کی لیے ایک الگ درخت کا انتخاب فرمایا۔ واقعی مزید بیان کرتے ہیں کہ ادھر مشرکین کو وہاں کے قیام کی اطلاع ملی تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے اپنے ایک بہادر نوجوان کو جسے غورث بن حارث یا دشور بن حارث کہا جاتا تھا آپ کی قیام گاہ کی طرف روانہ کیا اور اس سے قسم لے لی کہ وہ آپ کو قتل کیے بغیر نہیں لوٹے گا۔ چنانچہ وہ بارش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب کہ آسمان پر امدی ہوئی گھٹا کی وجہ سے ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا آپ کے پڑاؤ پر پہنچا اور عرب کے کھوجیوں کی طرح کسی نہ کسی طرح آپ کے سر ہانے پہنچ گیا۔ آہٹ سے آپ کی آنکھ کھل گئی

نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت پر مامور تھے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین کر آپ کو دے دی جس کے بعد آپ نے اسی کی تلوار کھڑے ہو کر اسے دکھائی اور فرمایا: ”اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟“ اس نے کہا: ”کوئی نہیں“ پھر دوسری ہی سانس میں بولا:

”اور میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ اور قسم کھاتا ہوں کہ ابد تک (دشمنوں کی) کوئی جماعت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔“

اتنے میں آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی طرف دوڑ کر آئے اور پوچھنے لگے: ”یا رسول اللہ (ﷺ) کیا ہوا؟“ آپ نے فرمایا: ”تم اس طویل القامت آدمی کو دیکھتے ہو؟ یہ میرے سینے پر سوار ہو کر میرا سر کاٹنا چاہتا تھا لیکن اب اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار کر کے داخل اسلام ہو گیا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ خود تو کیا مشرکین کی کوئی جماعت میرے مقابلے میں نہیں آئے گی نیز یہ کہتا ہے کہ یہ اپنی قوم کو واپس جا کر اسلام لانے کی دعوت دے گا۔“ واقدی کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ..... الخ ﴾

نبیہتی کہتے ہیں کہ اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی جسے ”غزوہ ذات الرقاع“ کہا جاتا ہے آنحضرت ﷺ کو پیش آیا تھا لیکن تاریخ میں ان دونوں واقعات کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔

اگر یہ دونوں غزوات جن میں یکے بعد دیگرے غورث بن حارث کا ذکر کیا گیا ہے ایک ہی ہوتے تو پھر غورث بن حارث کا ذکر دوسرے غزوے میں کیوں آتا جب کہ وہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے ہمیشہ کے لیے آپ کے قتل سے ہاتھ اٹھانے کی قسم کھالی تھی؟۔ واللہ اعلم (مؤلف)



غزوہ فرع

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ ذی امر کی مہر سے فراغت کے بعد آنحضرت ﷺ نے مدینے میں ماہ ربیع الاول کم و بیش پورا گزارنے کے بعد ایک روز پھر مشرکین قریش کی جستجو کا قصد فرمایا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے مدینے میں اپنی نیابت کے لیے ابن ام مکتوم کا تقرر فرمایا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینے سے روانہ ہو کر آپ نجران تک جو حجاز میں فرح کے قریب معدنی علاقہ ہے تشریف لے گئے اور دس روز مدینے سے باہر رہے۔ واللہ اعلم

بنی قینقاع کے یہودیوں کی مدینے میں اطلاع:

واقفی کا خیال ہے کہ ہجرت کے دو سال بعد جب کہ ماہ شوال نصف گزر چکا تھا سپنجر کے روز آنحضرت ﷺ پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی اور اس میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے مراد بنی قینقاع کے یہودی تھے۔

﴿ كَمْثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بنی قینقاع کے یہودیوں سے جنگ کا حکم دیا تھا۔ ابن اسحاق مزید کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے قبل آپ کو مدینے میں قیام پذیر بنی قینقاع کے یہودیوں کی خفیہ حرکات اور ان کی سازشوں کی اطلاع مل چکی تھی لیکن آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا قطعی فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے انہیں انہی کے بازار میں جمع کر کے ان سے یوں خطاب فرمایا:

”اے گروہ یہود! تم مشرکین قریش کے حال سے عبرت پکڑو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کی سزا دی ہے اور تمہارے نبی مرسل (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کے ذریعہ خدا نے (میری نبوت کے بارے میں) جو تمہیں خبر دی ہے اس کے مطابق داخل اسلام ہو جاؤ اور اس کے حکم پر عمل کرو“۔

آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر بنی قینقاع کے یہودی ایک زبان ہو کر بولے:

”اے محمد (ﷺ) آپ اپنی قوم قریش پر (جنگ بدر میں) غلبہ حاصل کر کے مغرور نہ ہوں کیونکہ وہ لوگ تو حرب و ضرب کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں لیکن اگر آپ نے ہم سے مقابلے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنگ میں ہماری مہارت اور شجاعت دیکھ کر ہماری مردانگی کا پتہ چل جائے گا“۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے یزید بن ثابت کے غلام نے سعید بن جبیر، عکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بیان کیا

کہ مندرجہ ذیل آیات بھی بنی قینقاع کے بارے میں نازل ہوئی تھیں:

① ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْلَبُونَ ﴾ الخ

﴿فَذَكَرْنَا لَكُمْ آيَةً فِي فَتْنِ الْيَهُودِ﴾ الخ ﴿

ابن اثنی بیان کرتے ہیں کہ ان سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ بنی قینقاع یہودیوں نے ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تھی جو آنحضرت ﷺ نے ہجرت کے بعد مدینے کے غیر مسلم قبائل سے کیا تھا نیز بنی وہ لوگ تھے جنہوں نے بدر واحد کی لڑائیوں کے موقع پر نہ صرف یہ کہ معاہدے کے مطابق آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ آپ کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن جعفر (بن عبدالرحمن) بن مسور بن مخرمہ نے ابی عون کے حوالے سے بیان کیا کہ عرب کی کوئی عورت حلب سے بنی قینقاع کے بازار میں بطور کنیز لائی گئی تھی اور لوگ اسے خریدنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے لیکن وہ عورت اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کنیز نہیں ہے اور نہ فروخت ہونا چاہتی ہے مگر ایک شخص نے اس کے پیچھے آ کر اس کا نقاب اس طرح کھینچا کہ نہ صرف اس کے بال بلکہ کمر تک برہنہ ہو گئی اور لوگ تعجبے مار کر ہنسنے لگے یہ دیکھ کر کسی مسلمان نے اس عورت کی کمر کا کپڑا نیچے کر دیا اور اس شخص کو تنبیہ بھی کی۔ وہ شخص یہودی تھا اس نے غصے میں آ کر اس مسلمان کو قتل کر دیا جس کے بعد مسلمان اور یہودی مستقل طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ واللہ اعلم

البتہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا جب آنحضرت ﷺ نے بنی قینقاع کے یہودیوں کو مخاطب کر کے انہیں حسب معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ صلح صفائی سے رہنے اور داخل اسلام ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب میں جو کچھ کہا وہ سطور بالا میں درج کیا جا چکا ہے لیکن جب آپ نے ان کے اس ناشائستہ جواب پر مسلمانوں کو ان کے محاصرے کا حکم دیا تو عبداللہ بن ابی سلول بو درحقیقت ان یہودیوں کا سرگردہ اور منافقین میں سرفہرست تھا۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت عاجزانہ طور پر مسلمانوں اور ان یہودیوں دونوں کا خیر خواہ بن کر آپ سے ان یہودیوں کو معاف فرمادینے کی درخواست کی۔ اسی طرح عبداللہ بن صامت نے بھی جو بنی عوف میں سے تھے لیکن عبداللہ بن ابی کی طرح بنی قینقاع کے حلیف تھے آپ سے ان کی سفارش کی اور عرض کیا کہ اس معاہدے کی رو سے جو آپ نے مدینے کے مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کے درمیان ہمیشہ باہم مصالحت کے لیے کرایا ہے اب بھی فریقین میں مصالحت کرانے کے خدا کے نزدیک بھی پابند ہیں لہذا یہودیوں کی گذشتہ حرکات سے چشم پوشی فرما کر ان میں مصالحت کر دیجیے۔ تاہم مذکورہ بالا اسناد کی رو سے مندرجہ بالا آیات اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ﴾ الخ ﴿

ان آیات میں بالترتیب عبداللہ بن ابی اور عبادہ بن صامت کی طرف صاف صاف اشارات کیے گئے ہیں جن کا تفصیلی ذکر ان آیات کے ضمن میں ہم اپنی کتاب تفسیر میں پیش کریں گے ان شاء اللہ۔ (مؤلف)



زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی غزواتی مہم

اس مہم پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اس اطلاع کے بعد بھیجا گیا تھا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ ابوسفیان یا صفوان کی سرکردگی میں زرنقہ اور تجارتی مال سے لد اچھنڈ اشام سے مکے واپس آتے ہوئے مدینے کے قریب ہو کر گزرے گا۔ یونس بکیر اور ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بدر کے چھ ماہ بعد کا ذکر ہے ابن اسحاق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی واقعہ بدر کے بعد سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے اہل مدینہ کے خوف سے اس راستے کے بجائے عراق کے راستے سے شام آتے جاتے تھے اور اس راستے میں ان کی رہنمائی بکیر بن وائل کے ایک شخص فرات بن حیان جو بنی سہم کا حلیف تھا کیا کرتا تھا لیکن اب کے مدینے میں اطلاع آئی تھی کہ اہل مکہ کا ایک قافلہ ابوسفیان یا صفوان کی سرکردگی میں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا پہلے ہی کے جانے پہچانے راستے کافی مال و زر لے کر عنقریب گزرنے والا ہے۔

چونکہ یہ راستہ واقعہ بدر کے بعد سے اہل مکہ کے تجارتی اور دوسرے قافلوں کے لیے اہل مدینہ کی طرف سے کسی ممکنہ اندیشے کے پیش نظر ممنوع قرار دیا جا چکا تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ کو اس قافلے کی روک ٹوک کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ اس قافلے کے مدینے کے قریب سے ہو کر گزرنے کی خبر وہاں نعیم ابن مسعود کے ذریعہ پہنچی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت وہ قافلہ بنی نضیر میں ٹھہر کر داعش دے رہا ہے۔ الغرض جب یہ قافلہ مدینے کے قریب سے اپنی دانست میں چپکے چپکے اہل مدینہ کی بے خبری میں گزرنے لگا تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اچانک اپنے ساتھیوں کو لے کر اس پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے اور اس کا مال ضبط کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس قافلے میں اتنا مال تھا کہ اس کا خمس ہی اندازاً بیس ہزار دینار نکلا جسے نکال کر باقی مال حصہ رسد اس مہم میں شامل افراد میں بطور مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ اس مہم میں قافلے کے دو آدمی گرفتار ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ فرات بن حیان بھی تھا جو اس دفعہ بھی اس تجارتی قافلے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی لوگ بچ کر نکل گئے تھے۔ فرات بن حیان گرفتار ہو کر مدینے آیا تو وہاں آ کر مسلمان ہو گیا۔ واقدہ کے بقول یہ واقعہ ہجرت کے اٹھائیس ماہ بعد کا ہے۔

ابن جریر کہتے ہیں کہ اسی سال ماہ ربیع الاول میں ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ کا عقد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا لیکن ان کی رخصتی ماہ جمادی الآخر میں ہوئی تھی۔



مقتل کعب بن اشرف

کعب بن اشرف کا آبائی تعلق بنی طے سے تھا لیکن ان دنوں وہ بنی نہبان کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا جب کہ اس کی ماں بنی نضیر میں سے تھی۔ اس کے بارے میں ابن اسحاق بخاری اور بیہقی نے بنی نضیر کے حالات کے ضمن میں جو روایات پیش کی ہیں انہیں متفقہ طور پر صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔

بنی نضیر کا قصہ واقعہ احد کے بعد کا قصہ ہے اور اس کا تعلق حرمت شراب سے ہے جس کا تفصیلی ذکر ہم ان شاء اللہ آئندہ صفحات میں حسب موقع کریں گے۔ جہاں تک کعب بن اشرف یہودی کا تعلق ہے اس کے بارے میں اوپر بتایا جا چکا ہے کہ وہ آبائی لحاظ سے بنی طے سے تعلق رکھتا تھا لیکن جن دنوں کا یہ ذکر ہے وہ بنی نہبان کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا لیکن چونکہ اس کی ماں بنی نضیر میں سے تھی اس لیے بنی نضیر میں اس کی آمد و رفت اکثر رہتی تھی۔

بخاری کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان سے علی بن عبداللہ اور سفیان نے بیان کیا کہ ان میں سے کعب بن اشرف یہودی سے نمٹنے کی ذمہ داری کون لیتا ہے کیونکہ وہ خدا اور اس کے رسول کا بہت بڑا دشمن ہے اور آپ کو اذیت پراذیت پہنچائے جا رہا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر محمد بن مسلمہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ) اگر وہ کسی طرح اپنی سازشوں اور شرارتوں سے باز نہ آئے تو کیا اسے قتل کر دیا جائے؟ محمد بن مسلمہ کے اس سوال کے جواب میں آپ نے ”ہاں“ فرمایا تو محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کی تاک میں لگ گئے۔

کہا جاتا ہے کہ غزوہ ذی امر کے بعد بنی نضیر کے قریب قریب سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن کعب بن اشرف شراب کی حرمت کا حکم آنے کے بعد بھی بنی نضیر میں جا کر شراب نوش کرتا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہتا تھا، وہ کئی بار مکے بھی گیا اور وہاں جا کر ابولہب کے علاوہ صرف ان لوگوں کے پاس قیام کرتا جو مسلمانوں کے سخت خلاف تھے بلکہ بعض مسلم خواتین کے مکانات پر بھی ان کی اجازت کے بغیر قیام کرتا اور وہیں رات گزار دیتا۔ اس کی ان فتنج حرکات سے مدینے کے مسلمان سخت مشتعل تھے۔ چنانچہ ایک روز محمد بن مسلمہ شب کے وقت ایک دو مسلمانوں کو ساتھ لے کر قبیلہ بنی نضیر میں پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ کعب بن اشرف کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ لہذا انہوں نے سیدھے جا کر اسی مکان پر دستک دی۔ صاحب خانہ باہر نکلا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ: انہیں کعب سے علیحدگی میں کچھ کہنا ہے، چونکہ بنی نضیر کو مدینے کے مسلمانوں کی طرف سے اب کسی قسم کا خدشہ نہیں تھا اس لیے اس نے کعب کو باہر بھیج دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اسے ساتھ لے کر اپنے ہمراہیوں کی معیت میں پہاڑی علاقے کی طرف کچھ دور نکل گئے اور کعب بن اشرف سے تمام جہت کے لیے کہا کہ ”وہ اپنی خلاف اسلام حرکات سے باز آ جائے“۔ کعب بولا: بس تم مجھے یہی کہنے یہاں تک لائے تھے؟ اس کے بعد اس نے طیش میں آ کر اسلام اور پیغمبر اسلام پر سب و شتم کی بوچھاڑ کر دی۔ چونکہ

اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا لہذا انہوں نے اسے تلوار کے ایک ہی وار میں جہنم رسید کر دیا۔
 بیہوشی اور بخار میں نے بیان کیا ہے کہ بنی نضیر میں واقعہ احد کے بعد بھی جب کہ شراب حرام ہو چکی تھی شراب کشید کی جاتی اور
 پی جاتی تھی بلکہ ایسے ہی ایک موقع پر وہاں ایک مسلمان کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ واللہ اعلم
 ہم بنی نضیر کے مزید تفصیلی حالات آگے چل کر ان شاء اللہ حسب موقع بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ واقعہ بدر کے بعد بنی
 قینقاع کے کچھ مزید حالات اوس کے ہاتھوں کعب بن اشرف کے قتل اور واقعہ احد کے بعد خزرج کے ہاتھوں مقتل ابی رافع یہودی
 تاجر اہل حجاز بنی قریظہ کے یہودیوں کے واقعات، یوم احزاب اور غزوہ خندق کا ذکر بھی ہم ان شاء اللہ آگے چل کر حسب موقع
 کریں گے۔



غزوہ اُحد

احد کی وجہ تسمیہ عموماً یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس پہاڑی علاقے میں یہ پہاڑ واقع ہے وہاں دوسرے پہاڑوں کے درمیان یہ اپنی جگہ یکہ و تنہا سب سے الگ اور ممتاز نظر آتا ہے۔ اس لیے اسے اس علاقے کے لوگ ”احد“ کہتے تھے لیکن بعد میں یہ سارا پہاڑی علاقہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔

غزوہ احد اسی علاقے میں ہجرت کے تیسرے سال ماہ شوال میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ یہ بیان زہری، قتادہ، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن اسحاق اور مالک کا ہے لیکن ابن اسحاق نے اس کا وقوع خاص طور پر نصف شوال بتایا ہے اور قتادہ اس میں ماہ شوال کے دس دن گزر جانے کے علاوہ سنہ پنچر کے دن کی تخصیص بھی کرتے ہیں۔ مالک اس کا آغاز طلوع سحر کے فوراً بعد بتاتے ہوئے مندرجہ ذیل آیات کے نزول کا وقت بھی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ الخ﴾

مندرجہ بالا آیات کے ساتھ یہ آیت بھی اسی وقت نازل ہوئی:

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ الخ﴾

یہاں ہم نے اس ذکر کو مختصر آ پیش کیا ہے۔ تاہم اسے ہم نے اپنی کتاب ”النفیس“ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو با التفصیل

بیان کیا ہے۔ (مؤلف)

بہر کیف یہاں ہم غزوہ اُحد کے بارے میں محمد بن اسحاق اور دوسرے علمائے عصر کے علاوہ محمد ابن مسلم زہری، محمد بن یحییٰ بن حبان، عاصم بن عمر بن قتادہ، حصین بن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن معاذ وغیرہم کے بیانات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو درج ذیل ہے۔

غزوہ بدر میں قریش مکہ کے سرداروں اور اس کے نتیجے میں ان کے اہل خاندان پر جو کچھ حادثہ گزرا تھا وہ اس کے زخم ابھی تک چاٹ رہے تھے کہ ان کے اس تجارتی قافلے پر جو ابوسفیان اور صفوان کی سربراہی میں شام سے لوٹ رہا تھا اور جس کا ذکر سطور بالا میں کیا جا چکا ہے ایک نئی پتلا پڑ گئی جس کی وجہ سے وہ واقعہ بدر سے پہلے کی طرح آپس میں پھر مشورہ کرنے لگے تاکہ وہ مسلمانوں سے ایک بار پھر دودو ہاتھ کر کے اپنے گزشتہ نقصانات کا پورا پورا بدلہ چکا سکیں۔ چنانچہ وہ اس کے لیے ایک بڑی مجلس مشاورت کے بعد جس کا صدر نشین خود ابوسفیان تھا بڑے زور شور سے تیاری میں لگ گئے۔ تاہم یہ بات مسلمانوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی کیونکہ نہاں کے ماند آں رازے کزو سازند مخفلہا۔ اس خبر سے مسلمانوں کی تھوڑی بہت پریشانی فطری تھی۔ اسی لیے ان کی تسلی کے لیے رب العزت نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الخ

بہر کیف جیسا کہ مذکورہ بالا راویوں نے بیان کیا ہے قریش مکہ اپنی طرف سے پوری پوری تیاری کر کے آنحضرت ﷺ سے ایک بار پھر جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ پہلے ابوسفیان نے نہ صرف ان لوگوں کو جو مذکورہ بالا قافلے میں مسلمانوں کی زد سے بچ کر مکہ پہنچ گئے تھے اور ان کے حبشی غلاموں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا بلکہ اپنے مطیع کنانہ و اہل تہامہ وغیرہ قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور ابو عزہ عمر دین عبداللہ الحنفی کو بلا کر اس سے کہا:

”اے ابو عزہ! تم عرب کے ایک قابل قدر مشہور و معروف شاعر ہو، کیا تم اپنی شعلہ نوائی سے کنانہ اور اہل تہامہ وغیرہ کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے حرارت نہیں پیدا کر سکتے؟“

ابو عزہ بے چارہ ایک عیال دار اور مفلوک الحال شخص تھا جو پہلے بھی قریش مکہ کے بہلانے پھسلانے سے جنگ بدر میں شریک ہو گیا تھا اور اس جنگ میں اسیر ہو کر مدینے جا پہنچا تھا لیکن جب اسے نبی کریم ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا تو رحمت عالم نے اس کی عیال داری اور افلاس کے پیش نظر اس پر ترس کھا کر اسے کسی فدیہ کے بغیر رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا اور وہ ابھی تک آپ کے اس احسان کو نہ بھولا تھا۔ اس لیے اس نے ابوسفیان کو جواب دیا کہ پہلے تو نبی کریم ﷺ نے اس کی عیال داری اور غربی پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا تھا لیکن اس دفعہ مسلمان اسے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے اس نے ابوسفیان سے یہ بھی کہا کہ اسے اپنی جان کی تو پرواہ نہ تھی لیکن اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد اس کے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں ابوسفیان اور صفوان یک زبان ہو کر بولے:

”ارے تم اپنے اہل و عیال کی طرف سے بے فکر رہو۔ ہم ابھی سے ان کے لیے مال و دولت کے انبار لگائے دیتے ہیں اور اگر تم بغرض مجال ہمارا ساتھ دینے میں اپنی جان بھی گنوا بیٹھے تو ہم تمہاری لڑکیوں کو اپنی لڑکیوں کی طرح پالیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔“

الغرض صفوان اور ابوسفیان کے بہلانے پھسلانے سے ابو عزہ تہامہ پہنچ کر بنی کنانہ کے سامنے اپنے شعلہ آفریں اشعار سے ان میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکانے لگا۔ اسی طرح نافع بن عبدمناف بن وہب بن حذافہ بن حجاج بن مالک بن کنانہ کے لوگوں میں جا کر اپنے شعلہ خیز اشعار سے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارنے لگا۔

اس کے علاوہ مذکورہ بالا راویوں اور دیگر باخبر لوگوں کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جبیر ابن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی کو جس نے حبشہ میں دور سے نشانے پر خنجر پھینکنے کی مشق اور اس میں مہارت حاصل کی تھی بلایا اور اس سے کہا:

”اگر تو نے مسلمانوں سے آئندہ جنگ میں محمد ﷺ کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب اور ساتھ ہی میرے چچا طعیبہ بن عدی کو قتل کر دیا تو تجھے سارے عرب میں سب سے بڑا نشانہ باز اور بہادر سمجھا جائے گا۔“

مذکورہ بالا اہل علم و خبر راوی مزید بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ کے معززین میں جو لوگ حبشیوں کا ایک بڑے گروہ اور مکمل سامان جنگ کے ساتھ خود قریش کے جوانوں کے گروہ درگروہ لے کر اور انہی میں اہل تہامہ و بنی کنانہ کو ملا کر مکہ سے مدینے پر حملہ

آرہ ہونے کے لیے اُحد کی طرف روانہ ہوئے ان کے نام یہ ہیں:

ابوسفیان بن حرب (قائد لشکر قریش) ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، عکرمہ بن ابو جہل اور اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ، حارث بن ہشام اور اس کی بیوی فاطمہ بنت وایہ ابن مغیرہ، صفوان بن امیہ اور اس کی بیوی برہہ بنت مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفیہ، عمرو بن عاص اور اس کی بیوی ریطہ بنت منبہ بن حجاج۔

ان کے علاوہ بعض مؤرخین نے کچھ اور لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر مکے سے اُحد کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ وحشی جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ ابوسفیان کی بیوی ہند کے ساتھ ساتھ تھا اور وہ اسے تمام راستے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے جوش دلاتی اور بار بار یاد دہانی کراتی آئی تھی جب کہ ابوسفیان اور صفوان وغیرہ اپنے ساتھیوں میں سے ہر شخص کو جنگ کی ترغیب دیتے اور میدان جنگ سے فرار کے خلاف نصیحت کرتے آئے تھے۔

راوی کہتا ہے کہ قریش کا یہ لشکر مکے سے روانہ ہو کر بڑھتے بڑھتے مدینے کے بالکل سامنے اس وادی کے کنارے آ کر رُک جہاں دو پہاڑی چشمے تھے۔

جب رسول اللہ (ﷺ) کو قریش کے اس لشکر کی آمد اور پڑاؤ کی خبر ملی تو آپ نے اسے نیک فالی فرما کر مسلمانوں سے مزید فرمایا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ گائے ذبح کر رہے ہیں آپ کی تلوار کے قبضے میں روشن ترین ہیرا جڑا ہوا ہے اور جب آپ ایک سنگلاخ علاقے طے کر کے آگے بڑھے تو آپ کے سامنے مدینہ تھا۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے بخاری و مسلم کے علاوہ جملہ محدثین نے ابی کریب، ابی اسامہ، برید بن عبد اللہ بن ابی بردہ، ابی بردہ اور ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم کے حوالے سے اس کی جملہ تفصیلات بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ خواب بیان فرماتے ہوئے مسلمانوں کو مکے سے اپنی ہجرت سے لے کر مدینے میں اپنی تشریف آوری، پھر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مسلمانوں کی فتح اور آخر میں گائے کو ذبح کرنے اور اپنی تلوار کے قبضے میں بے حد چمک دار ہیرے کی موجودگی اور ایک سنگلاخ علاقے سے گزر کر مدینے کی سرسبز و شاداب سرزمین میں اپنے داغے کو رویاے صادقہ کے ذریعہ خیر و برکت کی بشارت بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ خواب غزوہ اُحد میں کفار پر مسلمانوں کی فتح کا صاف اشارہ ہے جو انہیں جنگ بدر کے بعد حاصل ہونے والی تھی۔

آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر مسلمانوں میں جوش و خروش پیدا ہوا خصوصاً وہ لوگ جو کسی عذر کی بنا پر جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اس پر اپنی ندامت کے ساتھ قریش کے خلاف اس جنگ میں شرکت کے لیے مستعدی کا اظہار کرنے لگے۔

بیہقی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جنگ بدر کے موقع پر اپنی تلوار ذوالفقار پر دھار رکھوا کر اسے صیقل بھی کرایا تھا اور اس کی چمک دمک واقعہ اُحد تک اسی طرح برقرار تھی۔ بیہقی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ چند مسلمان جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اب اُحد کے قریب کفار کے پڑاؤ اور ان کے خلاف آنحضرت ﷺ کے حکم سے جنگ کی تیاری کی خبر سن کر باغ باغ ہو گئے تھے۔

مسلمانوں میں سے اکثر اہل الرائے کا شمار یہیں تھا کہ دشمن سے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا جائے تاکہ وہ مدینے کے نزدیک نہ آسکے۔ چنانچہ اتفاق رائے سے یہی طے پایا۔ آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو دشمن سے مقابلے کی اجازت دے دی تو سب اس کی تیاری میں فوراً مشغول ہو گئے۔ جن مسلمانوں نے سب سے زیادہ دشمن سے مقابلے کا اشتیاق ظاہر کیا ان میں پیش پیش حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تاہم جب آنحضرت ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ قریش سے مقابلے کے لیے مدینے سے احد کی طرف روانہ ہوئے تو سب سے آگے وہ لوگ تھے جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نمل سکا تھا۔

جب نبی کریم ﷺ احد کی جانب بڑھے تو اس وقت آپ کے ہمراہ ایک ہزار مسلمانوں پر مشتمل جماعت تھی جب کہ قریش کے لشکر کی مجموعی تعداد تین ہزار تھی لیکن جب آپ احد کے مقام پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے تین سوسا تھی لے کر مسلمانوں سے علیحدہ ہو گیا۔ بیہوشی نے احد میں باقی مسلمانوں کی یہی تعداد یعنی سات سو بتائی ہے لیکن زہری سے منقول ہے کہ آخر میں ان مسلمانوں کی مجموعی تعداد جو قریش کے مقابلے کے لیے احد میں باقی رہ گئے تھے صرف چار سو تھی۔ واللہ اعلم

موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین قریش میں جنگ احد کے موقع پر ان کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ان کی قیادت کر رہے تھے اور ان کے لشکر میں سو گھوڑے تھے اور ان کا پرچم عثمان بن طلحہ کے پاس تھا۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑے کے نام سے ایک سواری بھی تھی۔ اس کا تفصیلی حال ہم ان شاء اللہ آگے چل کر بیان کریں گے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے مدینے میں اپنا خواب بیان فرمایا تو اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ چاہیں مدینے میں ٹھہریں اور جو لوگ چاہیں آپ کے ساتھ کفار سے مقابلے کے لیے باہر چلیں اور اس کے بعد آپ نے لباس حرب زیب تن فرمایا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو پہلے ہی لیت و لعل میں تھا آپ کے اس ارشاد سے دل میں بہت خوش ہوا اور اس نے آپ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کے نزدیک یہی بہتر ہوگا کہ مدینے میں ہی ٹھہرا جائے اور جب دشمن مدینے پر حملہ کرے تو شہر کے اندر ہی رہ کر اس کا مقابلہ کیا جائے لیکن کفار سے جنگ کے لیے مسلمانوں کا جوش و خروش اس درجہ بڑھ چکا تھا کہ وہ سب کے سب مدینے سے باہر نکل کر میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے خصوصاً جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، وہ لوگ جنہیں جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں مل سکا تھا اس کے لیے حد سے زیادہ بے تاب تھے راوی کہتا ہے کہ جب مسجد میں نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو بعد نماز ایک شخص نے آپ کے قریب آ کر عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ کا حکم ہو تو مدینے میں ٹھہریں گے لیکن ہماری تمنا ہے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے باہر جایا جائے ویسے بھی آپ لباس حرب زیب تن فرما چکے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی میدان میں تشریف لے جا کر کفار سے مقابلے کو پسند فرماتے ہیں لہذا ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے مدینے سے باہر نکل کر ان سے مقابلے کا حکم صادر فرمائیں۔“

جملہ راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم ﷺ مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کے بعد مدینے میں محصور رہ کر کفار کو وہاں تک

خواب بیان فرما کر انہیں دشمن پر فتح کی بشارت دی تھی جس کی تائید میں مندرجہ بالا ارشاد ربانی بھی پیش کیا جا چکا ہے لیکن آپ آخر تک یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمان اس سلسلے میں کسی تذبذب کا شکار تو نہیں ہیں۔ چنانچہ جب آپ کو عامۃ المسلمین کے جذبات سے اس سلسلے میں بخوبی آگاہی ہوگئی جس کا ذکر اوپر کیا گیا تو آپ نے ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرما کر اور کچھ لوگ شہر کی حفاظت کے لیے ان کے پاس چھوڑ کر باقی لوگوں کو مدینے سے روانگی کا حکم صادر فرما دیا۔ تاہم عبداللہ بن ابی ابن سلول نے پہلے تو اپنے پہلے مشورے پر زور دے کر مدینے ہی میں قیام پر اصرار کیا لیکن مسلمانوں کے جوش و خروش اور آنحضرت ﷺ کے فیصلے اور آپ کے حکم کے پیش نظر وہ بھی اپنے ہم رائے لوگوں کا گروہ لے کر مدینے سے احد تک آپ کے ہمراہ بظاہر مشرکین سے مقابلے کے لیے آیا لیکن وہاں کفار کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ دیکھ کر اسے اپنی پچھلی رائے پر اصرار کا دوبارہ موقع مل گیا اور وہ یہ کہہ کر دشمن کے اس کثیر التعداد لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی شکست یقینی ہے آنحضرت ﷺ سے کسی معذرت کے بغیر اپنے تین سوساٹھی لے کر مدینے واپس چلا گیا۔

عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل ارشادات کے صحیح مصداق تھے:

﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ..... الخ﴾

اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ بھی پہلے ہی فرما دیا تھا:

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾

اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی صداقت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں جیسے منافقین کے احد میں طرز عمل سے ظاہر ہو

گئی لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی ﷺ کو پہلے ہی ان منافقین کی امداد سے مستغنی فرما چکا تھا۔ (مؤلف)

بہر کیف مدینے کے جملہ انصار آنحضرت ﷺ کے اتباع میں آپ کے ہمراہ مدینے سے احد آ گئے تھے۔ انہوں نے

مدینے کے ان یہودیوں کی جو ان کے حلیف تھے ان کا ساتھ دینے یا نہ دینے کی بھی پروا نہیں کی تھی اور انہوں نے ان سے صاف

کہہ دیا تھا کہ:

”ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

عروہ بن موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے احد سے واپس چلے جانے کے بعد اللہ

تعالیٰ نے بنی سلمہ اور بنی حارثہ کو پہلے سے ثابت قدمی بخشی جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ..... الخ﴾

جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ:

”وہ لوگ جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ کس طرح (دشمن کے مقابلے سے) پیچھے

ہٹ سکتے ہیں؟“

ان کے بارے میں اس کی تفصیل صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں جابر بن عبداللہ ہی کے حوالے سے پیش کی گئی ہے۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ مدینے سے روانگی کے بعد احد سے پہلے بنی حارثہ کی ہستی میں ٹھہرے جہاں دلائل ہوتے ہی ایک وحشی کھوڑا آپ کے پیچھے لگ گیا لیکن کلاب نے اپنی تلوار نکال کر اسے ہٹانے کے لیے اس پر حملہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا:

”اپنی تلوار لو ابھی سے آیوں استعمال میں لاتے ہو ابھی تو اسے بہت سی تلواروں کا سامنا کرنا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔“ (ترجمہ تشریحی)

جب آنحضرت ﷺ بنی حارثہ کی ہستی میں پہنچے تو آپ نے وہاں کے کچھ لوگوں کے سامنے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ وہ دیکھیں کہ اس ہستی سے کون کون ان کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر بنی حارثہ بن حارث کے بھائی ابوخیثمہ نے مؤدبانہ عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) اس کے لیے سب سے پہلے میں حاضر ہوں۔“

ابوخیثمہ کی زبان سے یہ سن کر آپ نے اظہار مسرت فرمایا اور پہلے انہی کے مکان کی طرف چلے جس کے راستے میں ایک چھوٹا سا قطعہ اراضی پڑتا تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرنے لگے تو مربع بن قیظی نے جس کی ملکیت وہ قطعہ اراضی تھا آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر چیخ کر پوچھا ”کون ہے؟“ اس کے اس سوال کے جواب میں کسی نے کہا: ”رسول اللہ (ﷺ)“ مربع بن قیظی نابینا تھا اس لیے وہ آپ کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ پھر بھی وہ غصے سے بولا: ”اگر (نعوذ باللہ) تو نبی (رسول اللہ) ہوتا تو مجھے بتائے بغیر) اس زمین سے جو میری ملکیت ہے کس طرح گزر سکتا تھا؟“ اس کی یہ زبان درازی گستاخی اور بے ادبی دیکھ کر لوگوں نے چاہا کہ اسے قتل کر دیں لیکن آپ نے انہیں روک کر ارشاد فرمایا: ”اسے قتل نہ کرو یہ کورچشم ہی نہیں کور باطن بھی ہے۔“ ابن اسحاق کی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ مربع بن قیظی نے آپ کو اس بے ادبی کے ساتھ گستاخانہ انداز میں مخاطب کرنے سے پہلے آپ پر اور آپ کے ہمراہیوں پر زمین سے مٹی اٹھا کر پھینکی تھی، ابن اسحاق یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ مربع بن قیظی کے ہاتھ میں اس وقت مٹی کا ایک ڈھیلا تھا اور اس نے آنحضرت ﷺ کو مخاطب کر کے کہا تھا:

”اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ ڈھیلا کسی اور کے بھی لگ سکتا ہے اور میں تیرا منہ دیکھ سکتا تو اسے سیدھا تیرے منہ پر کھینچ مارتا۔“

تاہم جب کچھ لوگ اس کی اس انتہائی کمینہ اور ناقابل برداشت حرکت پر اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے اپنی فطری بردباری اور نرم مزاجی کی بناء پر انہیں روک دیا۔ البتہ بنی عبدالاشہل کے بھائی سعد بن زید رضی اللہ عنہ سے آنحضرت ﷺ کی شان میں مربع کی یہ گستاخی برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے آپ کے روکتے روکتے اس کے سر پر اپنی کمان سے ضرب لگا دی جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بنی حارثہ کی ہستی سے روانہ ہو کر جب آپ احد کے پہاڑی علاقے میں پہنچے تو آپ نے بنی قیظہ کی زرعی زمین سے کسی قدر روڑ ایک پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں کو پڑاؤ کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ آپ کی اجازت کے بغیر دشمن

ست جب تک جاکے جب کسی نے آپ سے عرض کیا کہ آیا وہ جگہ مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے مناسب تھی جب کہ دشمن کی کمین گاہ سامنے ہے اور سارا اسلامی لشکر اس کی زد میں ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

”کیا کفار کی طرح ہم بھی بنی قیلہ کی زرعی زمینیں روند کر اپنے پڑاؤ کے لیے اس سے بہتر جگہ تلاش کریں؟“

تاہم آپ نے مسلمانوں کو کسی بڑی پہاڑی پر پڑاؤ کی اس تشبیہ کے ساتھ اجازت دے دی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے خواہ کتنی ہی طویل چکر نہ لٹا پڑے لیکن قریب کی کسی بستی کی کھیتوں کو کسی حالت میں ہرگز پامال نہ کیا جائے۔

ابن اہلق کہتے ہیں کہ احد میں جب آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو مشرکین سے جنگ کی اجازت دی تو اس وقت اسلامی لشکر میں مجاہدین کی تعداد صرف سات سو تھی جب کہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا بعض راویوں نے ان کی تعداد صرف چار سو بتائی ہے اور یہ کہ لشکر کفار کے سپاہیوں کی تعداد تین ہزار سے کسی طرح کم نہ تھی۔

آنحضرت ﷺ نے اس روز بنی عمرو بن عوف کے بھائی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کو جو سفید لباس میں ملبوس چالیس مسلمان تیر اندازوں کی قیادت کر رہے تھے حکم دیا کہ وہ اپنی کمین گاہ کسی ایسی جگہ بنائیں جہاں دشمن ان پر دائیں بائیں یا آگے پیچھے سے حملے کے لیے آسانی کے ساتھ نہ پہنچ سکیں اور جب تک دوسرا حکم نہ دیا جائے وہاں سے نہ ہٹیں۔ آپ کے اس حکم کی مستند روایت ہم ان شاء اللہ آگے چل کر صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) سے حسب موقع پیش کریں گے۔ (مؤلف)

ابن اہلق بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز آنحضرت ﷺ کے جسم مطہر پر ایک کے اوپر ایک دوزر ہیں تھیں اور آپ نے اپنا علم بنی عبدالدار کے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کے سپرد کر دیا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جن مسلمان لڑکوں کو ان کی صغریٰ کی وجہ سے غزوہ احد میں شرکت سے روک دیا تھا ان میں جیسا کہ صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں درج ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود بتاتے ہیں کہ آپ نے انہیں اور اسامہ بن زید بن ثابت، براء بن عازب، اسید بن ظہیر اور عرابہ بن اوس بن قیس رضی اللہ عنہم کو غزوہ احد میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب ان کی عمر پندرہ سال ہو چکی تھی تو انہیں اس میں شرکت کی اجازت دے دی تھی۔ اس کا ذکر ابن قتیبہ اور سیہلی نے بھی کیا ہے۔ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

شعر (عربی سے منظوم ترجمہ)

”میں نے سر پر جہاں پر انت رکھی دائیں جانب مرے عرابہ تھے۔“

سیہلی کہتے ہیں کہ جن لڑکوں کو آنحضرت ﷺ نے غزوہ بدر میں شرکت سے روک دیا تھا ان میں ابن سعید بن خیمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تاہم غزوہ خندق میں ان سب کو شرکت کی اجازت دے دی گئی تھی۔ سیہلی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما کو آنحضرت ﷺ نے ان کے چھوٹے چھوٹے قد دیکھ کر جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی اگرچہ ان دونوں کی عمریں بھی پندرہ سال ہو چکی تھیں لیکن جب آپ کو اس بارے میں بتایا گیا اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ سمرہ رضی اللہ عنہما بچوں کے بل کھڑا ہو کر رو رہا ہے اور اس کے پیچھے رافع رضی اللہ عنہما بھی بچوں پر کھڑے ہو کر اپنا قد نسبتاً اونچا دکھانے کی کوشش

کر رہا ہے اور جنگ میں شرکت کے لیے بے تاب ہے تو آپ نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی تھی۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ احد میں کفار کے لشکریوں کی تعداد تین ہزار تھی اور ان کے ساتھ دو سو سو سپہ سوار تھے جنہیں لشکر کے میں (دائیں بازو) اور میسرہ (بائیں بازو) دونوں پر برابر برابر رکھا گیا تھا اور مہینہ کی قیادت خالد ابن ولید کے سپرد تھی جب کہ عکرمہ بن ابی بہل بن ہشام کو میسرہ پر رکھا گیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر کے روز اپنی ایک تلوار مجاہدین اسلام کو دکھا کر ارشاد فرمایا: ”اس تلوار کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے کون لینا چاہتا ہے؟“ یہ سن کر بہت سے لوگ آگے بڑھے لیکن آپ نے تلوار ان میں سے کسی کو نہ دی۔ یہ دیکھ کر ابو دجانہ سماک بن خرشہ (بنی ساعدہ کے بھائی) اٹھ کر آپ کے سامنے آئے اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ اس تلوار کا حق کیا ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا:

”اس کا حق یہ ہے کہ جب کوئی مجاہد یہ تلوار لے کر دشمن کی کسی صف میں گھسے تو اس طرح لڑے کہ لڑتے لڑتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔“

ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بے دھڑک مگر موؤ دجانہ عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ اس تلوار کا یہ حق ان شاء اللہ میں ادا کروں گا“ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ سنتے ہی آپ نے اپنی وہ تلوار ان کے حوالے کر دی۔

ابن اسحاق نے اس واقعے کے بارے میں اپنی روایت تفصیلاً بیان کی ہے۔ مسلم ابی بکر اور عفان کے حوالے سے اس واقعے سے متعلق روایت پیش کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے آپ کی وہ تلوار لیتے ہی لشکر کفار کی اگلی صفوں میں گھسان کی دست بدست جنگ کے لیے انہیں چیرتے ہوئے بہت دور تک چلے گئے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر شخص تھے اور ان کی وردی پر ایک امتیازی سرخ نشان چمکتا رہتا تھا جس کی وجہ سے جنگ میں انہیں پہچان لینا آسان ہوتا تھا لیکن جہاں کوئی دشمن انہیں پہچان کر قتل کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھتا تھا وہ خود آگے بڑھ کر ایک ہی دار میں اسے دو ٹکڑے کر دیتے تھے اور فخر سے سر بلند کیے دشمن کی اگلی صفوں میں گھستے چلے جاتے تھے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ بن المسلم نے انصار بنی سلمہ کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کیا کہ جب آنحضرت ﷺ سے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی فخریہ رجز کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کو (اپنے بندوں کے) فخر و تجتر ناپسند ہیں لیکن اس کے نزدیک ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی یہ فخریہ رجز قابل معافی ہے اور اس کی وجہ اس کا دشمن کے سامنے حسب موقع ہونا ہے۔“ (تشریحی ترجمہ)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں ابوسفیان نے اپنے لشکر کے ان علمبرداروں سے جن کا تعلق بنی عبدالدار سے تھا جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے بطور خاص یہ بھی کہا تھا:

”اے بنی عبدالدار تم نے غزوہ بدر میں اپنے علم خود ہی سرگلوں کر کے ان کی توہین کی تھی لیکن آج یہ دیکھنا ہے کہ تم ان کی عزت و توقیر کا حق کہاں تک ادا کرتے ہو۔“

اس کے جواب میں ابن عمیر داروں نے ابوسفیان سے کہا تھا:

”ہم ان کی عزت و توقیر تسلیم کرتے ہیں آپ کل دیکھ لیں گے کہ ہم نے اس کا کہاں تک لحاظ رکھا ہے۔“

ابوسفیان کے ان الفاظ سے احد میں اس کے حتمی ارادے کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی اس جنگ میں مردوں کے پیچھے ان عورتوں کے ساتھ جنہیں وہ اسی غرض سے اپنے ساتھ لائی تھی دف بجا بجا کر ان مردوں کو جنگ پر ابھار رہی تھی اور عورتوں کا وہ غول بھی اسی کی طرح دغوف بجا بجا کر اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ ہند اپنے لشکریوں کو جنگ کی ترغیب دینے کے لیے شعلہ انگیز اشعار بھی پڑھتی جاتی تھی جن کا اقتباس کچھ مؤرخین نے اپنی کتب تواریخ میں درج بھی کیا ہے۔ (مؤلف)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابودجانہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں بڑی بہادری کا ثبوت دیا تھا۔


ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ انہیں متعدد باخبر لوگوں نے بتایا کہ جب آنحضرت ﷺ نے ابودجانہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں کفار سے جنگ کے لیے اپنی ایک تلوار عطا فرمائی تھی تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی کا بیٹا ہوں اور اس رشتے سے آپ کا بہت قریبی عزیز ہوں لیکن آپ نے اپنی ایک تلوار میری بجائے نہ جانے کیوں ابودجانہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی؟ تاہم سب جانتے ہیں کہ ابودجانہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اس تلوار کا نہ صرف غزوہ احد میں حق ادا کیا بلکہ ساری زندگی مرتے مرتے اس کا اس طرح حق ادا کرتے رہے جیسا کہ خود آنحضرت ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں ابودجانہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ مشرکین قریش میں جس سے بھی ہوا انہوں نے اسے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ ابن اسحاق متعدد مستند حوالوں کے ذریعہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ اسی دوران میں ان کا مقابلہ مشرکین قریش کے ایک ایسے ماہر جنگجو سے ہوا جو اپنے مقابل کو قتل یا کم سے کم مہلک طور پر زخمی کیے بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ ابودجانہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار سے حملہ کیا تو اس نے ان کا وار خالی دے کر ان کے سر پر اپنی فولادی ڈھال مارنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنا سر بچاتے ہوئے دوسرے ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔

شعبہ اور اسرائیل دونوں نے ابی اسحاق اور ہند بنت خالد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابودجانہ رضی اللہ عنہ نے ہند بنت عتبہ کے سر پر وار کرنے کے لیے تلوار بلند کی تھی لیکن پھر نہ جانے کس خیال سے انہوں نے اپنی تلوار نیچی کر لی تھی۔

شعبہ اور اسرائیل کی بیان کردہ یہ بات میں نے کسی اور سے کبھی نہیں سنی۔ واللہ اعلم (مؤلف)

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ابودجانہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے ان کا کوئی مقابل شاید ہی کبھی اپنی جان سلامت لے گیا ہو لیکن جب کوئی عورت ان کے سامنے آئی تو وہ خواہ ان سے دو دو ہاتھ کرنے پر آمادہ ہی کیوں نہ ہوا انہوں نے اس کے خون سے آنحضرت ﷺ کی بخشش ہوئی تلوار کو آلودہ کرنا ہمیشہ اس تلوار کی عظمت و کرامت کی توہین سمجھا۔



اسے معاف کر دیا لیکن یہ بھی فرمایا:

”جا تو اب مدینے سے کہیں اور چلا جا اور مجھے کبھی اپنا منہ نہ دکھانا۔“

چنانچہ وہ مدینے سے نمٹ چلا گیا تھا اور جب وہاں سے پوچھا گیا کہ اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس طرح قتل کیا تھا تو اس نے وہی بیان کیا جس کا ذکر سطور بالا میں کیا جا چکا ہے۔ اس روایت کو متعدد مستند و ثقہ روایات نے بیان کیا ہے۔

ایک مشہور روایت یہ ہے کہ وحشی نے جنگ یمامہ کے موقع پر اپنا وہی حربہ یعنی آزمودہ خنجر سہواً اُبود جانہ رضی اللہ عنہ پر پھینکا تھا لیکن وہ بال بال بچ گئے تھے اور اس کا پھینکا ہوا خنجر سیلہ کذاب (نبوت کا جھوٹا دعویٰ دار) کے جاگتا تھا جسے قتل کرنے کے لیے اُبود جانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ رہے تھے۔ بعد میں وحشی نے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ اس کے خنجر کا نشانہ اُبود جانہ بن جاتے تو وہ ایک ”خیر الناس“ کے قتل کا مرتکب ہو جاتا لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کا نشانہ ”اشر الناس“ یعنی سیلہ کذاب بنا۔ تاہم وحشی کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا افسوس مسلمانوں کو برسوں خون کے آنسو رلاتا رہا۔ عبد اللہ بن فضل کہتے ہیں کہ انہیں سلیمان بن یسار نے بتایا کہ آخر الذکر نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ ان کے مکان کے پیچھے ایک کنیز ایک روز رو رو کر کہہ رہی تھی:

”افسوس مسلمانوں کا ایک بہترین امیر ایک جشی غلام کے ہاتھوں مارا گیا۔“

ابن ہشام کو معلوم ہوا کہ وحشی نے شراب پینا حرمت شراب کے بعد بھی نہیں چھوڑی تھی اور وہ جب زیادہ نشے میں ہو جاتا تو خلاف قیاس حرکات کرنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ انہوں نے خدا کی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کبھی مدعو نہیں کریں گے۔ جہاں تک غزوہ احد کا تعلق ہے متعدد راوی بیان کرتے ہیں کہ اس روز رسول اللہ ﷺ نے اسلامی علم پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یہ فرما کر عنایت فرمایا تھا کہ آپ وفاؤں کا صلہ ہمیشہ دیتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس پر پرچم کے ساتھ جو آپ نے انہیں دیا تھا آپ کے دوش بدوش کفار سے جنگ کر رہے تھے حتیٰ کہ وہ قتل کر دیئے گئے۔ انہیں ابن قمرہ لیشی نے قتل کیا تھا۔ وہ انہیں رسول اللہ ﷺ سمجھا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے وہ قریش کی طرف پلٹا اور بولا:

”میں نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا ہے۔“

موسیٰ بن عقبہ نے ”مغازیہ“ میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا قاتل ابی بن خلف تھا۔ واللہ اعلم (مؤلف)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اسلامی علم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا لیکن یونس بن بکیر نے ابن اسحاق ہی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سب سے پہلے اسلامی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کو دیا تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چند دوسرے مسلمانوں کو ساتھ لے کر مشرکین پر زبردست حملے کر رہے تھے۔ اسی

وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دشمن کی ایک صف کے سامنے باک باندھ کر انہیں اپنا قصہ بیان کیا اور انہیں قتل کرنے کے

زبان سے یہ نکرشکرین کی طرف سے ابوسعید بن ابی طلحہ جو مشرکین کا ممدار تھا چلا کر بولا: "اے ابوالقاصم کیا تم کوئی مبارز طلب کر رہے ہو؟" اتنا کہہ کر وہ خود ہی ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ آیا۔ اس میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان دو دو واروں کے تبادلے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے شانے پر ایک کاری ضرب لگائی لیکن پھر پلٹ کر واپس چلے آئے۔ جب ان کے بعض ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ وہ ابوسعید کو قتل کیے بغیر کیوں پلٹ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”وہ کم بخت زخم کھا کر میرے سامنے ننگا ہو گیا تھا لہذا اس بے شرم پر مجھے دوبارہ تلوار اٹھاتے شرم آگئی اسے تو (اس کے دل سے حجاب اٹھا کر) اللہ تعالیٰ نے خود ہی قتل کر دیا۔“

اسی طرح جنگ صفین میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسر بن ابی ارحط سے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی تو وہ ان کے سامنے ننگا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور وہ اس بے شرم کو بھی قتل کیے بغیر پلٹ آئے۔ یہی واقعہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ صفین کے دوران ہی میں عمرو بن عاص کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ بھی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ضرب شدید سے بچنے کے لیے تہبند کھول کر ان کے سامنے ننگا ہو گیا تھا تو اسے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر قتل کیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے سامنے سے پلٹ کر واپس چلے آئے تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ ان سے مسلمہ بن علقمہ مازنی نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان گھسان کی جنگ کے وقت رايت انصار کے نیچے تشریف فرما تھے اور اس وقت آپؐ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرما کر اسلامی علم ان کے سپرد کیا تھا۔

یونس نے ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب مشرکین کے علمدار طلحہ بن ابی طلحہ العبدری نے مسلمانوں میں سے کوئی مبارز طلب کیا تھا تو اس کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلے تھے اور انہوں نے العبدری کے اونٹ کے قریب پہنچتے ہی اس کی گردن اڑادی تھی اور جب طلحہ بن ابی طلحہ العبدری اونٹ سے نیچے گرا تو انہوں نے اس بھی ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے یہ دیکھ کر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو کلمات تحسین و آفرین سے سرفراز فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا:

”برنجی کے حواری ہوتے ہیں میرا حواری زبیر ہے۔“

اس کے بعد آپؐ نے فرمایا:

”اگر زبیر رضی اللہ عنہ اس مقابلے کے لیے نہ جاتے تو میں خود جاتا لیکن میں نے انہیں (طلحہ بن طلحہ سے) مقابلے کے لیے جاتے دیکھ لیا تھا۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی طرح غزوہ احد میں بھی قریش کے بہت سے معزز لوگ مجاہدین اسلام کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے مثلاً سعد بن ابی طلحہ کو سعد بن ابی وقاص نے قتل کیا تھا البتہ جیسے وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو چھپ کر اپنے خنجر کا نشانہ بنایا تو اس طرح یہ صحابہ کرام کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کا ذکر ان کا سر اسے

دوپے میں اٹھ لائی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو وہ بولیں کہ عاصم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر عہد کیا تھا کہ نہ تو وہ کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں گے نہ کسی مشرک کو اپنے جسم کو چھونے دیں گے لیکن انہیں (ان کی ماں کو) خوف تھا کہ اگر ان کا قاتل ان کا سراغ اٹھا کر لے گیا تو وہ ضرور ان کی کھوپڑی کو خشک کر کے ظالم مشرکین کی طرح ان میں شراب ڈال کر پئے گا۔ اس لیے میں اپنے بیٹے کا سراغ اٹھ لائی اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے بیٹے کے عہد کی لاج رکھ لی۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حظلہ بن ابی عامر جس کا اصل نام عمرو تھا لیکن عموماً عبد عمرو بن صفی کہلاتا تھا زمانہ جاہلیت میں راہب بن گیا تھا اور نصراہیوں کی طرح کثرت سے عبادت کرتا تھا لیکن رسول اللہ ﷺ کا مسیحیوں میں سب سے بڑا مخالف اور اسلام کا پکا دشمن تھا اور اسی لیے مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کا نام فاسق رکھ دیا تھا۔ حظلہ کے بارے میں مدینے کے مسیحی کہتے تھے کہ اسے پیدائش کے وقت فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اس کا تفصیلی ذکر ہم ان شاء اللہ آگے چل کر کریں گے۔ یہاں اس کا اسی قدر ذکر کافی ہے کہ اسے غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ دیکھ کر شاد بن اوس نے جو ابن شعوب کے نام سے مشہور ہیں قتل کر دیا تھا۔ اس کی لاش دیکھ کر آنحضرت ﷺ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے عزیزوں سے پوچھا جائے کہ اسے دیکھیں اور بتائیں کہ آیا اس شخص کا جسے فرشتوں نے غسل دیا ہو یہی انجام ہوتا ہے؟

واقفی کہتے ہیں کہ جب اس کی لاش اس کے باپ کے حوالے کی گئی تو اس نے اس کے سینے پر ٹھوکر مار کر کہا تھا:

”میں خدا سے رحم کا طالب ہوں اور اپنے بیٹے کے اعمال سے بری الذمہ ہوں۔“



فصل:

غزوہ احد میں امداد خداوندی

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کی مدد فرما کر اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ اپنی تلواریں سونت کر دشمن پر بجلی کی طرح گرے تو اسے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ ان سے یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد عباد بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور خود حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھیوں کی ایک کثیر تعداد لشکر کفار کے پیچھے پیچھے بنی ٹھنی ذفین بجا بجا کر اس کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں اور شاید ہم سے خوف کے باوجود ان کے لشکر کا درمیانی حصہ کسی قدر ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے لیکن ہم نے خدا کے فضل و کرم سے آگے بڑھ کر اسے نہ صرف روکا بلکہ بے دست و پا کر دیا۔ تاہم اچانک اسی وقت ان کے عقب میں کسی بد بخت دشمن نے نعرہ لگایا: ”(نعوذ باللہ) محمد (ﷺ) کو قتل کر دیا گیا۔“ زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو پلٹنا پڑا تو دشمن کے پسپا ہوتے ہوئے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ بعض عینی گواہوں کا بیان ہے کہ اس افراتفری کے باوجود اسلامی پرچم اس وقت تک گرا نہیں تھا کیونکہ اسے علمدار کے قتل ہو جانے کے بعد خدا جانے کہاں سے آ کر عمرہ بنت علقمہ حارثیہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور وہ اسے قریش کی طرف لہرا لہرا کر تکبیر کے نعرے لگا رہی تھیں لیکن جب وہ دشمن کے ریلے کے سامنے کھڑی نہ رہ سکیں تو اسلامی علم ان کے ہاتھ سے بنی ابی طلحہ کے ایک نوجوان صواب نے لے کر بلند کر لیا اور جب اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو اس نے اسے اپنے سینے اور گردن کے سہارے جہاں تک ہو سکا بلند رکھا جب دشمن کے کچھ تلوار کھینچنے اس کے سر پر آ پہنچے تو اس وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے:

”یا اللہ! میری معذرت قبول فرما لیکن کیا تو مجھے بالکل ہی معذور کر دے گا؟“

حسان بن ثابت نے عمرہ بنت علقمہ اور صواب کی ہمت و شجاعت پر کئی مدحیہ اشعار کہے ہیں۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے وہ وقت واقعی قیامت سے کم نہیں تھا کیونکہ ان کی کافی بڑی تعداد کے مرتبہ شہادت سے سرفراز ہونے کے بعد دشمن کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر خود رسول اللہ ﷺ پر دروہی سے سہی گو پھنوں کے ذریعہ پتھر پھینکنے شروع کر دیئے تھے جس نے نہ صرف آپ کا نچلا مبارک پھٹ گیا تھا بلکہ سامنے کے چار دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ کسی ملعون کا پھینکا ہوا پتھر آپ کے دائیں رخسار مبارک پر اتنی شدت سے آ کر لگا تھا کہ آپ کے مغفر (آہنی خود) کی جھلم کی چند کڑیاں اس کے استخوانی حصے میں پیوست ہو گئی تھیں جہاں سے مسلسل خون جاری تھا۔ تاہم اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے:

”یا اللہ! یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ اس کا چہرہ خون سے گلگلوں ہو رہا ہے۔“

اس کے ساتھ ہی آپؐ ان دشمنانِ خدا کو خدا کی طرف بلا رہے تھے۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ اسی وقت آنحضرت ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی تھی:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾

ابن جریر اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے محمد بن حسین احمد ابن الفضل اور اسباط نے العبدی کے حوالے سے

بیان کیا کہ اول الذکر لوگوں کو آخر الذکر نے بتایا کہ ابن قثمہ حارثی نے رسول اللہ ﷺ پر جو پتھر پھینکا تھا اسی سے آپؐ کی بنی مبارک ٹوٹ گئی تھی، آگے کے چار دن ان مبارک شہید ہو گئے تھے اور چہرہ مبارک پر سخت زخم آیا تھا۔ اس وقت آپؐ سے آپؐ کے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم الگ ہٹ گئے تھے بلکہ ان میں سے بعض لوگ وہاں سے ہٹ کر مدینے میں جا داخل ہوئے تھے اور ایک گروہ صحرا کے پہاڑ پر جا چڑھا تھا جب کہ آنحضرت ﷺ انہیں پکار پکار کر فرما رہے تھے:

”اے لوگو! میرے پاس آؤ، اے لوگو! میرے پاس آؤ۔“

آپؐ کی آواز سن کر کوئی تیس آدمی آپؐ کے قریب آئے لیکن وہاں طلحہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کے سوا کوئی ٹھہرا نہیں۔ طلحہ

نے آپؐ کی طرف بڑھتے ہوئے قریش کے لوگوں کو تیروں سے روکا۔ اور آنحضرت ﷺ کو سنبھال کر اٹھایا جب کہ دشمن آپؐ کی

طرف بڑھے چلے آ رہے تھے اور وہ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ان میں سب سے آگے ابی بن خلف عجمی تھا۔ اس نے

آنحضرت ﷺ کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ چنانچہ وہی آگے بڑھ کر بولا: ”ہو، اسے میں ہی قتل کروں گا“ اس کی زبان سے یہ سن

کر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے جھوٹے! اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟“۔ اس کے بعد آپؐ نے اپنا خود اور اس کی

جھلم اس کی طرف پھینکی جس سے وہ معمولی طور سے زخمی ہو گیا۔ مگر پھر بھی یہی رٹ لگا تا رہا ”ہو مجھے اسے قتل کر دینے دو کہیں مجھ

سے پہلے ربیعہ اور مضر اسے قتل نہ کر دیں۔“

ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ وہ آپؐ کو قتل تو کیا کرتا خود ہی چکرا کر گرا اور اس کے ساتھی اسے اٹھا کر پیچھے لے گئے اور ادھر

آپؐ کے مذکورہ بالا صحابی آپؐ کی حفاظت کے لیے برہنہ شمشیریں ہاتھ میں لیے آپؐ کے سامنے سدسکندری بنے کھڑے رہے

جب کہ آپؐ کے قتل کا دعوے دار اسی روز یا اگلے دن اسی معمول زخم سے جو اس نے آپؐ کے دست مبارک سے کھایا تھا لقمہ اجل

بن گیا۔ تاہم اس وقت ہر طرف یہی شور مچا ہوا تھا کہ رسول اللہ ﷺ قتل کر دیئے گئے اور اسی لیے اسلامی لشکر کے کچھ اصحاب صحرا

نے اعلان کر دیا کہ ان کا عبد اللہ بن ابی کے سوا کوئی رسول نہیں ہے اور وہی ابو سفیان سے ہماری جانیں بچائے گا۔ وہ چلا چلا کر یہ

بھی کہہ رہے تھے:

”محمد چونکہ قتل ہو چکے ہیں اس سے پہلے کہ وہ تمہیں قتل کرے اپنی قوم کے پاس لوٹ چلو۔“

ان کی یہ باتیں سن کر انس ابن نصر بولے:

”مسلمانو! اگر محمد (ﷺ) خدا نخواستہ قتل بھی کر دیئے گئے تو محمد (ﷺ) کا رب تو زندہ ہے جسے کوئی قتل نہیں کہہ سکتا۔ تم اب

بھی انہی سے بھاگو۔ ان (صحابہ) نے جو اسے قتل کرنے سے روکا، اسے قتل کر دیا۔ اسے قتل کرنے والے نے ان کے خلاف

جنگ کا اعلان کیا تھا۔“

اس کے بعد انس بن نصر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کی:

”یا اللہ! میں تجھ سے معافی کا طالب ہوں اور یہ دوسرے لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بری الذمہ ہوں۔“

یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تلوار کے قبضے پر مضبوطی سے ہاتھ جمایا اور دشمنوں سے لڑتے بھڑتے رسول اللہ (ﷺ) تک آ پیچھے اور اصحاب صحرہ کو بھی بلاتے رہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ انہی کا ایک ساتھی مسلمان کمان میں تیر جوڑے ایک جگہ مستعد کھڑا ہے اور کچھ دوسرے لوگ قریش کو دھکیلتے ہوئے دور تک بھگا آئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اس تیر انداز کے عقب سے آواز سنی۔ یہ آواز آنحضرت ﷺ کی تھی جو فرما رہے تھے:

”میں اللہ کا رسول یہاں ہوں۔“

آپ کی آوازیں کرانس بن نصر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دکنے لگا اور وہ مودب ہو کر آپ کے روبرو جا پیچھے۔ انہیں دیکھ کر آپ کے روئے مبارک پر بھی مسرت کے آثار نظر آئے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی جو قریشی گروہ کے دباؤ سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے وہیں آ کر جمع ہو گئے اور لشکر قریش کو پسپا ہوتے دیکھ کر خوشی سے نعرہ ہائے تکبیر بلند کرنے لگے کیونکہ اسلامی لشکر جو بظاہر قریب قریب شکست سے دوچار ہو چکا تھا اب پھر فاتح کی حیثیت سے وہاں جمع کھڑا تھا۔ اسی وقت ایک آیت جس کا مفہوم وہی تھا جو انس بن نصر آنحضرت ﷺ کے قتل کی خبر سن کر بھی دوسرے مسلمانوں خصوصاً اصحاب صحرہ کو سنا چکے تھے۔ وہ آیت یہ ہے:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان آنحضرت ﷺ کے قتل کی جھوٹی خبر سن کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا تھا اور یہ کہتا ہوا کہ ”حظلمہ کا معبود ہبل سے بڑا معبود ہے“ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس طرف بڑھ آیا تھا جہاں نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے اور وہ یہ بھی کہتا جا رہا تھا کہ قریش نے بدر کا بدلہ احد میں لے لیا ہے۔ لیکن آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہتے ہوئے کہ ”سب سے بڑا معبود خدائے واحد ہے۔“ اس پر اور اس کے ساتھیوں پر پتھروں کی بوچھاڑ کر کے انہیں بھگا دیا تھا لیکن یہ روایات محل نظر ہیں۔ (مؤلف)

ابن ہشام کہتے ہیں کہ ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سعید نے اپنے والد ابی سعید سے سن کر بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ پر پتھر پھینکنے والا عتبہ بن ابی وقاص تھا جس سے آپ کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور آپ کے نیچے ہی کے دائیں جانب کے چار دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے رخسار مبارک پر جو پتھر لگا تھا اس سے آپ کے خود کی جھلم کی دو آہنی کڑیاں اس رخسار کے استخوانی حصے میں اس طرح بیوست ہوئی تھیں کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے بیک وقت مل کر انہیں بمشکل باہر نکالا تھا جب کہ آپ کا چہرہ مبارک پہلے ہی ابولہبان ہو چکا تھا اور آپ اس گڑھے میں گر گئے تھے جو ابو عامر نے پہاڑی پر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بنایا تھا۔ آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچا تھا اور طلحہ بن عبید نے

نیچے اتر کر آپؐ کے جسم کو سہارا دیا تھا جس کے بعد آپؐ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اور مالک بن سنان ابو سعید نے آپؐ کے چہرہ مبارک سے خون صاف کر کے آپؐ کے رخسار کے زخم کی مرہم پٹی کی تھی جس پر آپؐ نے فرمایا تھا:

”جس نے میرے چہرے سے خون صاف کیا ہے اسے (دوزخ کی) آگ نہیں چھو سکے گی۔“

پھر آپؐ نے فرمایا تھا:

”جس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ کیسے فلاح پائے گی؟“

عقبہ بنی نضیر نے بتایا ہے کہ:

”جب میں آنحضرت ﷺ کی یہ حالت دیکھ کر غم سے ٹڈھال ہو گیا تھا تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ نے آپؐ

کو بٹھا کر آپؐ کے چہرے سے خون صاف کیا تھا جب کہ آپؐ کی زبان مبارک پر وہی الفاظ تھے جو مندرجہ بالا حدیث

میں بیان کیے گئے ہیں اور اسی وقت مندرجہ بالا آیت ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ..... الخ﴾ اتری تھی۔“

یہ روایت ابن جریر نے اپنی تاریخ میں لکھی ہے جو ظاہر ہے کہ ”مرسل“ ہے جسے ہم آگے چل کر ان شاء اللہ ایک الگ فصل

میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ (مؤلف)

غزوہ احد میں قلیل التعداد اسلامی لشکر کو قریش کے کثیر التعداد لشکر پر صبح کے پہلے وقت غلبہ ہو گیا تھا جس کا سب سے بڑا

ثبوت مندرجہ ذیل قرآنی آیات ہیں لیکن انہی آیات میں واقعہ کا دوسرا رخ بھی بتا دیا گیا ہے:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ..... الخ﴾

امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے عبد اللہ اور خود ان کے والد کے علاوہ سلیمان بن داؤد نے بیان کیا نیز انہیں عبد الرحمن بن

ابی زناد نے اپنے والد عبید اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول سنایا: اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر

کسی اور قوم کی اتنی مدد نہ فرمائی ہوگی، جتنی احد میں اس نے فرمائی لیکن درحقیقت ہم نے اس کے رسول کا حکم نہ مان کر کفران نعمت

کیا جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾

اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ﴾

اور یہ بھی کہ:

﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان آیات کا حوالہ دے کر ان واقعات کی طرف صاف اشارہ کیا ہے کہ پہلے مسلمان اللہ تعالیٰ کے

فضل و کرم سے اس کے حسب وعدہ دشمن پر غالب آ گئے تھے لیکن بعد میں جب ان کی غفلت و نادانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول کے صاف صاف احکام جو نبی ان کے ذہن سے اترے تو انہوں نے خود جیتی بازی ہار دی لیکن خدائے رحمن و رحیم نے

انہیں معاف فرما کر آخر میں ان کی شکست اپنے فضل و کرم سے پھر فتح میں بدل دی جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خود بیان کیا ہے:

”آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کے مسورے سے مجاہدین اسلام میں سے چیدہ چیدہ تیر اندازوں کا ایک گروہ قریش اور لشکر اسلام سے درمیان ایک خاص نقطہ پہاڑی پر منتر فرمایا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کو دشمن پر غالب آتا دیکھیں تو نہ تیر اندازی کریں نہ بیازمی سے اتر کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں لیکن اگر مسلمان دشمن کی یلغار کے سامنے خدا نواستا پسپا ہونے لگیں تو وہ اس پر تیر اندازی کر کے اسے آگے بڑھنے سے روکیں لیکن انہوں نے جب لشکر قریش کو اسلامی لشکر کے سامنے سے فرار ہوتے دیکھا اور ساتھ ہی قریش کی ان عورتوں کے جو اپنے لشکر کی دف بجا بجا کر حوصلہ افزائی کر رہی تھیں چمکتے دکھتے قیمتی زیورات دیکھے تو انہوں نے انجام سے بے پروا ہو کر ”الغنیۃ الغنیۃ“ (مال غنیمت مال غنیمت) کہتے ہوئے مقررہ جگہ پھوڑ دی۔ یہ نبی کریم ﷺ کے حکم کی صریحی خلاف ورزی تھی جس کا وہی نتیجہ ہوا جو ہونا تھا۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ دوسرے متعدد معاصر ثقہ راویوں کے حوالے سے تاریخ اسلام کے جن مستند مؤرخین نے غزوہ احد کے بارے میں تاریخ نویسی کے میدان میں واقعہ نگاری اور حقیقت طرازی و حقائق پروری کا حق ادا کیا ہے ان سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس اسلامی جنگ میں جب مسلمان خدا و رسول ﷺ کے بالترتیب وعدے اور بشارت سے جو نبی چشم پوشی کے مرتکب ہوئے تو انہیں قدرتی طور پر اس ایسے سے دوچار ہونا پڑا جس کا ذکر سطور بالا میں کیا جا چکا ہے۔

ابن جریر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اس مخصوص گروہ نے جنہیں آنحضرت ﷺ نے موقع محل کے لحاظ سے دشمن پر تیر اندازی کا حکم دیا تھا اور لشکر اسلام کی پیش قدمی کے نتیجے میں لشکر کفار کی پسپائی کے وقت اپنی متعینہ جگہ چھوڑنے کی صریحی ممانعت فرمائی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ لشکر اسلام کے بہادر دولاہ و غازیوں نے خدا کی راہ میں بڑھ بڑھ کر دشمنان اسلام کے کشتوں کے پستے لگا دیئے ہیں اور وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور مجاہدین اسلام ان کا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ ہوس مال و زر کا شکار ہو گئے اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اپنی پہاڑی کمین گاہ سے نبی کریم ﷺ کے حکم کے خلاف ”الغنیۃ الغنیۃ“ کہتے ہوئے نیچے اتر کر قریش کی ان عورتوں کے قیمتی زیورات کی طرف لپکے جو اپنے لشکر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھیں اور قریش کے کچھ جنگی آرمودہ کار لوگوں نے بھاگتے بھاگتے ایک طرف ہٹ کر یہ تماشا دیکھا تو انہوں نے اپنے بے تحاشہ بھاگتے ہوئے ساتھیوں کو عربی غیرت و حمیت کا واسطہ دے کر روکا اور جب وہ جوش میں آ کر پلٹے تو مسلمانوں کی اس مکمل جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی اس حفاظتی جماعت کے اکثر لوگ شہید ہو گئے جو اس پہاڑی کے دامن میں تھے جس پر نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے۔ اس کے علاوہ کئی مشہور روایات یہ ہیں کہ قریش کے اس گروہ کے علاوہ جو اس رات سے مذکورہ بالا پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کافی طویل چکر لگا کر اس پہاڑی کے پچھلے دامن میں وہاں پہنچا تھا جس کا کسی گومان تک نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ لشکر قریش کی اکثریت تو سامنے کی طرف سے پہلے ہی فرار ہو چکی تھی۔ بہر کیف جب مفرور ہوتے ہوئے لشکر قریش کا یہ آخر الذکر گروہ اس پہاڑی کی چوٹی کے قریب پہنچا اور ان میں سے ایک شخص کی سنگ باری سے جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے ساتھ مذکورہ بالا

دردناک واقعہ پیش آیا اور اس کے ساتھ ہی کسی طرف وہ آواز آئی کہ (نعوذ باللہ) آنحضرت ﷺ کو قتل کر دیا گیا ہے تو جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے وہاں موجود مسلمان بھی منتشر ہو گئے اور ان میں سے با ستائے چند بہت سے لوگوں نے مدینے پہنچ کر دم لیا۔ تاہم کچھ اہل ایمان جن کے نہ صرف کانوں بلکہ گوشائے دل تک آنحضرت ﷺ کی مکرر آواز یا ایہا الناس الی یا ایہا الناس الی (اے لوگو! میری طرف آؤ اے لوگو! میری طرف آؤ) جا بچتی تو ان کے علاوہ جنہوں نے آپ کو گڑھے سے نکالا تھا اور آپ کی خدمت میں لگ گئے تھے وہ بھی جو ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے آپ کے گرد پیش آ کر جمع ہو گئے اور اس دوسرے گروہ کو پہاڑی کے نیچے دھکیل کر چھوڑا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے قتل کی افواہ کسی شک و شبہ کے بغیر شیطان مردود کی اڑائی ہوئی تھی جس کے بعد ابوسفیان نے جو پہلے بھاگتے ہوئے پہلے گروہ کے ساتھ پلٹ آیا تھا پکار کر کہا: ”اے مسلمانو! کیا تم میں محمد (ﷺ) ہیں؟“ لیکن آپ نے اپنے پاس موجود صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا اور جب اس نے اس طرف خاموشی پائی تو خود ہی بولا: ”ارے محمدؐ تو قتل ہو چکے ہیں۔“ پھر اس نے آواز دی: ”ابن ابی کوشہ کہاں ہے؟ اے ابن ابی قحافہ اور اے ابن خطاب تم کہاں ہو؟“ لیکن ادھر سے جب کوئی جواب نہ ملا تو خوش ہو کر بولا: ”تو تم بھی سب ختم ہو گئے۔“ مسلم کے علاوہ بخاری بھی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو ابوسفیان کو جواب دینے سے روک دیا تھا لیکن اس کے اسی سوال کو بار بار دہرانے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے اسے بلند آواز سے جواب دیا: ”اے ملعون! ہم سب یہاں موجود ہیں۔“ اس پر وہ بولا: ”تم نے دیکھا کہ ہمارا معبود تیل کتنا عظیم ہے کہ اس نے بدر کا بدلہ ہمیں یہیں دلا دیا“ ابوسفیان کی زبان سے یہ کلمات سن کر آنحضرت ﷺ نے اپنے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اب تم اسے جواب دو کہ بڑا تو خدائے واحد ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“ (حدیث کا مفہوم)

کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جن لوگوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا اگرچہ ان کی مجموعی تعداد بارہ سے زیادہ نہیں تھی لیکن انہوں سے ہی خدا کا نام لے کر قریش کے دونوں گروہوں کو پہاڑی سے نیچے دھکیل دیا تھا اور اس کے بعد جب مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دوسرے گروہ جو پہلے آپ کے قتل کی خبر سن کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے نہ امت محسوس کرتے ہوئے دوبارہ از سر نو جذبہ ایمانی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے تو انہوں نے نعرہ ہائے تکبیر بلند کر کے قریش کے مذکورہ بالا دونوں گروہوں پر پے در پے ایسے بے نظیر حملے کیے کہ انہیں ایک بار پھر بھاگتے ہی بن پڑی اور اس طرح مندرجہ بالا قرآنی آیت کے آخری حصے کے الفاظ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پہلی لغزش کو معاف فرما دیا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین پر مہربانی فرمانے والا ہے صداقت کی تصویر بن کر مجاہدین اسلام کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔



فصل:

ام عمارہ کا بیان

ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ ام عمارہ نسیبہ بنت کعب مازنیہ غزوہ احد میں شریک تھیں۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہیں سعید ابن ابی زید انصاری نے بتایا کہ ام سعد بنت سعد بن ربیع نے ام عمارہ سے ایک روز کہا کہ وہ غزوہ احد کا کچھ حال جس میں وہ شریک تھیں کچھ انہیں بھی سنائیں تو وہ یعنی ام عمارہ بولیں:

”میں صبح ہی صبح احد میں جا پہنچی تھی اور میرے پاس جو دو مشکیں تھیں ان میں پانی بھر بھر کر دہاں لے جا رہی تھی، جہاں رسول اللہ (ﷺ) تشریف فرما تھے میں نے دیکھا کہ آپ کے گرد و پیش جمع تھے وہ بڑے چاق و چوبند اور خوش نظر آ رہے تھے لیکن جب اچھی خاصی فح کے بعد بد قسمتی سے مسلمانوں کو نہ جانے کیوں کفار کے تعاقب میں جاتے جاتے پسا ہونا پڑا تو میں نے دیکھا کہ کفار کے کچھ لوگ اس پہاڑی تک جا پہنچے ہیں اور وہاں لڑائی ہو رہی ہے جہاں رسول اللہ (ﷺ) تشریف فرما تھے۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ اس پہاڑی سے مسلمانوں نے دشمن کو نیچے دھکیل دیا ہے اور وہ دم دبا کر پھر بھاگ رہا ہے تو میں ایک بار پھر کسی نہ کسی طرح پانی لے کر پھر اس پہاڑی پر جا پہنچی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ (ﷺ) سخت زخمی ہیں اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس کھڑے ہیں میں نے ابن قمرہ سے خدا انہیں سلامت رکھے پوچھا کہ نبی کریم (ﷺ) کو یہ زخم کیسے آئے تو وہ بولے کہ ”مشرکین کے کچھ لوگ اس پہاڑی پر اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اوپر کی طرف سنگباری بھی کرتے جا رہے تھے انہی میں سے ایک ملعون کا پتھر رسول اللہ (ﷺ) کے رخسار مبارک پر اتنی زور سے لگا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے۔“ اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تلوار لے کر اس شخص کی طرف چھپے جس نے آنحضرت (ﷺ) کا نشانہ لے کر ایک اونچے پتھر کی آڑ سے آپ پر ایک کافی بڑا پتھر پھینکا تھا اور اس کے تلوار بھی ماری۔ انہی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے لوگوں نے جن میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اس پر حملہ کیا لیکن وہ کبخت دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا۔ تاہم ہمارے حملوں سے وہ اور اس کے ساتھی نیچے بھاگ گئے۔ اس کے بعد ابن قمرہ نے بھی بتایا کہ رسول اللہ (ﷺ) نے جب مسلمانوں کو آواز دے کر اپنے قریب بلایا تو وہ لوگ بھاگ چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی جو آپ کے قتل کی آواز سن کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے لوٹ آئے اور ان سب نے مل کر دوبارہ دشمن پر حملہ کیا تو وہ پھر بھاگ نکلے اور اب تم دیکھ رہی ہو کہ وہ پہلے ہی کی طرح کس تیزی سے دم دبا کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ام عمارہ نے ام سعد کو بتایا کہ ابن قمرہ کی زبانی یہ سب باتیں سن کر اور دشمن کو پھر پسا ہوتے دیکھ کر وہ مطمئن ہو کر وہاں سے نیچے چلی آئیں۔

ابن ہشام ہی نے بتایا ہے کہ مشرکین پر دوبارہ حملے کے لیے مسلمانوں کو جس شخص نے دوبارہ جمع کر کے اس افواہ کے باوجود کہ رسول اللہ (ﷺ) کو دشمنوں نے قتل کر دیا ہے ان کی قیادت کی تھی وہ انس کے چچا انس بن مالک تھے۔ اس لڑائی میں ان

کے جسم پر سات زخم آئے تھے جب کہ انس بن نضر کو ستر زخم آئے تھے اور انہیں ان کی بہن نے مسئل سے پیچا نا تھا۔
 کہا جاتا ہے کہ جب مہاجرین و انصار میں سے عمر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما وغیرہ نے مشرکین کے دوسرے حملے کے بعد
 ادھ اُدھ منتشر ہونے والے مسلمانوں سے ٹھہرنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے جواباً کہا تھا: ب رسول اللہ (ﷺ) ہی قتل کر دیئے
 گئے تو اب ہم ٹھہر کر کیا کریں گے؟ اس پر ان لوگوں نے ان سے کہا تھا:
 ”جس بات کی وجہ سے نبی کریم ﷺ مشرکین کے مقابلے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے تم بھی اسی کے لیے ان
 کافروں سے جنگ کرو۔“

ابن ہشام کہتے ہیں کہ انہیں کچھ باخبر لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ کفار سے مقابلے میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کم سے کم
 دس شدید زخم آئے تھے۔



فصل:

غزوہ احد میں مسلمانوں کو پیش آمدہ حوادث

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں کچھ مسلمانوں کی اپنی غفلت سے مکمل فتح کے بعد انہیں جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں زہری نے ان سے بیان کیا کہ اس افراد فری میں جب کہ ہر طرف رسول اللہ (ﷺ) قتل ہو گئے۔ کاشورج رہا تھا سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے مغفر کے نیچے نبی کریم ﷺ کی روشن ترین آنکھوں کی چمک سے آپ کو پہچانا اور اس لیے انہوں نے بہ آواز بلند پکار کر کہا:

”اے مسلمانو! رسول اللہ (ﷺ) تو یہ رہے۔“

زہری نے ابن اسحاق سے بیان کیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر آنحضرت ﷺ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا لیکن ان کی پہلی ہی آواز پر بہت سے مسلمان اس گڑھے کے گرد جمع ہو گئے تھے جہاں آپ پتھر کی چوٹ سے زخمی ہو کر گر گئے تھے۔ ان لوگوں میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، حارث بن صمد اور کچھ دوسرے ممتاز مجاہدین و انصار رضی اللہ عنہم شامل تھے۔

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے مزید بیان کیا کہ جب رسول اللہ (ﷺ) کو اس گڑھے سے نکالا اور اٹھا کر بٹھا دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتھر مار کر زخمی کرنے والا ابی بن خلف تھا۔ یاد رہے کہ ابی بن خلف نے مکے میں ایک بار آپ سے کہا تھا:

”اے محمد! اگر مجھے سوار کے لیے کوئی گھوڑا مل گیا تو میں اسے بلا غانا اتنا گھاس دانہ کھلاؤں گا کہ وہ خوب تو مند اور چست ہو جائے پھر میں اس پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں گا۔“

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا:

”تو دیکھ لینا کہ ایک دن ان شاء اللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔“

کہا جاتا ہے کہ مکے ہی میں ایک روز اس کے حلق میں کوئی چھوٹی سی ہڈی یا کوئی ایسی ہی چیز اٹک گئی تھی جس سے اس کا دم گھٹتے گھٹتے رہ گیا تھا لیکن اس چیز نے اس کے گلے میں ایسی خراش ڈال دی تھی جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ تکلیف رہتی تھی اور وہ کہا کرتا تھا: ”اے محمد! تو نے واقعی مجھے قتل کر دیا۔“

تاہم قریش اسے بہلا پھسلا کر اور یہ کہہ کر کہ وہ کافی تندرست و توانا ہے اُحد میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لے آئے تھے لیکن اس بزدل کو گھوڑا تو کیا نصیب ہوتا پھر بھی اس نے اپنا کہا پورا کرنے کے لیے نبی کریم پر بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر پتھر سے حملہ کر دیا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب قریش بدر کی طرح اُحد میں بھی ناکامی سے دوچار ہو کر مکے کی طرف لوٹ رہے تھے تو ابی بن خلف راستے ہی میں مر گیا تھا اور مرتے وقت بھی اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے: ”اے محمد! تو نے واقعی مجھے قتل کر

دیا ہے۔

اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے سان بن ثابت رضی اللہ عنہما نے ابی بن خلف کی بد انجامی اور کیفر لردار کو پہنچنے کے بارے میں دو جگہ متعدد اشعار کہے ہیں۔ (مؤلف)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جس گہرے گڑھے میں آنحضرت ﷺ رخصی ہو کر گر گئے تھے اس کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہاں سے نکالا اور آپ کو پلانے کے لیے خود مہر اس سے اتنا پانی لائے کہ انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک سے خون صاف کر کے زخموں کو بھی صاف کر دیا۔ اس سے آپ کے جسم میں کسی قدر توانائی آگئی، تاہم آپ پھر بھی خود اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے چہرے سے خون صاف کرتے وقت کہتے جا رہے تھے:

”اللہ تعالیٰ ان کمینوں کو اپنے غضب کا نشانہ بنائے جنہوں نے اپنے نبی ﷺ کا یہ حال کیا ہے۔“

ان جملہ واقعات کا ہم صحیح احادیث کے حوالے سے کافی ذکر کر چکے ہیں۔ (مؤلف)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جس پہاڑی پر نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے اور جہاں ہم لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے وہاں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی آنے کی کوشش کی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے مل کر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرما رہے تھے:

”یا اللہ! ان لوگوں (دشمنوں) کو ہمارے قریب نہ آنے دینا۔“

ابن ہشام نے بیان کیا اور عفرہ کے غلام عمر نے بھی بتایا کہ جب آنحضرت ﷺ کو احد کے پہاڑ سے اتار کر صحرہ میں لایا گیا تو آپ کے جسم مبارک سے دوہری زرہ اتارنا سخت مشکل تھا۔ تاہم طلحہ ابن عبید اللہ نے آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر آہستہ آہستہ نرمی سے وہ زرہ اتار لی تو آپ نے فرمایا:

”میں نے طلحہ بن عبید اللہ کی (پر محبت) خدمت قبول کر لی ہے۔“

اس روایت کے راویوں میں یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ان کے والد عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور خود حضرت

زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ (مؤلف)

ابن ہشام اور عفرہ کے غلام عمر نے مزید بیان کیا کہ بنی صحرہ میں آنحضرت ﷺ کی قیادت میں مسلمانوں نے نماز ظہر ادا کی تو انہوں نے وہاں ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جسے وہ پہچانتے نہیں تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص قزمان کے نام سے مشہور تھا اور یہ کہ وہ بہت تو مومن اور بہادر تھا نیز یہ کہ اس نے جنگ احد میں تہا قریش کے سات آٹھ آدمیوں کو قتل کیا تھا لیکن جب اس کا ذکر آنحضرت ﷺ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ”جہنی“ ہے۔ یہ خبر جب قزمان کو جسے خود بھی احد کی لڑائی میں کافی زخم آئے تھے دی گئی تو وہ بولا:

”کاش میں اپنی ہی قوم کے اتنے آدمیوں کو قتل نہ کرتا۔“

مذکورہ راوی بیان کرتے ہیں کہ قزمان نے جب اسے میدان جنگ سے اٹھا کر بنی ظفر کے گھر لایا گیا تھا تو اس نے یہ الفاظ

لئے تھے اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر اپنے ہی نخر سے خودکشی کر لی تھی اور اس طرح نبی کریم ﷺ کا استاد اس کے بارے میں صحیح نکلا۔

غزوہ خیبر میں ایک ایسے ہی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس کی تفصیل بہمان شاہ اللہ آگے چل کر حسب موقع بیان کریں گے۔ (مؤلف)

ویسے امام احمد نے فرمایا کہ ان سے عبدالرزاق اور معمر نے زہری، مسیب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے جنہوں نے غزوہ خیبر میں شرکت کی تھی بیان کیا کہ وہاں بھی قزمان جیسا ایک شخص تھا جسے مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا اور اس نے لڑائی میں بھی بڑی جرات و ہمت کا مظاہرہ کیا تھا لیکن آنحضرت ﷺ نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے اور جب وہ زخمی ہو کر میدان جنگ سے لوٹا تو بظاہر اس کے زخم مہلک نہیں تھے لیکن انہی معمولی زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ جب اس کی خبر نبی کریم ﷺ کو دی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ اکبر! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔“

پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ”الی النار“ یعنی یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ:

”مسلمان ہوئے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا ویسے اہل ایمان (کی تعداد) میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر لوگوں کو بھی ان میں ملا دیتا ہے۔“

یہاں غزوہ خیبر کے حوالے سے جیسا کہ صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں عبدالرزاق کی زبانی ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہاں جنگ کے موقع پر ایک یہودی نے خیبر کے دوسرے یہودیوں سے کہا تھا:

”میں محمد کی طرف سے لڑائی میں حصہ لوں گا۔“

اس پر یہودی بولے تھے:

”آج تو سپر کا دن ہے، کیا تو سپر کے دن بھی لڑائی میں حصہ لے گا؟“

اس کے جواب میں اس نے کہا تھا:

”تمہارا کوئی سپر نہیں ہے ویسے محمد ﷺ کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو آج جنگ کریں اور نہ چاہیں تو نہ کریں۔“

پھر اپنے قول کے مطابق وہ پہلے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور پھر مسلمانوں کے دوش بدوش یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا تھا۔ مذکورہ بالا راویوں نے بیان کیا ہے کہ اس یہودی کا نام مخزق تھا اور وہ بنی ثعلبہ بن غیطون کا ایک فرد تھا۔ جب اس کے قتل کی خبر نبی کریم ﷺ کو دی گئی تو آپ نے فرمایا:

”مخزق یہودیوں میں بھلا آدمی تھا۔“

بہر حال مذکورہ بالا راویوں کے بقول فتح خیبر کے بعد مخزق کا مال مسلمانوں میں بطور مال غنیمت تقسیم کرنے کے بجائے

مدینے لایا گیا تھا اور وہاں ایک وقف قائم کیا گیا تھا جو محمد بن کعب قرظی کے بیان کے مطابق اسلام میں پہلا وقف تھا۔

اسی طرح ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے حصین بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ نے ابی سفیان کے غلام ابن ابی احمد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے ہونے سے بیان کیا کہ ایک اور شخص تھا جو نہ کبھی نماز میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوا تھا نہ اس کے کسی طرز عمل سے اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہوتا تھا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے لوگ مرنے کے بعد جنتی کہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ اس شخص کو نہیں پہچانتے تھے اس لیے انہوں نے کسی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی یہودی تھا اور اس کا نام اصیرم بنی عبد الاشہل عمرو بن ثابت ابن وقش تھا۔ حصین نے لوگوں کے اسے جنتی بتانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے محمود بن اسد سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اصیرم غزوہ بدر سے قبل ہی اسلام کی طرف راغب تھا اور پھر جب جنگ بدر شروع ہوئی تو وہ بھی پہلے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہو گیا۔

حصین محمود بن اسد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اصیرم مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے خلاف خیبر میں بڑی بہادری سے لڑا تھا اور زخم پر زخم کھا رہا تھا تو اچانک کسی یہودی جنگجو نے اس کے سامنے آ کر کہا:

”اصیرم! تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنی ہی قوم سے لڑ رہا ہے، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟“

اس سوال پر اصیرم نے برجستہ جواب دیا:

”ہاں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب یہاں میرا حال جو ہو سو ہو اور میرا حشر جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔“

یہ تو کہیں نہیں بتایا گیا کہ اصیرم کی وفات مسلمانوں میں ہوئی تھی یا یہودیوں کے پاس جا کر لیکن جب اس کی موت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور یہی بات پھر مشہور ہو گئی تھی۔

غزوہ احد کے موقع پر اسی قسم کے ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بنی سلمہ کے کچھ شیوخ کے حوالے سے بیان کیا کہ مدینے میں ایک شخص عمرو بن جموح کے ایک پاؤں میں اس قدر لنگ تھا کہ وہ لنگڑا کر بھی مشکل سے چل سکتا تھا لیکن چونکہ وہ غزوہ احد میں شرکت پر مصر تھا اس لیے اس کے چاروں بیٹوں نے اسے یہ کہہ کر مجبوس کر دیا تھا کہ معذروں پر جہاد میں شرکت لازمی نہیں ہے لیکن اس نے اصرار کیا کہ اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا جائے اور اگر آپ اسے اس جہاد میں شرکت سے منع فرمادیں گے تو پھر وہ آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس جہاد میں شرکت پر اصرار نہیں کرے گا۔ چنانچہ اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور آپ نے بھی اس سے یہی فرمایا کہ:

”اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت تم ایسے معذروں پر جہاد میں شرکت لازمی نہیں ہے۔“

تاہم اس نے آپ سے عاجزانہ عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) آپ مجھے اس معذوری کے باوجود جنت کے حق سے کیوں محروم فرماتے ہیں؟“

اس کی زبان سے یہ کلمات کہے اور آپ نے اس کے بیٹوں سے فرمایا:

”تمہیں اس کو روکنے کا بھلا کیا حق ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اسے رتبہ شہادت سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے؟“۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کے بعد وہ غزوہ احد میں شریک ہوا اور شہادت پائی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ہند بنت عتبہؓ نے حضرت حمزہؓ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ اپنے خدم و حشم کے ساتھ و شیوں کی طرح دوڑتی ہوئی ان کی شہادت گاہ تک چلی آئی اور ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور اسے چبا کر نگلنا چاہتی تھی لیکن جب وہ اس سے نکلنا نہ گیا تو اس نے اسے چبا کر تھوک دیا۔ لیکن موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ خود وحشی نے حضرت حمزہؓ کی کلیجہ ان کا سینہ چاک کر کے نکالا تھا اور اسے ہند کے پاس لے گیا تھا تو پہلے اس نے اسے چبا کر نگلنے کی کوشش کی تھی لیکن جب اس سے نکلنا نہ گیا تو اس نے اسے چبا کر تھوک دیا تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کی اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے جب قریش کو پسپا ہوتے ہوئے بھی پلٹ کر اس پہاڑی کے نیچے تک آنے کا موقع مل گیا تھا جس کے اوپر نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے اور ابوسفیان نے یہ افواہ سنی تھی کہ (خدا نخواستہ) آنحضرت ﷺ کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس نے نیچے ہی سے پکار کر حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے کہا تھا:

”اے عمر بن خطاب! تم نے دیکھا کہ ہمارا معبود بہل کتنا عظیم ہے، اس نے ہمارے ہاتھوں آخر محمد (ﷺ) کو قتل کرا دیا۔“

ابوسفیان کی یہ لاف زنی سن کر رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو حکم دیا تھا کہ ابوسفیان سے کہہ دیا جائے کہ:

”اللہ کا رسول (ﷺ) یہاں موجود ہے اور عظیم ترین ذات اس خدائے واحد کی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔“

جب حضرت عمرؓ نے آپ کے حکم کے مطابق ابوسفیان کو یہ جواب دیا تو وہ شرمندہ ہو کر بولا:

”اچھی بات ہے، یہاں نہ سہی ہم بدر کا بدلہ تم لوگوں سے کہیں نہ کہیں ضرور لیں گے۔“

حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کے حکم سے اسے جواب دیا:

”ہم تم سے ہر جگہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔“

حضرت عمرؓ نے ابوسفیان کو اپنا سامنے لے کر رہ گیا اور لشکر قریش کو چاروں طرف کی طرف واپسی کا حکم

دے دیا۔



غزوہ اُحد میں نبی کریم ﷺ کی دعائیں

امام احمدؒ بیان فرماتے ہیں کہ انہیں مروان بن معاویہ الغراری اور عبدالواحد بن ایمن مکی نے ابن رفاعہ زرتی اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ (ﷺ) غزوہ اُحد کے روز طلوع سحر سے لے کر آخِر وقت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت و سلامتی کی دعائیں فرماتے رہے اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، جب آپؐ ایک دشمن اسلام کے پتھر لگنے سے شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے اور آپؐ کے چار دندان مبارک شہید ہونے کے علاوہ آپؐ کے خود کی دو کڑیاں آپؐ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو کر اندرونی استخوان میں جا بیٹھی تھیں جنہیں آپؐ کے دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے مل کر وہاں سے باہر نکالا تھا اور اس وقت اس زخم کے خون نے آپؐ کے پورے چہرہ مبارک کو تر کر دیا تھا اور اس کے علاوہ آپؐ کے نیچے کے مسوڑھوں سے بھی مسلسل خون جاری تھا اس وقت بھی آپؐ کے شکاف یافتہ لبہائے مبارک پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا شکر ہی تھا اور آخر میں آپؐ نے صرف اتنا فرمایا تھا:

”یا اللہ! یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔“

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رحمتِ عالم (ﷺ) کو ایسی حالت میں بھی نہ صرف عربی قوم بلکہ اس کے حوالے سے تمام بنی نوع انسان کی فلاح کی فکر لاحق تھی اور آپؐ اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے متمنی تھے۔



فصل:

شہداء و مجروحین اُحد کی تلاش

ابن اسحاق غزوہ اُحد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن ابن ابی سعصعہ الازنی بنی نجار کے بھائی نے بیان کیا کہ غزوہ اُحد کے اختتام کے فوراً بعد آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا کہ میدان جنگ میں جا کر یہ معلوم کر کے کون آئے گا کہ سعد ابن ربیع زخمیوں میں ہیں یا شہید ہو گئے؟ آپ کے اس سوال کے جواب میں انصار میں سے ایک شخص اٹھ کر بولا: ”حضور! یہ کام میں کروں گا۔“ چنانچہ وہ شخص جب میدان جنگ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ سعد بن ربیع سخت زخمی حالت میں ہیں اور ان میں زندگی کی معمولی سی رمت باقی ہے۔ اس شخص نے سعد بن ربیع سے ان کے قریب جھک کر ان سے وہی کہہ دیا جو کچھ آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا تھا۔ اس سے یہ سن کر ابن ربیع بولے:

”تم دیکھ رہے ہو کہ میں اب اپنی جان جان آفریں کے سپرد کرنے والا ہوں لہذا تم حضور نبی کریم ﷺ سے میرے سلام کے بعد عرض کر دینا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی امت کی خیر خواہی کی وہی جزا دے جس کا ایک نبی اس کے لیے مستحق ہوتا ہے۔ تم اپنی قوم یعنی سب مسلمانوں سے بھی میرا سلام کہنا اور انہیں میرا یہ پیغام دینا کہ اگر ان میں سے کسی نے اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص و وفاداری میں ذرا بھی کمی کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔“

اتنا کہہ کر ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی سانس اکھڑ گئی اور ان کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد اس شخص نے آنحضرت ﷺ اور اپنے مسلمان ساتھیوں کے پاس واپس آ کر وہ تمام باتیں دہرائیں جو اس نے سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی زبان سے ان کے آخری وقت سنی تھیں۔

محمد بن عمرو اقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جس شخص کو سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی بابت خبر لانے کے لیے بھیجا تھا وہ محمد بن سلمہ تھے۔ انہوں نے میدان جنگ میں جا کر انہیں زخمی حالت میں ڈھونڈ نکالا تھا لیکن دوبار آواز دینے کے بعد بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن جب انہوں نے ان سے کسی قدر بلند آواز میں یہ کہا کہ انہیں حضور نے ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے تو انہوں نے بڑی کمزور آواز میں آہستہ آہستہ وہی کہا تھا جس کا پہلے ذکر آچکا ہے۔

متعدد مستند روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزوہ اُحد کے اختتام کے بعد آنحضرت ﷺ نے پورے میدان جنگ کا یہ نفس نغیس ایک چکر لگا کر شہداء کو دیکھا تھا اور ان کے حق میں کلماتِ تحسین کے بعد دعا فرمائی تھی اور انہی شہدائے اُحد کے بارے میں مسلمانوں کی ہدایت پر مشتمل یہ آیت نازل ہوئی تھی:

﴿وَإِن عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

ابن اسحاق اس آیت کے بارے میں برمد بن سفیان بن عمرو سلمی اور محمد بن کعب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ:

”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے انتہائی صبر و تحمل کا ثبوت دیا اور دشمن کی لاشوں کو جیسا کہ عرب میں دستور تھا مثلہ کرنے کی بھی مسلمانوں کو ممانعت فرمادی تھی۔“
یہ آیت کئی ہے ہذا سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے واقعہ اُمد سے کس طرح مربوط کیا جاسکتا ہے۔ (مؤلف)
ابن ہشام کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر آ کر ٹھہرے تو اسے دیکھ کر آپ نے (پچھتم تر) فرمایا کہ:

”ایسی مصیبت جیسی حمزہ (رضی اللہ عنہ) پر پڑی دنیا میں کسی پر نہ پڑی ہوگی۔“

آپ کو اتنا غصہ کسی اور کی لاش دیکھ کر نہیں آیا جس قدر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش دیکھ کر آیا، تاہم آپ نے فرمایا:

”جبریل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر بتایا ہے کہ (اللہ تعالیٰ کے حکم سے) ساتویں آسمان پر ”حمزہ بن عبدالمطلب اسد اللہ“

اسد الرسول“ لکھ دیا گیا ہے۔“

ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابوسلمہ بن عبدالاسد رضاعی (دودھ شریک) بھائی تھے۔ ان دونوں کو ابی لہب

کی کنیز ثویبہ نے (ایک ساتھ) تین مہینے دودھ پلایا تھا۔



حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے احد کی نماز جنازہ

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے متعدد اشخاص نے مقسم اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش ڈھوپ سے سائے میں منگوا کر سات تکبیروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح آپ نے دیگر شہدائے احد میں سے ہر شہید کی نماز جنازہ کیے بعد دیگرے پڑھائی اور یوں آپ نے الگ الگ لیکن مجموعی بہتر نمازیں پڑھائیں۔

میرے نزدیک یہ روایت غریب اور اس کی سند ضعیف ہے۔ (مؤلف)

سبیلی کہتے ہیں کہ یہ بات علمائے اصرار میں سے کسی فرد واحد نے نہیں بتائی۔ بہر کیف غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے عفان، حماد اور عطاء بن سائب نے شعیب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ اس جنگ میں خواتین مجاہدین اسلام کے پیچھے پیچھے لیکن جہاں تک ہو سکا ان کے قریب رہیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی اور حسب ضرورت بلا امتیاز ان کی مرہم پٹی بھی کرتی رہیں کیونکہ اس وقت انہیں دنیا اور دنیاوی رشتوں کا مطلق خیال نہیں تھا اور مندرجہ ذیل آیت میں اللہ جل شانہ نے مخلص مجاہدین اسلام اور ان مسلمانوں کے علاوہ جو غفلت اور حکم رسول کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے کے (غالباً) انہی بے لوث خواتین کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ الخ ﴾

احد میں جو لوگ حکم رسول کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے اور جن کی لغزش سے مسلمانوں کی فتح عارضی طور پر بظاہر شکست میں بدل گئی تھی ان میں سے سات انصار اور دو مہاجر تھے اور ساتوں انصار کفار کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ شاید اسی لیے آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کو دشمن کی یلغار روکنے کے لیے تیر اندازی پر مقرر کیا گیا تھا اگر انصار مہاجرین میں سے ان کی تعداد مساوی ہوتی تو بہتر تھا۔

ابوسفیان نے جو کچھ کہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسے جو جوابات دیئے تھے اس کا ذکر پہلے آچکا ہے لیکن بعض دوسری مستند روایات سے معلوم ہوا کہ ابوسفیان نے یہ بھی کہا تھا کہ:

”ذرا حمزہ (رضی اللہ عنہ) کی لاش پر تو نظر ڈالو ہند بنت عتبہ نے اس کا کلیجہ نکال کر چھایا لیکن افسوس کہ وہ اسے نکل نہ سکی۔“

اس جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کے حکم سے آپ ہی کے الفاظ میں یہ دیا تھا:

”ہند حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ اس لیے نہ نکل سکی کہ اس کے جسم کے ساتھ حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کو آتش و دوزخ

میں جلا منظور نہیں تھی۔“

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے اہل بیت کے جنازوں پر الگ الگ ستر نمازیں پڑھی جانے کی وجہ بعض باخبر لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ باقی دوسرے شہداء کی لاشیں ایک جگہ اکٹھی کر دی گئیں تو پہلے آنحضرت ﷺ نے ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش الگ کر کے اس پر نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اسے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ پھر اس طرح ہر شہید کی لاش یکے بعد دیگرے الگ کر کے اس پر نماز جنازہ پڑھائی جاتی رہی اور ان میں سے ہر ایک کو دوبارہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے برابر ایک قطار میں رکھا جاتا رہا اور اس طرح ان لاشوں پر جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش بھی شامل تھی جنازے کی نمازوں کی مجموعی تعداد ستر ہو گئی تھی۔ بخاری نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ جس روایت کو بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ابن ماجہ وغیرہ سب نے ملتے جلتے الفاظ میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ احد میں جتنی مسلمان عورتیں موجود تھیں وہ سب اپنے اپنے قریبی عزیزوں کی لاشوں کو دیکھ کر سو گوار ہو جاتی تھیں یا گریہ زاری کرنے لگتی تھیں۔ انہی عورتوں میں صفیہ بنت عبدالمطلب بھی تھیں جو اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی حالت دیکھ کر پہلے فطرۃ زار و قطار رونے لگی تھیں لیکن انہوں نے بھی اسے ”رضائے الہی“ کہہ کر بڑے صبر کا ثبوت دیا تھا۔ تاہم عمرو بن جموح کی بیوی کے صبر و استقامت اور نبی کریم ﷺ سے محبت کی تاریخ اسلام میں بہت کم نظیر ملتی ہے۔ اسے یکے بعد دیگرے اس کے باپ، بھائی اور خاوند کی شہادت کی خبر دی گئی لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو۔ وہ قدم قدم پر ہر شخص سے نبی کریم ﷺ کی جان کی سلامتی کے بارے میں پوچھتی تھی اور جب اسے ان سب نے ایک یہی جواب دیا کہ خدا کے فضل و کرم سے آنحضرت ﷺ صحیح سلامت ہیں تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب وہ اس جگہ پہنچی جہاں اس کے باپ، بھائی اور خاوند کی لاشیں پڑی تھیں تو اس کی آنکھوں میں فطرۃ آنسو اُڑ آئے لیکن وہ فوراً ہی سنبھل کر بولی:

”خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ تینوں خدا کی راہ میں اس کے دین اسلام اور اس کے رسول پر بشوق قربان ہو گئے۔“

غزوہ احد کے بعد آنحضرت ﷺ نے ایک روز مسجد میں منبر سے حاضرین کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو لشکر قریش کے مقابلے میں فدا یا ان اسلام کی تعداد حد سے زیادہ کم ہونے کے باوجود ان کے اتنی تعداد میں شہید ہونے کا فطری طور پر افسوس ضرور ہوا لیکن اس سے زیادہ اس کی خوشی ہوئی کہ ان سب نے فرداً فرداً خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آخرت کمائی اور اس کے نزدیک بلاشبہ سرخرو ہو گئے۔ (حدیث کا مفہومی ترجمہ)

یاد رہے کہ اکثر مستند روایات کے مطابق شہدائے احد کو ان کے زخموں سے چور چور جسموں کی وجہ سے بغیر غسل دیئے دودو تین تین کر کے ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا اور ان میں سے اکثر کو ایک ہی کفن دیا گیا تھا اور زندہ بچ جانے والے مجاہدین اسلام کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ ”کاش ان شہداء کی جگہ ہم ہوتے“ شہیدوں کے زخموں سے چور چور جسموں کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ:

”اللہ کی راہ میں ان جان دینے والوں کے یہ زخم تو تازہ گلاب کے پھولوں کی طرح مہکیں گے بلکہ ان سے مشک کی خوشبو آئے گی۔“

اور واقعہ بھی یہی ہے کیونکہ جیسا بعض مستند روایات سے معلوم ہوا ان شہیدوں کے مقابلے پر ان کا کوئی عزیز فاتحہ کے لیے جب بھی گیا

اسے بلا استثنا ہر قبر سے منک و غزیر کی خوشبو آتی محسوس ہوئی۔

جیسا کہ ابن ماجہ نے محمد بن یحییٰ، اسحاق بن محمد الفروی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زبانی ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن جحش اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب منہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کو ان کے بھائی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ بولیں: ”اللہ اس پر رحم فرمائے“ اور پھر ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ کہہ کر خاموش ہو گئیں لیکن انہیں جب ان کے شوہر کی شہادت کی خبر دی گئی تو وہ پہلے تو دم بخود رہ گئیں اور پھر آبدیدہ ہو گئیں پھر جب اس کا ذکر آنحضرت (ﷺ) سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کی نظر میں اس کے شوہر سے عزیز تر دنیا کی کوئی شے نہیں ہوتی۔



آنحضرت ﷺ کی احد سے مدینے کو واپسی

سوی بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ (ﷺ) غزوہ احد سے فراغت کے بعد مدینے کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ کو راستے میں مکے سے آتا ہوا ایک شخص ملا۔ آپ نے اس سے ابوسفیان اور اس کے ساتھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ملے تھے جہاں اس نے ابوسفیان کو اپنے ساتھیوں سے کہتے سنا کہ جو جان و مال وہ احد میں لٹا آئے ہیں اس پر افسوس نہ کریں نہ مایوس و بد دل ہوں کیونکہ قوم کی شوکت اور ولولہ ابھی ان میں باقی ہے اس لیے عروہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے ایک بار پھر تیاری کریں اور اب کے انہیں نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں۔ اس شخص کی زبان سے یہ سن کر آپ نے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں میں جانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم دیا۔ عبد اللہ ابن ابی نے کہا کہ اس مہم میں وہ بھی آپ کے ہمراہ ہوگا لیکن آپ نے فرمایا کہ قریش کے تعاقب میں صرف جنگ میں آزمودہ کار لوگ جائیں گے۔

محمد بن اسحاق اپنی کتاب مغازیہ میں لکھتے ہیں کہ غزوہ احد نصف ماہ شوال گزرنے کے بعد وقوع پذیر ہوا تھا اور اس دن سنیچر کا روز تھا اور اگلے روز یک شنبہ تھا اور اسی روز آپ نے اپنے منتخب صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ابوسفیان کے تعاقب کا ارادہ فرمایا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ہر طرح تیاری کے بعد آنحضرت ﷺ کے معین نے آپ کی اجازت سے آپ کی اور آپ کے منتخب صحابہ رضی اللہ عنہم کی روانگی کا اعلان کیا تو بنی عبدالاشہل کے ایک شخص نے کہا کہ وہ اور اس کا بھائی گزشتہ روز غزوہ احد میں شریک تھے لیکن آج شدید زخموں کی حالت میں مدینے واپس جا رہے ہیں:

”تاہم اگر ہم کسی سواری پر سوار ہونے کے قابل ہوتے تو نبی کریم ﷺ ہمارے جذبہ جہاد کے پیش نظر ممکن تھا کہ ہمیں بھی اس مہم میں شرکت کی اجازت دے دیتے۔“

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اور آپ کے ہمراہیوں نے جہاں تک ہو سکا ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا حتیٰ کہ آپ حمراء الاسد تک جا پہنچے جہاں سے ایک قریبی راستہ مدینے کو جاتا تھا اور مدینہ وہاں سے صرف آٹھ میل کے فاصلہ پر تھا لیکن اس وقت تک ابوسفیان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکے کی طرف بہت دور جا چکا تھا۔ اس لیے آپ نے حمراء الاسد میں دو شنبہ اور چہار شنبہ کو قیام فرمایا اور اگلے روز مدینے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں آپ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمائے تھے۔



واقعہ احد پر شعراء عرب کا سرمایہ شعری

واقعہ احد پر عرب کے مسلم و غیر مسلم دونوں شعراء نے کثرت سے شعر کہے ہیں۔ مسلم شعراء نے اس سلسلے میں جو اشعار کہے ہیں وہ دراصل عرب کے ان مشہور و معروف شعراء کے جواب میں کہے گئے ہیں جنہیں عہد جاہلیت سے اپنے فن شعر گوئی پر ناز تھا اور ان کے ان اشعار میں بھی ہر جگہ اسی فخر و مباہات کا پرتو نمایاں ہے لیکن مسلم شعراء نے ان کے جواب میں جو اشعار کہے ہیں وہ بھی فنی لحاظ سے غیر مسلم شعراء کے اشعار سے کمتر نہیں کہے جاسکتے۔ ویسے آخر الذکر شعراء نے اپنے دینی جذبات کے اظہار میں ہر جگہ مبالغہ آرائی اور لالی یعنی لاف و گزاف سے دامن بچایا ہے اور صرف واقعہ نگاری پر اکتفا کیا ہے۔ یہاں یہ کہنا غالباً بے محل نہ ہوگا کہ عرب کی رجزیہ شاعری کا دنیا کے ادب میں آج تک جواب نہیں مل سکا نہ اس کی آئندہ کبھی امید ہے۔ یہ سطور قلمبند کرنے سے ہمارا مقصد موازنہ شعر و شاعری نہیں ہے بلکہ واقعہ احد کے سلسلے میں اس کے اس پہلو کو بھی تاریخی ریکارڈ پر لانا مقصود ہے۔

مورخین نے مسلم و غیر مسلم شعراء عرب کے محولہ بالا اشعار کے اقتباسات بالترتیب اپنی تاریخی کتب میں دیئے ہیں جنہیں پیش کرنے سے بخوف طوالت گریز کیا گیا ہے۔



فصل:

سال سوم ہجری میں واقعہ احد اور دیگر واقعات

کا خلاصہ

ہم پچھلے صفحات میں سال سوم ہجری کے تحت دیگر غزوات و احداث اور مہمات کے علاوہ غزوہٴ احد کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں کہ غزوہٴ احد پندرہ ماہ شوال کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ اسی تاریخ کو ابو یعلیٰ جنہیں ابو عمارہ بھی کہا جاتا تھا، آنحضرت ﷺ کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب جنہیں حدیث نبوی کی رو سے اللہ تعالیٰ نے شیر خدا اور شیر رسول ملقب کیا تھا اور وہ حضور نبی کریم (ﷺ) کے رضاعی بھائی بھی تھے اور ان دونوں کے علاوہ ابوسلمہ بن عبدالاسد نے جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رضاعی (دودھ شریک) بھائی بھی تھے اور ان دونوں کو ابولہب کی کنیز ثویبہ نے جیسا کہ ایک حدیث نبوی سے ثابت ہو چکا ہے تین مہینے تک ایک ساتھ دودھ پلایا تھا شہید ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ تینوں حضرات باطل کے لیے برق خاطف، بڑے صداقت پرور اور عرب کے بہادر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ غزوہٴ احد میں شہادت کے روز ان کی عمریں پچاس سال سے تجاوز کر چکی تھیں۔

اسی سال آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی ان کی بہن رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا عقد توجیح الاول ہی میں ہو چکا تھا لیکن ان کی رخصتی ماہ جمادی الآخر میں ہوئی۔ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ سال سوم ہجری ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول کے بطن سے تولد ہوئے تھے اور اسی سال ان کے دوسرے بھائی حسین صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہوئے تھے۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سال چہارم ہجری کے واقعات

اس سال یعنی سال چہارم ہجری ماہ محرم میں آنحضرت ﷺ نے ابی سلمہ بن عبدالاسد ابی طلحہ اسدی کو بنی اسد کی مہم پر روانہ فرمایا تھا اور انہیں علم دے کر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ قبیلہ سرکشی چھوڑ کر اسلام قبول کر لے تو فہباور نہ ان کی متابعت کے لیے ان سے جنگ کی جائے اور ان کے لوٹے ہوئے مال کو مال غنیمت سمجھا جائے۔

واقعی متعدد حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ابوسلمہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ماہ شوال سال سوم ہجری سے ماہ محرم سال چہارم ہجری تک سارا وقت علاج و معالجہ میں گزارا تھا لیکن جب ماہ محرم میں آنحضرت ﷺ نے بنی اسد کی مہم پر روانگی کا حکم دیا تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور ڈیڑھ سو ساتھیوں کے ساتھ قطن تک جو بنی اسد کا آبی مستقر تھا جا پہنچے۔ ابوسلمہ کی مدینے سے روانگی سے پہلے ہی خویلد کے دونوں بیٹوں طلحہ اسدی اور سلمہ نے قبیلہ بنی اسد کے نوجوانوں کو جمع کر کے انہیں نبی کریم ﷺ کی فرستادہ جماعت سے مقابلے کے لیے مسلح کر دیا تھا لیکن حسن اتفاق سے انہی دنوں بنی اسد ہی کے ایک شخص نے مدینے آ کر اس کی اطلاع آپ کو دے دی تھی اور ابوسلمہ کی مذکورہ بالا مہم کی اصل وجہ یہی تھی لیکن ابوسلمہ اور ان کی سرکردگی میں مسلمانوں کی جو جماعت بھیجی گئی تھی اس کے قطن کے قریب پہنچنے کی خبر سنتے ہی طلحہ اس کا بھائی سلمہ اور ان کے ساتھی اپنا سارا مال اسباب چھوڑ کر وہاں سے فرار ہونے لگے تھے۔ تاہم ابوسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر نہ صرف ان کے سامان پر قبضہ کیا بلکہ ان کے تین ممالیک (سردار) گرفتار کر لیے اور مدینے کی طرف پلٹے۔ ابوسلمہ نے اس مہم میں ہاتھ آئے ہوئے مال غنیمت میں سے آنحضرت ﷺ کے لیے ایک غلام اور خمس علیحدہ کر کے باقی اپنے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں برابر تقسیم کر دیا تھا۔ بنی اسد کے اس شخص کو جس نے اس قبیلے کی بغاوت اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جنگی تیاریوں کی خبر نبی کریم ﷺ کو مدینے میں پہنچائی تھی مال غنیمت میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا گیا۔

عمر بن عثمان متعدد حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسد کی مہم پر آنحضرت ﷺ نے جس شخص کو بھیجا تھا وہ ابواسامہ ہاشمی تھے جو غزوہ احد میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور مدینے میں ایک جراح کے زیر علاج تھے لیکن جب نبی کریم ﷺ نے مذکورہ بالا مہم کے لیے انہیں منتخب فرمایا تو وہ اس کے لیے فوراً تیار ہو گئے لیکن جب اس مہم کے سلسلے میں دس روز مدینے سے باہر رہ کر جب واپس پہنچے تو بد قسمتی سے ان کے وہ زخم جو مندمل ہو گئے تھے اچانک پھر عود کر آئے اور کافی علاج معالجے کے باوجود وہ آخر کار ماہ

جمادی الاول کے اختتام سے تین روز قبل وفات پا گئے۔

متعدد مشہور روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آئندہ ماہ شوال میں عدت کے چار مہینے دس دن نذر نے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آگئی تھیں۔ انہوں نے ماہ شوال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عتد کو شرعی لحاظ سے درست ٹھہرایا تھا۔ اس ضمن میں علمائے اسلام کے فتاویٰ پر ہم ان شاء اللہ آگے چل کر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہی کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ماہ ذیقعدہ میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر اٹھ برس ہو چکی تھی۔



غزوہ رجب

واقعی کے بیان کے مطابق رجب کی رواد صرف اتنی ہے کہ وہاں جو کئے اور عسفان کے درمیان اور مدینے سے صرف آٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے قریش مکہ کے بعض حلیفوں نے جمع ہو کر مدینے کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے پخت و پز شروع کر دی تھی اور جب اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو ہوئی تو آپ نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین اسلام کی ایک جماعت دے کر انہیں ان کی سرکوبی کے لیے وہاں روانہ فرمایا تھا اور وہ اس فتنے کو دبا کر وہاں سے کامیاب و کامران مدینے واپس آئے تھے لیکن اس مہم کے ضمن میں کچھ ایسے ذیلی واقعات بھی متعدد روایات کے ذریعہ سامنے آئے ہیں جو تاریخی لحاظ سے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے یہاں انہیں بھی مختصر طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔

متعدد حوالوں کے ساتھ بخاریؒ سے مروی ہے کہ جن لوگوں کے مقابلے کے لیے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا وہ جگہ دراصل ”لحی“ کے نام سے مشہور تھی اور وہاں کے باشندوں کو مزاجاً بنو لُحی کہا جاتا تھا۔ وہاں اہل ملی کے درختوں کی ایک نرسری تھی جہاں سے ایک پودا مدینے لایا گیا تھا جہاں وہ ترم مدینہ کے نام سے مشہور ہوا اور بہت پھلا پھولا۔ اس سے قبل اہل مکہ اہل ملی کے نام سے واقف نہ تھے۔

عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، عاصم بن عمر بن خطاب کے جدا علی تھے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تھے جسے ”فد فدا“ کہا جاتا تھا تو وہاں کے باشندوں نے ان سے کہا تھا کہ ان سے اہل مدینہ کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے لہذا ان کی جاں بخشی کی جائے لیکن چونکہ انہیں اہل رجب یا بنو لُحیان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا مرتکب پایا گیا تھا لہذا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ذمی نہیں ہیں اس لیے ان کی جاں بخشی نہیں کی جاسکتی۔ اس کے بعد ان کے سات آدمی جو سرکشی پر آمادہ تھے قتل کر دیئے گئے تھے اور ان لوگوں میں سے جو بھاگ کر نکل گئے تھے صرف ضیب اور زید رضی اللہ عنہما نامی دو آدمی بچے تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور شخص بھی تھا جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ غلام تھا اور اسے کسے میں فروخت کیا گیا تھا۔ اسے ضیب رضی اللہ عنہ نے جو بنو حارث بن عامر بن نوفل میں سے تھا خرید لیا تھا۔ خود ضیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا اس لیے اس کے یہ کہنے کے باوجود کہ وہ لوگ اہل مدینہ کے خلاف پہلی بار بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو گرفتار کر کے مدینے لایا گیا تھا جہاں حارث کی بیٹیاں اس کے خون کی پیاسی ہو رہی تھیں۔ اسے موسیٰ کے سپرد کیا گیا تھا جنہوں نے اسے قتل کر دیا تھا کیونکہ یہی حارث کی بیٹیوں کا مطالبہ تھا۔ قتل سے پہلے موسیٰ نے اس سے کہا تھا کہ:

”اب تو قتل ہونے سے ڈر رہا ہے لیکن تو حارث کو قتل کرتے وقت خدا سے نہیں ڈرتا تھا۔“

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حارث کے بڑے عقید بن حارث اور اس کی بیٹیوں کے سپرد کیا گیا تھا اور اسے عقید بن حارث نے

قتل کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ضعیف بنی نضیر انکو رکھایا کرتا تھا جن کا ایکے میں آج تک وہ نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کہ انکو اسے کھانے کے لیے خدا دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ نے ہر قیمت پر ضعیف بنی نضیر کی لاش حاصل کرنا چاہی تھی۔

بخاری متعدد حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نضیر بنی نضیر کے نام سے قتل کیا گیا وہ ابو سروع تھا جس کا نام عقبہ بن حارث تھا۔

بخاری یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو سروع اور عقبہ بھائی بھائی تھے یا رضاعی بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان ہو گیا تھا۔ عاصم بن ثابت کی مہموں اور قتل ضعیف بنی نضیر کے بارے میں دوسری بہت سی روایات ہیں جنہیں مکرر ہونے کی وجہ سے اور بخوف طوالت یہاں چھوڑ دیا گیا ہے۔



عمر و بن اُمیہ ضمری رضی اللہ عنہ کی مہم

واقعی متعدد دفعہ راویوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوسفیان نے ایک روز کے میں کچھ لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ محمد (ﷺ) مدینے کے بازاروں میں آزادانہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ کیا کوئی شخص کے میں ایسا نہیں جو وہاں جا کر انہیں قتل کر دے؟ اس کے بعد ایک شخص رات کے وقت ابوسفیان کے مکان پر پہنچا اور اس سے کہا کہ آنحضرت ﷺ کے قتل کی مہم وہ سر کرنے کے لیے تیار ہے بشرطیکہ اسے ضروری سامان فراہم کر دیا جائے۔ ابوسفیان نے اسے کافی رقم دی اور اس کی درخواست پر ایک اونٹ بھی اس کی سواری کے لیے دے کر اس سے کہا: تمہاری اس مہم کی ہماری طرف سے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں کسی اور کے سامنے منہ سے بھاپ بھی نہیں نکالے گا اور ابوسفیان کے پاس سے چلا آیا۔ پھر وہ اگلے دن منہ اندھیرے ہی اپنی اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ وہ سکے سے روانہ ہو کر مختلف جگہوں پر پھرتا ہوا چھٹے دن مدینے جا پہنچا اور اپنے اونٹ کی مہار پکڑ کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ چونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی اس لیے کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد بنی عبدالاشہل میں پہنچ کر اس نے کسی سے کہا کہ وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے اسے بتایا جائے کہ آپ سے وہ کہاں مل سکتا ہے؟ اسے مسجد نبوی کا پتہ بتا دیا گیا اور اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ آپ مسجد میں اپنے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم سے گفتگو میں مصروف ہیں۔ اسے دیکھتے ہی آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ:

”اس شخص کے دل میں کھوٹ ہے لیکن میرے اور اس کے درمیان اللہ حامل ہے۔“

اسی وقت اس نے آگے آ کر کہا:

”آپ میں سے ابن عبدالمطلب کا بیٹا کون ہے؟“

اس کی زبان سے یہ سن کر حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں ہوں۔“

یہ سن کر وہ آپ کی طرف بڑھا اور اس طرح جیسے وہ آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہے لیکن اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس کی نیت تاڑ لی وہ اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی رائے پہلے ہی سن چکے تھے۔ لہذا انہوں نے جھپٹ کر اس کے اسی ہاتھ کو پکڑا جو وہ جھک کر اپنے پاؤں کے نیچے کی طرف بڑھا رہا تھا، اور جب اس کا وہ ہاتھ باہر نکلا تو واقعی اس میں ایک خنجر چمک رہا تھا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ سے خنجر چھین کر اسے اچھی طرح جکڑ لیا، پھر بولے:

”یا رسول اللہ (ﷺ) آپ نے درست فرمایا تھا، یہ آپ کا بدترین دشمن ہے۔ اس لیے اسے قتل کر دینا مناسب ہوگا بلکہ

ضروری ہے۔“

تاہم آپؐ نے اسے اپنے سامنے بٹھانے کا حکم دیا اور اس سے فرمایا:

”اگر تو نے سچ بات بتادی تو تجھے معاف کر دیا جائے گا ورنہ تو اپنے کیے کی سزا پائے گا۔“

آپؐ کی زبان صداقت ترجمان سے یہ سن کر اس نے ساری بات اُگل دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اسے اس نتیجے کا معنی آپؐ کے قتل کے لیے ابوسفیان نے بھیجا تھا اور کامیابی پر اس سے منہ مانگے معاوضے کے علاوہ اور بھی انعام و اکرام کا وعدہ کیا تھا۔ آپؐ نے اس کی یہ ساری باتیں سن کر اسے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ہی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اسے رات بھر قید میں رکھا جائے اور صبح کو آپؐ کی خدمت میں حاضر کیا جائے۔ جب اسے آپؐ کے حکم کے مطابق آپؐ کے سامنے حاضر کیا تو آپؐ نے اس سے فرمایا:

”اب تو آزاد ہے جہاں چاہے جاسکتا ہے لیکن اس سے بہتر ایک اور بات بھی ہے۔“

اس نے پوچھا: ”وہ کیا؟“

آپؐ نے فرمایا:

”وہ بات یہ ہے کہ تو اپنی زبان سے کہے اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمد الرسول اللہ۔“

آپؐ کی زبان مبارک سے یہ سنتے ہی اس نے یہ کلمہ پڑھا اور صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ پھر بولا:

”واقعی یا رسول اللہ (ﷺ) آپؐ اعلیٰ ترین سیرت و کردار کا بہترین نمونہ ہیں آپؐ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور

درحقیقت آپؐ حق پر ہیں اور آپؐ کا دین بھی دین حق ہے جب کہ ابوسفیان بد اعمالوں کا بدترین نمونہ اور شیطان کا گروہ

میں سے ایک ہے۔ میری کم عقلی نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا تھا اس لیے میں انسان انسان میں فرق نہ کر سکا۔“

اس شخص کی یہ باتیں سن کر نبی کریم ﷺ نے قسم فرمایا اور اسے جانے کی اجازت دے دی جس کے بعد اس کا کچھ ذکر سننے

میں نہیں آیا۔ اس کے بعد آپؐ نے عمرو بن امیہ ضمیری اور سلمہ ابن اسلم بن حریش کو حکم دیا کہ وہ مکے جا کر ابوسفیان کی تلاش میں

رہیں اور اگر وہ غرور و تکبر کا اظہار کرے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اسے فوراً قتل کر دیں۔

عمرو بن امیہ ضمیری کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے حکم کی تعمیل میں وہ اور ان کے ساتھ سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ اسی روز مکے کی

طرف روانہ ہو گئے اور جب وہ کئی دن کے سفر کے بعد ایک روز صبح کے وقت مکے میں داخل ہوئے تو سلمہ رضی اللہ عنہ بولے کہ کیوں نہ وہ

دونوں پہلے بیت اللہ کی طرف جائیں اور اس کا طواف کر کے دو رکعت نماز ادا کر لیں لیکن انہوں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ:

”اہل مکہ ظلم و شقاوت کے پتلے ہیں اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے کیونکہ وہ کسی منہ زور اہل بق

گھوڑے سے کم نہیں ہیں۔“

عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ مکے میں داخل ہونے کے بعد کچھ ہی دور آگے گئے ہوں گے کہ انہیں

امیہ بن ابوسفیان ملا جو زمانہ جاہلیت میں ان کا بڑا قریبی دوست تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر حیرت سے پوچھا:

”عمرو! تم یہاں کہاں؟“

وہ بولے:

”میں اور نیز ایہ ساتھی اپنے آپچہ خزیروں سے ملنے آئے ہیں۔“

ان کے اس جواب پر امیہ بن سفیان ”اچھا“ کہہ کر آگے بڑھا ہی تھا کہ انہوں نے سلمہ بنی عدسہ سے کہا:

”آؤ یہاں سے بھاگ چلیں کیونکہ میرے مسلمان ہونے کے بعد مجھے امیہ سے کسی بھائی کی امید نہیں اور ویسے ہی ہم تو

اس کے باپ کو قتل کرنے آئے ہیں وہ یہاں ہماری آمد کی خبر سارے شہر میں پھیلا دے گا اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا اسے تم

سمجھ ہی سکتے ہو۔“

چنانچہ جیسا کہ عمرو بن ضمیر نے بیان کیا وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے مکے سے باہر نکل کر قریب کے پہاڑی علاقے میں ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپے لیکن ہوا وہی جس کا عمرو بن امیہ ضمیر بنی عدسہ کو اندیشہ تھا یعنی امیہ بن سفیان کی زبانی مکے میں ان کی آمد کی خبر سن کر مکے کے بہت سے بد باطن اور دشمن اسلام اشخاص ان کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ وہ اس پہاڑی علاقے تک بھی آئے بلکہ جس غار میں یہ دونوں چھپے ہوئے اس کے اندر جھانک کر بھی دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یقیناً انہیں وقتی طور پر پر اندھا بنا دیا تھا کہ یہ دونوں انہیں نظر نہ آئے اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ ”کمبخت بیچ کر نکل گئے“ شہر کی طرف واپس چلے گئے۔

عمرو بن امیہ ضمیر بنی عدسہ کہتے ہیں کہ وہ اگلے دن علی الصباح ادھر ادھر چھپتے چھپاتے ابوسفیان کی تلاش میں پھر مکے میں داخل ہوئے کیونکہ وہ وہاں کے چپے چپے سے واقف تھے لیکن سب سے پہلے جس شخص پر ان کی نظر پڑی وہ عثمان بن مالک بن عبید اللہ تہمی تھا، وہ اس وقت اپنے دروازے کے آگے گھوڑے کو چارہ ڈال رہا تھا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی شور مچانا چاہا لیکن عمرو بن امیہ ضمیر بنی عدسہ نے فوراً ہی آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے میں اپنا خنجر اتار دیا اور وہ دونوں پھر بھاگتے ہوئے مکے سے باہر نکلے اور اسی غار میں دوبارہ جا چھپے۔

عمرو بن امیہ ضمیر بنی عدسہ کہتے ہیں کہ عثمان بن مالک کو انہوں نے زمین پر تڑپتے چھوڑا تھا لیکن اس نے یقیناً مرتے مرتے بھی یقیناً کسی سے کہہ دیا ہوگا کہ اس کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ چنانچہ حسب توقع اہل مکہ کی ایک ٹولی ان کی تلاش میں پھر اسی پہاڑی علاقے میں آ پہنچی جو مکے سے قریبی مقام پر چھپنے کی بہترین جگہ تھی اور ان میں سے کچھ لوگ اس غار کے کنارے تک بھی آ پہنچے جہاں یہ دونوں چھپے ہوئے تھے۔

عمرو بن امیہ ضمیر بنی عدسہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھی سلمہ بن اسلم بنی عدسہ سے کہا: ”بالکل حرکت نہ کرنا“۔ اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ ان کی اس احتیاط کے علاوہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مرضی بھی یقیناً یہی تھی کہ وہ انہیں نظر نہ آئیں۔

عمرو بن امیہ ضمیر بنی عدسہ مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا مکے میں مزید رکنا اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا تھا، اس لیے وہ دونوں رات ہوتے ہی مدینے کی طرف واپس چل پڑے اور وہاں پہنچ کر سارا ماجرا آنحضرت ﷺ سے عرض کر دیا۔

چونکہ اس مہم میں عمرو بن امیہ ضمیر بنی عدسہ ہی پیش پیش رہے تھے اس لیے اس مہم کو ”عمرو بن امیہ ضمیر بنی عدسہ کی مہم“ کہا

جاتا ہے۔ (مؤلف)

یہ مہم انہیں اللہ تعالیٰ کے احسان سے نکلنے والی تھی لیکن عمرو بن امیہ ضمیر کے ساتھی کا نام جارج صحیح بتاتا ہے۔

بیزمعو نہ کی مہم

بیزمعو نہ کی مہم سال چہارم ہجری کے ماہ سفر میں وقوع پذیر ہوئی تھی لیکن مغرب کھولتے ہیں کہ اس کا زمانہ وقوع غزوہ خندق کے بعد ہے۔

بخاری متعدد حوالوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ستر آدمیوں کی ایک جماعت جسے قراء یعنی قاریوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا مدینے کے گرد و نواح میں اس وقت تک نازل شدہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجی تھی لیکن جب وہ لوگ اس جگہ پہنچے تھے جسے بیزمعو نہ کہا جاتا ہے تو بنی سلیم نے انہیں تعلیم القرآن سے روکا تھا اور جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے حکم سے وہاں آئے ہیں تو ان دشمنان اسلام نے اس پوری جماعت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مغرب کھولتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ان شہداء کے حق میں ایک مہینے تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھ کر دعا فرماتے رہے تھے۔ اسی قسم کی ایک روایت مسلم، حماد بن سلمہ کی زبانی ثابت اور انس کے حوالے سے بیان کی ہے۔

بخاری فرماتے ہیں کہ قبائل رعل و ذاکوان و عصبہ بیزمعو نہ کے المناک واقعے سے قبل دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہے تھے اس لیے آنحضرت ﷺ نے ان کے پاس انصار کے ستر قاریوں کی ایک جماعت بھیجی تھی تاکہ وہ انہیں آیات قرآنی کے صحیح لب و لہجے کے ساتھ تعلیمات قرآنی سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع فراہم کرے اور ان قاریوں کا عمل وہاں بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا کی تعبیر تھا۔

بخاری مزید فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے وہاں ام سلیم کے بھائی حرام کو ان ستر قاریوں کے ساتھ روانہ فرمایا تھا لیکن وہاں مشرکین کے ایک سردار عامر بن طفیل سے ان کی مڈبھیڑ ہو گئی جس نے ایک بار نبی کریم ﷺ سے کہلایا تھا کہ اگر اہل السہل میں سے ہیں تو میں ”اہل المدر“ میں سے ہوں۔ لہذا اس صورت میں دو ہی باتیں ممکن ہیں کہ یا تو میں آپ کا خلیفہ بن جاؤں یا عمر بھر آپ سے جنگ کرتا رہوں۔ اسی عامر بن طفیل نے مذکورہ بالا قبائل کو بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف کر دیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر حرام کے سوا جو معذور تھے سب کو تیغ کر دیا تھا۔

موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان کے پاس اہل مدینہ کے ساتھ ان کے معاہدوں کی یاد دہانی کے لیے ایک قاصد بھیجا تھا لیکن عامر بن طفیل نے اسے بھی قتل کر دیا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ اور اس کی تائید اکثر اہل خبر نے کی ہے کہ ابو براء عامر بن مالک بن جعفر نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کچھ داعیان اسلام کو اہل نجد کی طرف روانہ فرمائیں تو اسے یقین ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے آپ کے مطیع ہو جائیں گے۔ آپ نے اسے اس دعا کی دعوت دی تھی لیکن وہ اس سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔

نے اس کے مذکورہ بالا مشورے کے بعد اہل نجد کے اس نام لانا اور اطاعت قبول کرنے کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا تھا تو البراء عامر بن مالک نے آپؐ سے عرض کیا تھا کہ اہل نجد اس کے ہمسائے ہیں وہ اس کی بات نہیں ٹالیں گے لیکن جب وہاں مسلمانوں کی ایک اور جماعت بھیجی گئی تو اس کا بھی وہی حشر ہوا لیکن ان میں سے عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ کو اس لیے گرفتار کرنے کے بعد بھی چھوڑ دیا گیا تھا کہ ماں کی طرف سے ان کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا۔ ان کے ساتھ ان کے ایک انصاری ساتھی کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سانحے کی خبر آنحضرت ﷺ کو عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ اور ان کے اس انصاری ساتھی ہی نے دی تھی۔ اس خبر پر اظہارِ افسوس فرماتے ہوئے آپؐ نے ارشاد فرمایا تھا:

”ہماری یہ لڑائی بے دین لوگوں سے تھی۔“



غزوہ بنی نضیر

غزوہ بنی نضیر کی وقوع پذیری کے بارے میں راویوں میں اختلاف ہے۔ بعض اسے واقعہ بدر کے بعد اور واقعہ احد سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ احد کے بعد اور واقعہ خندق سے پہلے کا ہے۔

بہر کیف چونکہ اس قبیلے کی سرکشی اور فتنہ پروری کی خبریں آنحضرت ﷺ کو ایک عرصے سے مسلسل پہنچ رہی تھیں اس لیے احکام الہی کے مطابق جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے اسے راہ راست پر لانے کے لیے آپ مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس قبیلے سے بھی اہل مدینہ کا معاہدہ تھا کہ جب ان لوگوں سے یعنی اہل مدینہ سے کسی کا مقابلہ ہو تو وہ ان کا ساتھ دے گا لیکن جب کچھ یہودیوں کی سرکوبی کے لیے مدینے سے مجاہدوں کو روانہ کیا گیا تو وہ اس معاہدے سے پھر گئے تھے بلکہ اس کے بعد جب قاصدوں کو تنبیہی خط دے کر ان کے پاس روانہ کیا گیا تو انہوں نے انہیں بھی قتل کر دیا تھا۔ اس لیے ان سے اس کا محاسبہ اور ان کی سرکوبی لازم تھی۔ چنانچہ آپ نے وہاں پہنچ کر سات راتوں تک ان کا محاصرہ جاری رکھا اور چونکہ انہی ایام میں شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا تھا اس لیے اس قبیلے کی جائے پناہ کے گرد جو کھجور کے درخت تھے اور جن کے پھلوں سے وہاں کے لوگ شراب تیار کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں کٹوا کر ان میں آگ لگوا دی۔ اس پر انہوں نے بہت واویلا کرتے ہوئے آپ سے کہلوا لیا کہ:

”آپ تو اپنے بقول فتنہ و شرک دہانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے تو یہاں آ کر خود ہی اس کی ابتداء کی ہے۔“

آپ نے اس کا جو جواب دیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد صلح و صفائی کے امکانات روشن ہو گئے تھے کیونکہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو گئے تھے اور آپ نے دوسری صورت سے ان کے اس مالی نقصان کی تلافی کا انہیں یقین دلایا تھا لیکن اسی روز انہیں بنی عوف بن خزرج کے کچھ لوگوں کی طرف سے جن میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا پیغام ملا کہ وہ بنی نضیر کے لیے کمک لے کر آ رہے ہیں اور یہ پیغام ملنے کے بعد بنی نضیر کچھ اورتن گئے اور انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کا تہیہ کر لیا۔ اسی دوران میں خیبر کے یہودیوں کا ایک قافلہ مال و دولت اور تجارتی سامان سے لدا اچھنڈا شام سے لوٹ کر اسی راستے خیبر جا رہا تھا۔ لہذا یہ ممکن نہ تھا کہ اس قافلے کو جس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی عورتیں اور بچے بھی تھے اور عورتیں بیش قیمت زیورات پہنے چھم چھم کرتی اور دھول پر گاتی بجاتی جا رہی تھیں، اطمینان سے گزرنے دیا جاتا۔ اس کے علاوہ چونکہ خیبر کے یہودیوں اور بنی نضیر کی ساز باز کا علم آنحضرت ﷺ کو ہو چکا تھا۔ اس لیے اس قافلے کو روکنے اور اس سے مال غنیمت کے حصول کو آپ نے رواد رکھا بلکہ قافلے والے اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنی ساری دولت اور دیگر سامان خود ہی چھوڑ بھاگے اور مسلمانوں کو اس کا مالک بنا گئے اور پھر اسے بطور مال غنیمت حصہ رسد احکام شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا گیا جس کا جواز مندرجہ ذیل آیت شریفہ سے بھی ملتا ہے:

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ..... الخ﴾

بخاری فرماتے ہیں اور یہی روایت مسلم نے بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو بنی نضیر کے ہجوروں کے درخت کو اُرا نہیں

جلوایا تھا ان کی حالت مندرجہ بالا اس مکر ہے:

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَبَنِهِ أَوْ تَرَ كُمْئُوهَا فَإِنَّمَآ عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ﴾

میں پائی جاتی ہے۔

بنی نضیر کی شکست کا اندازہ بطور بالا سے لگایا جاسکتا ہے۔ (مؤلف)



عمر و بن سعدی قرظی کی قصہ

بنی نضیر بنی قرظیہ سے بلحاظ شرافت کہیں بہتر تھے۔ مدینے سے ان کا اخراج مسلمانوں کے خلاف ان کی ہنگامی سازشوں کی وجہ سے ہوا تھا اور پھر جب وہ وہاں سے نکل کر دوسری جگہ آباد ہوئے تو اسلام کے خلاف ان کی ضد کی وجہ سے ان کی بستی کو خدا نے کھنڈرات میں تبدیل کر کے انہیں اہل بصیرت کے لیے وجہ عبرت بنا دیا تھا لیکن آخر کار ان کی نگاہوں کے سامنے اسلام اور اللہ کے رسول کی وہ حقانیت آ ہی گئی جس کا ذکر وہ تو ریت میں پڑھ چکے تھے۔

واقعی کہتے ہیں کہ جب بنو نضیر مدینے سے نکلے اور اس کے بعد مسلمانوں سے بلا وجہ پر خاش رکھے اور ان سے خواہ مخواہ جنگ کی وجہ سے ان کی بستی کا جو حال ہوا اسے ایک دفعہ عمر و بن سعدی قرظی نے ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا اور جب وہ وہاں سے آگے بڑھ کر بنی قرظیہ کی بستی میں پہنچا تو اس بستی کے لوگ یہودی عبادت گاہ میں تھے۔ چنانچہ اس نے عبادت گاہ کا ناقوس بجا دیا جسے سن کر سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان میں سے زبیر بن باطا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ بولا:

”ارے ابوسعید! تم آج تک کہاں تھے؟ زبیر بن باطا کے اس حیرت آمیز سوال کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے کبھی اپنی بستی سے اتنے دن غیر حاضر نہیں رہا تھا۔“

عمر و بن سعدی نے زبیر بن باطا کو جواب دیا:

”میں یہاں سے اتنے عرصے باہر رہنے کی وجہ تو تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، پہلے یہ سنو کہ میں نے آج یہاں آتے ہوئے جو عبرت آموز چیز دیکھی ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔“

زبیر بن باطا نے پوچھا: ”وہ کیا؟“

عمر و نے کہا:

”اپنے رشتہ دار اور دوست بنی نضیر کے ویران مکان جن کی کسی درپچی سے اب کوئی متنفس جھانکتا نظر نہیں آتا۔ مدینے سے نکلنے سے قبل بھی وہ کافی خوش حال تھے لیکن اپنی اس نئی بستی میں تو ان کی شان و شوکت، ثروت و امارت اور جاہ و حشم کا کوئی اندازہ تک نہیں لگا سکتا لیکن آج ان کی وہی شان دار بستی کسی خرابے یا کھنڈر سے کم نہیں ہے۔“

اس کے بعد اس نے کہا:

”مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے پہلے مدینے میں محمد (ﷺ) کی مخالفت کی تھی، پھر اس نئی بستی میں آباد ہو کر بھی وہ ان کی مخالفت اور ہمیشہ ان سے جنگ پر کمر بستہ رہے حالانکہ جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے میں نے ان کے بارے میں بشارت صاف پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنے سب سے بڑے یہودی عالموں ابن بیان

ابو عمیر اور ابن حراش سے پوچھ سکتے ہو جو یہاں بیت المقدس سے علوم یہودیہ میں منہی ہو کر لوٹے ہیں۔ ان سے پہلے بھی ہمارے ہاں کے کچھ بڑے راہب بھی جو اب یہاں مدفون ہیں یہی کہتے تھے۔ چنانچہ میرے خیال میں ہمیں محمد (ﷺ) کی اطاعت میں غلت کرنی چاہیے۔“

ابن باطا بولا:

”ہاں میں نے بھی کتاب باطاس میں محمد کی تعریف پڑھی ہے۔“

عمر و بن سعدی کی یہ باتیں سن کر کعب بن اسد نے کہا:

”پھر اے عبدالرحمن تمہیں محمد (ﷺ) کی اتباع سے کس نے روکا ہے؟“

عمر و بن سعدی نے جواب دیا:

”اے کعب! تم نے کیونکہ ہم لوگوں میں اب تو تورات کی تعلیمات سے قطع نظر صرف تمہاری چلتی ہے جو بات تم کہتے ہو

سب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔“

یہ جملہ روایت بیہقی کی ہے۔



غزوہ بنی لحيان

غزوہ بنی لحيان کے بارے میں بیہقی نے اپنی کتاب ”دلائل“ میں تفصیلی گفتگو کی ہے اور ابن اسحاق نے ہشام کی طرح اس کے متعلق بتایا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ خندق اور واقعہ بنی قریظہ کے بعد پیش آیا تھا۔ ان آخرا لذکر حضرات نے بیہقی کے بیان میں اعتماد کیا ہے اور اس کی وقوع پذیری کو ہجرت کے دو سال بعد ماہ جمادی الاول میں بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

حافظ بیہقی کہتے ہیں کہ ضعیب اور ان کے ساتھیوں کو بنی لحيان میں پیش آنے والے واقعات کے بعد نبی کریم ﷺ نے اس قبیلے کی گوشالی کے لیے وہاں کا قصد فرمایا تھا۔ بیہقی مزید کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ کا قصد بنی لحيان کے علاقے میں جانے کا نہیں ہے شام کا راستہ اختیار کیا تھا کیونکہ آپ قریش کو اس کی خبر ہونا نہیں چاہتے تھے لیکن جب آپ شام کے راستے سے مکر بنی لحيان کی حدود میں پہنچے تو اس قبیلے کے لوگ پناہ لینے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔

یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ عسکان کی طرف سے بنی لحيان تشریف لے جاتے تو قریش سمجھتے کہ مسلمانوں نے آپ کی قیادت میں مکے کا قصد کیا ہے۔ تاہم آپ نے اس کے بعد عسکان ہی کا رخ کیا۔ اس وقت آپ کے ہمراہ دو سو مجاہدین تھے۔ عسکان پہنچ کر آپ نے صلاۃ الخوف ادا فرمائی اور دوسواروں کو آگے روانہ فرمایا جو ”کراع الغمیم“ تک جا کر واپس آئے اور آپ کو اطلاع دی کہ قریش کا ایک مسلح گروہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔

امام احمد، عبدالرزاق، نوری کی زبانی منصور مجاہد اور ابن عیاش کے حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ آخرا لذکر راویوں نے بتایا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے جب آپ عسکان پہنچے تھے تو آپ نے وہاں ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی۔ اس کے بعد نماز عصر مسلمانوں نے آپ کی امامت میں اور آپ ہی کے حکم سے اس طرح ادا کی کہ نمازیوں کی دو جماعتیں اس طرح الگ الگ کی گئیں کہ ایک جماعت نے پہلے نصف نماز پڑھی اور دوسری جماعت پہلی جماعت کو تحفظ دینے کے لیے الگ کھڑی رہی اور جب پہلی جماعت نماز سے فارغ ہوئی تو دوسری جماعت نماز کے لیے اس کی جگہ آگئی اور پہلی جماعت نماز کی ادائیگی تک اس دوسری جماعت کو تحفظ دیتی رہی یہی بات دوسری بار بھی کی گئی۔ یوں آنحضرت ﷺ نے ان دونوں جماعتوں کی پوری نماز کے لیے باری باری امامت فرمائی۔

امام احمد مذکورہ بالا حوالوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے آنحضرت ﷺ نے دوبارہ نماز ادا فرمائی۔ ایک بار عسکان اور دوسری مرتبہ بنی سلیم میں ادا فرمائی تھی اور پہلی نماز ظہر کے وقت یہ آیت اتری تھی:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾

صحیحین کی روایات سے ثابت ہے کہ یہ نماز جسے ”صلاۃ الخوف“ یا ”صلاۃ الحرب“ کہا جاتا ہے غزوہ خندق اور غزوہ خیبر میں بھی

اس طرح ادا کی گئی تھی جسے دیکھ کر مشرکین نے کہا تھا:

”ان لوگوں کو نماز تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔“

مغازی کے اکثر مؤرخین نے عسکان اور بنی سلیم میں مندرجہ بالا حکم الہی کے تحت رسول اللہ ﷺ کی ان نمازوں کا ذکر کیا ہے لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس طرح نماز ظہر اور نماز عصر کی ادائیگی کا حکم غزوہ خیبر کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ تاہم راویوں کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس نماز کی مشروطیت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عسکان ہی میں آیا تھا۔

خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما اس نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی نماز مسلمانوں کو پہلی بار عسکان میں پڑھتے دیکھا تھا اور وہیں مکے کے کچھ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ (شاید) ”نماز تو انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔“ بہر کیف ہم ”صلاة الخوف“ یا ”صلاة الحرب“ کی مشروطیت پر ان شاء اللہ آگے چل کر تفصیلی گفتگو کریں گے۔



غزوہ ذات الرقاع

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ غزوہ بنی نضیر سے واپسی کے بعد آنحضرت ﷺ نے ماہ ربیع الثانی اور ماہ جمادی الاول کا کچھ حصہ مدینے میں بسر فرمایا جس کے بعد آپؐ نے نجد کی طرف روانگی کا قصد فرمایا تاکہ بنی محارب اور قبیلہ عطفان کے بنی ثعلبہ سے منسا جائے جس کے بارے میں کچھ عرصے سے سرکشی کی اطلاعات آرہی تھیں۔ مدینے سے روانگی کے وقت آپؐ نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو وہاں اپنی نیابت کے لیے مقرر فرمایا۔

ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر آپؐ نے مدینے میں اپنی نیابت کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینے سے روانگی کے بعد سفر کرتے ہوئے جہاں ایک درخت کے قریب آپؐ نے مجاہدین اسلام کو پڑاؤ کا حکم دیا تھا اس جگہ کا نام اسی درخت کی وجہ سے ذات الرقاع تھا اور اس درخت کو اب تک ذات الرقاع ہی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس غزوے کو بھی تاریخ میں غزوہ ذات الرقاع بیان کیا جاتا ہے۔

واقفی کہتے ہیں کہ اس نام کی وجہ سے قریبی پہاڑ ہے جس کے پتھر کٹے پھٹے اور تیر لگے یعنی سرخ سیاہ اور سفید ہیں۔ البتہ ابو موسیٰ اس نام کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچتے پہنچتے اس غزوے میں شریک مجاہدین کی ایڑیاں اور ٹخنے گرمی کی شدت سے پھٹ گئے تھے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب غطفانیوں سے مجاہدین اسلام کا سامنا ہوا تو غطفانیوں نے لڑائی میں پہل نہیں کی اور جناب رسول کریم ﷺ کا حکم تو ہر جگہ یہی ہوتا تھا کہ لڑائی میں پہل ہرگز نہ کی جائے۔ بہر کیف آپؐ نے وہاں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ”صلاة الخوف“ ضرور ادا فرمائی۔ یہاں ”صلاة الخوف“ کی ادائیگی کا ذکر ابن ہشام نے کئی حوالوں سے کیا ہے لیکن اس میں غزوہ نجد یا غزوہ ذات الرقاع کا ذکر نہیں کیا نہ انہوں نے غزوہ خندق سے قبل اس کا کہیں ذکر کیا ہے البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے اہل نجد غطفانیوں اور بنی ثعلبہ سے مقابلے کے وقت نبی کریم ﷺ کی امامت میں ”صلاة الخوف“ ادا کی تھی۔ بخاری ”صلاة الخوف“ کا آغاز غزوہ خیبر کے بعد بتاتے ہیں اور اس کے لیے ابو موسیٰ اشعری کے علاوہ کئی اور سندیں پیش کرتے ہیں کچھ روایات میں جن کے راویوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں اس کی ابتداء غزوہ خندق سے بیان کی گئی ہے۔ ان روایات کو صحیح بخاری میں بھی پیش کیا گیا ہے۔

واقفی کی یہ روایت کہ غزوہ ذات الرقاع یا غزوہ نجد کے لیے آنحضرت ﷺ کی روانگی مدینے سے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی چار سو یا بعض لوگوں کے بقول سات سو افراد پر مشتمل جماعت کے ساتھ سپنجر کے روز اس وقت ہوئی تھی جب ماہ محرم سال پنجم ہجری کے دس روز گزر چکے تھے محل نظر ہے کیونکہ اس سے صلاة الخوف کی مشروطیت غزوہ خندق کے بعد بھی خلاف واقعہ ہو جاتی ہے کیونکہ غزوہ خندق تو جیسا کہ مشہور ہے ماہ الہی سال چہارم ہجری میں واقع ہوا جو کئی مستند روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

غورث بن حارث کا قصہ

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع ہی کے موقع پر جب مسلمانوں کا مقابلہ غطفان و محارب سے ہوا تھا تو غورث نے جو انہیں میں کا ایک شخص تھا ان سے کہا تھا کہ ”کیا تم چاہتے ہو کہ میں محمد کو قتل کر دوں؟“ ان لوگوں نے کہا: ”ہم چاہتے تو ہیں مگر تم انہیں کس طرح قتل کرو گے؟“ وہ بولا:

”میں ان کے معتقد کی حیثیت سے یا بطور قاصدان کے پاس جاؤں گا اور پھر تم سن لینا کہ میں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔“

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ غورث اپنے ان لوگوں سے یہ کہہ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایسا ظاہر کیا کہ وہ اپنی قوم کی طرف سے کوئی پیغام لایا ہے اور اس کی گفتگو سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس نے آپ کی تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا: ”آپ اپنی یہ تلوار دیکھ رہے ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”ہاں دیکھ رہا ہوں“ اس نے آپ کی تلوار اٹھا کر آپ سے کہا: ”کیا آپ مجھ سے خائف نہیں ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”نہیں“ اس کے بعد وہ بولا: ”اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”اللہ“ یہ سن کر اس نے تلوار میان سے نکال کر آپ پر حملہ کرنا چاہا لیکن تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور ایسا معلوم ہوا کہ ایسے ہی مواقع سے دو چار ہونے پر مسلمانوں کے حق میں مندرجہ ذیل وحی آپ پر نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ..... الخ﴾

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی نضیر کے بھائی عمرو بن جحاش سے متعلق ہے لیکن انہوں نے بھی اس کا نام غورث ہی بتایا ہے لیکن ایک دوسری روایت میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت آپ کی تلوار درخت کی اس شاخ پر ٹنگی ہوئی تھی جس کے نیچے آپ تشریف فرما تھے اور غورث نے وہ تلوار وہیں سے اتاری تھی اور اس کے بعد وہی واقعہ پیش آیا جس کا سطور بالا میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس دوسری روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آنحضرت نے غورث کو مسلمان ہونے کی ہدایت فرمائی تھی۔ تاہم وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس نے آپ سے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ آپ کے مقابلے میں پھر کبھی نہیں آئے گا اور نہ کبھی آپ سے جنگ کرنے والوں کا ساتھ دے گا۔

بیہقی نے غزوہ ذات الرقاع کا ذکر کرتے ہوئے جہاں اس موقع پر صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے وہیں یہ واقعہ بھی اسی طرح بیان کیا ہے جیسے مذکورہ بالا روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ صلاۃ الخوف کا یہ ذکر حافظ بیہقی نے کتاب الاحکام میں کیا ہے۔ واللہ اعلم

اس عورت کا قصہ جس کا شوہر گم ہو گیا تھا

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے ان کے چچا صدقہ بن یسار نے عقیل بن جابر اور جابر بن عبد اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جہاں آنحضرت ﷺ نے مدینے سے روانگی کے بعد پہلی بار ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا وہاں ایک عورت جس کا نام بعد میں یوزنان بتایا گیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اس کا شوہر آپ کی خدمت میں یہیں آیا تھا لیکن واپس نہیں پہنچا۔ چنانچہ اس شخص کو ادھر ادھر تلاش کیا گیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ وہ بولی:

”اگر میرے شوہر کا پتہ نہ چلا تو میں بھی یہیں جان دے دوں گی۔“

اس کے بعد جب رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ عورت بھی پیچھے پیچھے لگی چلی آئی لیکن کچھ دیر کے بعد خود بخود غائب ہو گئی۔

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس منزل کے بعد آنحضرت کا پڑاؤ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ اس رات کو پہرے پر کون رہے گا؟ جس پر ایک مہاجر اور ایک انصاری نے اس کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ محمد بن اسحاق کے بقول وہ دو اشخاص عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما تھے۔ ان دونوں نے باہم مشورہ کر کے طے کرنا چاہا کہ ان میں سے اول شب کون پہرہ دے گا اور آخر شب پہرے پر کون ہوگا۔ مہاجر نے اول شب کے لیے اپنی خدمات پیش کیں تو ان کا ساتھی انصاری ان کے ساتھ نماز پڑھ کر سو گیا۔ اور مہاجر پہرہ دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کچھ فاصلے پر کوئی شخص کھڑا ہے۔ چنانچہ اس نے فوجی قواعد کے مطابق پہلے بلند آواز میں پکار کر دوبار پوچھا: ”کون ہے؟“ لیکن جب دوسری بار بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اسے دشمن کا کوئی جاسوس سمجھ کر اس کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ نشانہ خطا نہیں ہوا تھا لیکن وہ شخص پھر بھی اس طرح تنا کھڑا تھا۔ مہاجر نے دوسرا تیر چلایا اور پھر تیسرا لیکن وہ شخص اب تک اسی طرح کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس پہرے دار نے اپنے انصاری ساتھی کو بیدار کر کے سارا ماجرا سنایا۔ پھر ان دونوں نے گھاٹی کے کنارے پہنچ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ البتہ ایک خوب صورت بڑا سا پرندہ ایک ستون نما ابھرے ہوئے پتھر کے پاس مردہ پڑا تھا۔

ان دونوں پہرے داروں نے جب صبح کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پچھلی رات کا واقعہ سنایا اور اس پرندے کو بھی پیش کیا تو آپ نے ان سے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے:

”کوئی شخص آیا ضرور تھا لیکن ان چٹانوں میں یہ پرندہ بسیرا کر رہا تھا اور اس کی آہٹ سن کر پھڑ پھڑایا تھا تو اس شخص نے اسے مار ڈالا اور خود فرار ہو گیا۔ اس پرندے کی پھڑ پھڑاہٹ پر پہلا پہرے دار یوں کا تھا اور پھر آواز دینے کے بعد ادھر

سے جواب نہ ملنے پر کسی جاسوس کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے تین تیر اس جانب پھینکے لیکن وہ تینوں تیر اس ستون نما
 ابھرے پتھر پر لگے کیونکہ تمہیں خبردار دیکھ کر اس شخص نے اسی پتھر کی آڑ لے لی تھی اور پھر چپکے سے فرار ہو گیا۔ میں تصور
 میں یہ سب باتیں دیکھ رہا ہوں۔ بہر حال یہی پرندہ ہمارے آڑے آیا۔ یہ اتنا خوبصورت پرندہ اپنی بان سے گیا۔ لیکن
 ہمارے لیے اس کے فرخ فال ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔“

واقعی نے جہاں اس موقع پر ’صلاة الخوف‘ کی تفصیل بیان کی ہے اس کے ساتھ ہی اس واقعے کو بھی تفصیلاً بیان کیا

ہے۔ واللہ اعلم



جابر بنی اللہ کے اونٹ کا قصہ

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے وہب بن کیسان نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہی کی زبانی یہ قصہ بیان کیا۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب وہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی قیادت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے مدینے سے روانہ ہو کر اس درخت کے قریب ٹھہرے جسے لوگ ذات الرقاع کہتے تھے اور اسی درخت کے نام سے اس غزوے کا نام بھی ابھی تک غزوہ ذات الرقاع چلا آتا ہے اور پھر وہاں سے آگے روانہ ہوئے تو ان کا بوڑھا اونٹ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا:

”جابر بنی اللہ! تم اس اونٹ کا کوڑا یا اس درخت سے ایک لکڑی ہی توڑ کر مجھے دے دو۔ پھر دیکھو کہ یہ اونٹ کس طرح دوڑتا ہے۔“

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانا نہ رہا کیونکہ اب ان کا اونٹ دوسرے مجاہدوں کے اونٹوں سے بھی تیز رفتار سے چل رہا تھا۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ مجھے حیران دیکھ کر غالباً اس اونٹ کے بارے میں میری حیرت کم کرنے کے لیے مجھ سے دریافت فرمایا: ”جابر تمہاری شادی ہو گئی ہے“ میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) میرے والد نے جو سات کنیزیں اپنی زندگی میں خریدی تھیں ان میں سے ایک کنیز مجھے دی تھی اور میں نے اسی سے شادی کر لی تھی۔ پھر غزوہ احد میں ان کی شہادت کے بعد میرے حصے میں بس یہ بوڑھا اور کمزور اونٹ ہی آیا ہے۔“

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ سن کر آپ نے فرمایا:

”کیا تم یہ بوڑھا اور کمزور اونٹ میرے ہاتھ ایک درہم میں فروخت کرو گے؟“

پھر خود ہی فرمایا: ”چلو دو درہم لے لو۔“

پھر اس کے بعد دوسری منزل تک آپ اس ناکارہ اونٹ کی قیمت بڑھاتے ہی چلے گئے حتیٰ کہ آخر میں آپ نے اس کی قیمت ایک فوطیہ (پاؤچھٹا تک) سونا تک لگا دی۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس کریمانہ طرز عمل پر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی لیکن آپ نے انہیں رضامند دیکھ کر وہ آخری قیمت انہیں اسی وقت ادا فرمادی۔ تاہم ان سے وہ اونٹ مدینے میں واپسی کے بعد بھی طلب نہ فرمایا تو انہوں نے خود ہی اپنی بیوی کے ہاتھ اسے آپ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی

بیوی نے اس اونٹ کو مسجد کے دروازے کے قریبی درخت کی شاخ سے باندھا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا: ”بی بی تمہارا شوہر کہاں ہے؟“ وہ بولی: ”حضورؐ وہ گھر ہی پر ہیں۔“ پھر جب آپ نے اس کے شوہر جابر بن عبد اللہؓ کو طلب فرمایا تو دوڑ کر انہیں بالائی اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا پھر نہایت شفقت سے ارشاد فرمایا:

”جابر بن عبد اللہؓ! تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے باپ نے شہادت پائی ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا جان و مال خود خرید رکھا ہے۔“

جیسا کہ اس کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾

اور پھر وہ اپنے ارشاد کے مطابق:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

ان کے اعمالِ حسنہ سے زیادہ اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مومن شہادت کے بعد مردوں میں شامل نہیں ہوتے بلکہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں رہ کر کھاتے پیتے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

اس کے بعد آپ نے جابر بن عبد اللہؓ سے ارشاد فرمایا:

”شہیدوں کی جان و مال اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہوتے ہیں جس کی قیمت ساری کائنات بھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا تم اپنا اونٹ لے جاؤ اور میں نے تمہیں اس کی قیمت کے طور پر جو کچھ دیا ہے اسے میری طرف سے انعام سمجھو۔“

(حدیث کا مفہومی و تشریحی ترجمہ)

عمر بن عبد العزیز (رحمۃ اللہ علیہ) نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا:

”انسان کے لیے اس کی روح تک اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتی ہے۔ اس لیے آنحضرت (ﷺ) نے جابر بن عبد اللہؓ کو ان کے اونٹ کی جو قیمت دی تھی وہ بھی خدا کا عطیہ ہی تھی اور آپ نے ان کا جو اونٹ واپس کیا وہ بھی ان کے لیے عطیہ خداوندی ہی سمجھ کر کیا۔“

اس واقعے کو حافظ بیہقی نے ”کتاب الدلائل“ میں (”دلائل النبوة“) کے عنوان سے پیش کیا ہے۔



غزوہ بدر آخر

غزوہ بدر آخر وہی غزوہ ہے جس کے لیے ابوسفیان نے احد سے پسپا ہوتے ہوئے آخری بار ابوسفیان نے آنحضرت ﷺ کو دعوت مبارزت دی تھی اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قبول فرمایا تھا جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سے مدینے واپسی کے بعد رسول اللہ ﷺ نے وہاں جمادی الاول کے باقی دن اور جمادی الآخر اور جب کے دونوں مہینے گزارے پھر موعودہ مقام بدر کے قصد سے ماہ شعبان کے آغاز میں مدینے سے روانہ ہوئے۔ یہ میعاد تھی ہی تھی جس کے بعد ابوسفیان نے دوبارہ بدر میں آ کر مسلمانوں سے جنگ کا وقت مقرر کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ کو مدینے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینے سے روانہ ہو کر نبی کریم ﷺ سیدھے بدر پہنچے اور آٹھ روز تک ابوسفیان کی آمد کا انتظار فرماتے رہے۔

ادھر ابوسفیان جب مکے سے اپنے ساتھی مشرکین قریش کو ساتھ لے کر ظہران کی سرحد جندہ پہنچایا جیسا کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں عسکان تک آیا تو وہاں چند روز قیام کے بعد اسے مکے واپسی کی سوجھی۔ لہذا وہ اپنے ساتھیوں سے بولا:

”اے اہل قریش! تم جانتے ہو کہ اس مہینے میں ہم اپنے درختوں کی دیکھ بھال اور ان کی آبیاری کرتے ہیں اور اس مہینے میں سیر ہو کر دودھ بھی پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ ویسے بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے حق میں لڑائی کے لیے خوش آئند نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت ہم واپس لوٹ چلیں اور پھر کسی دوسرے مناسب موقع پر مسلمانوں سے بدر میں آ کر دو دو ہاتھ کریں۔“

چنانچہ مشرکین قریش ابوسفیان کی اس رائے سے انصاف کرتے ہوئے مکے واپس چلے گئے لیکن انہوں نے دوسروں کے سامنے اپنی ندامت منانے کے لیے اس بے فائدہ مہم کا نام ”جیش سویق“ یعنی مکے سے باہر جا کر ستویا شراب پینے والا لشکر رکھ دیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اتنے دن مکے سے باہر شراب نوشی کرنے اور داد عیش دینے گئے تھے۔

ادھر جب رسول اللہ ﷺ کو بدر میں ٹھہرے ہوئے آٹھ دن گزر گئے تو آپ کے پاس خشی بن عمرو ضمری آیا جس نے غزوہ ودان کے موقع پر بنی ضمرہ کی طرف سے آپ سے گفتگو کی تھی۔ اس نے آپ سے کہا:

”یا محمد! کیا آپ قریش مکہ سے مقابلے کے لیے بدر کے اس آبی مقام تک آئے ہیں؟“

آپ نے اسے جواب دیا:

”یہ درست ہے لیکن تمہارے سامنے بنی صمرہ کے ساتھ (غزوہ ودان کے موقع پر) جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اتر تم اسے توڑنے میرے پاس آئے ہو تو یہ الگ بات ہے۔“

خشعی بن عمرو ضمیری نے جواب دیا:

”میں تو آپ کی خدمت میں صرف یہاں آپ کی آمد کا مقصد معلوم کرنے آیا تھا ورنہ ہمیں آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑنے کا خیال تک نہیں ہے۔“

چونکہ قریش مکہ کی آمد کے انتظار میں اب کافی وقت ہو چکا تھا اور اس کے علاوہ خشعی بن عمرو ضمیری سے مندرجہ بالا گفتگو کے بعد بنی صمرہ کی طرف سے بھی محاصرت کا اندیشہ نہیں رہا تھا۔ اس لیے آنحضرت ﷺ بدر سے مدینے واپس تشریف لے آئے۔

واقعی کا بیان ہے کہ آنحضرت (ﷺ) اس دفعہ پندرہ سو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ماہ ذی قعدہ سال سوم ہجری میں مدینے سے بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے اور اپنی جگہ مدینے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا لیکن یہ واقعہ یعنی سال سوم ہجری میں آپ کا مدینے سے بدر کا قصد تو غزوہ بدر اول کا ہے اور اس موقع پر بھی آپ مدینے سے ماہ شوال میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے جس کا تفصیلی ذکر پہلے آچکا ہے۔ اس لیے غزوہ بدر آخر کے بارے میں ہم ابن اسحاق (رحمۃ اللہ علیہ) ہی کی روایت کو درست سمجھتے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب کے مسلمان بدر سے ایک درہم کے دو درہم کر کے لوٹے تھے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمَسُّهُمْ سُوٌّ وَّاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾



فصل:

سال چہارم ہجری کے واقعات کا خلاصہ

ابن جریر کہتے ہیں کہ اس سال ماہ جمادی الاول میں رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ کے بطن سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے وفات پائی، ان کی عمر اس وقت چھ سال تھی، ان کی نماز جنازہ خود رسول اللہ ﷺ نے پڑھائی اور انہیں قبر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اتارا۔

کہا جاتا ہے کہ اسی سال ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم مخزومی قرشی نے بھی جو رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی برآہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے وفات پائی۔ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے رضاعی بھائی تھے۔ انہیں اور آنحضرت ﷺ دونوں کو ثویبہ نے جو ابولہب کی کنیز تھی ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ ابوسلمہ، ابوعبیدہ، عثمان بن عفان اور ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہم چاروں ہی ایک دن مسلمان ہوئے تھے۔ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکہ سے حبشہ کو ہجرت کی تھی جہاں ان کی اولاد بھی پیدا ہوئی تھی۔ پھر وہ حبشہ سے مکہ واپس آ کر پہلے خود وہاں سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینے گئے تھے اور پھر اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے وہیں بلا لیا تھا۔ وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں شریک ہوئے تھے لیکن غزوہ احد میں بڑے شدید زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں انہی زخموں کی تکلیف سے وفات پا گئے تھے۔ ان کی اس شدید علالت، ان کی حد درجہ تکلیف اور وفات کے بارے میں صرف ایک ہی روایت ہے جسے ہم آگے چل کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور نبی کریم ﷺ کے عقد کے ذکر سے قبل ان شاء اللہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ (مؤلف)

ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ اسی سال یعنی سال چہارم ہجری میں ماہ شعبان کی چند راتیں گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی سال ماہ رمضان المبارک میں آنحضرت ﷺ نے زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبدمناف بن ہلال بن عامر بن صعصعہ ہلالیہ سے شادی کی تھی۔

ابوعمر و بن عبدالبر نے علی بن عبدالعزیز جرجانی کے حوالے سے پہلے بیان کیا کہ اس سال آپ کے عقد میں آنے والی میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن بنت حارث تھیں لیکن بعد میں اس کی تصحیح کر کے بتایا کہ وہ زینب بنت خزیمہ بن حارث ہی تھیں۔ زینب بنت خزیمہ بن حارث رسول اللہ ﷺ کی وہی زوجہ تھیں جنہیں عموماً ام المساکین کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مساکین پر حد سے زیادہ مہربان تھیں اور انہیں ہمیشہ صدقات و خیرات سے بہت زیادہ نوازتی رہتی تھیں لیکن ان کی طرف سے یہ صدقات ماہ رمضان المبارک میں خصوصاً بہت بڑھ جاتے تھے۔ وہ آپ کی زوجیت میں آنے سے قبل طفیل بن حارث کی بیوی تھیں جس نے انہیں طلاق دے دی تھی۔

ابو عمر بن عبدالبر علی بن عبدالعزیز جرجانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن حارث سے طلاق کے بعد ان سے طفیل کے بھائی عبیدہ بن حارث نے نکاح کر لیا تھا لیکن ابن اثیر نے اپنی کتاب ”غابہ“ میں بیان کیا ہے کہ طفیل بن حارث سے طلاق کے بعد وہ عبداللہ بن جہش کے عقد میں آئی تھیں جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔

ابو عمر کہتے ہیں کہ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ کے دوران ہی میں وفات پا گئی تھیں اور یہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ ان کی زوجیت کا دوران کی وفات تک دو تین ماہ سے زیادہ نہیں رہا۔

واقفی کہتے ہیں کہ اسی سال ماہ شوال میں آنحضرت ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا بنت ابی امیہ سے عقد کیا تھا جو اس سے قبل ابوسلمہ بن عبدالاسد کے نکاح میں تھیں لیکن غزوہ احد میں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم اس وقت ان کے زخم علاج کے بعد ٹھیک ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک مہم میں بھی حصہ لیا تھا جس میں انہیں بطور مال غنیمت بہت ساز رنقد اور سامان ملا تھا لیکن اس مہم کے بعد ان کے پہلے زخم پھر عود کر آئے تھے اور انہی کی شدید تکلیف کی وجہ سے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے وہ سترہ دن بعد جب کہ ماہ جمادی الاول سال چہارم ہجری کے تین روز باقی تھے۔ وفات پا گئے تھے اور ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان سے عقد کر لیا تھا آپ نے جب عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا تھا تو انہوں نے کہا:

”ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد میری غیرت تقاضا نہیں کرتی نہ اجازت دیتی ہے کہ میں کسی اور کی زوجیت میں جاؤں۔ اس کے

علاوہ میرے بچے ابھی صغیر سن ہیں ان کی کفالت کون کرے گا؟“۔

اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا:

”جو ان بیوہ کا دوسری شادی نے انکار عذاب الہی کا باعث ہوتا ہے اور تمہارے بچوں کی کفالت کے لیے خدا اور خدا کے

رسول ﷺ کا فی ہے، کیا تمہیں ان پر اعتماد نہیں ہے؟“۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے وہ قائل ہو کر آنحضرت ﷺ کے ساتھ عقد پر راضی ہو گئی تھیں۔

آپ کے ساتھ اس نکاح کے بارے میں از روئے شریعت امام شافعی، امام ابوحنیفہ، امام احمد، اور امام مالک کی جو آرائیں ہیں ان پر ہم ان شاء اللہ اپنی کتاب احکام الکبیر میں کتاب النکاح کے تحت تفصیلی گفتگو کریں گے۔

امام احمد مختلف حوالوں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان کرتے ہیں جنہوں نے فرمایا:

”ایک روز ابوسلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہو کر میرے پاس آئے تو بولے: ”آج میں نے رسول اللہ ﷺ (ﷺ)

سے جو بات سنی اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی“۔ آپ نے فرمایا: ”جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ گھبراتا

نہیں بلکہ اس پر صبر کرتا ہے اور نا امید نہیں ہوتا اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ”یا اللہ مجھے اس مصیبت میں صبر کی توفیق دے

اور اس کا بہتر اجر دے اور اس کے ذریعہ میرے آئندہ نیک مقاصد میں اضافہ فرما دے اور مجھے ان پر عمل کی توفیق عطا

فرما“۔ (حدیث کا تشریحی ترجمہ)

ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے ان کی زبانی رسول اللہ ﷺ کا جو ارشاد سنا تھا

اس پر عمل کیا لیکن میں سوچتی تھی کہ ان کی وفات پر جو میں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اس سے بہتر جزا کے لیے دعا مانگی تو ابو سلمہؓ سے بہتر آخر مجھے کیا مل سکتا ہے؟ پھر جب رسول اللہ (ﷺ) نے مجھے نکاح کا اپنے لیے پیغام بھیجا اور میں نے چار و ناچار آپؐ سے عقد کر لیا تو اس کے بعد میں نے ایک روز آپؐ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے معاف فرما دیجیے کہ میں اول اول یہ سوچ کر آپؐ کے ساتھ نکاح پر رضامند نہ تھی کہ میں ابوسلمہؓ کی عیال کے بعد کسی دوسرے مرد کی بیوی کیسے بنوں کیونکہ میری غیرت مجھے اس سے روکتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی زیادہ عمر اور اپنے بال بچوں کا بھی خیال تھا کہ میرے نکاح کے بعد ان کا کیا ہوگا یعنی ان کی پرورش اور نان نفقے کا کون ذمہ دار ہوگا لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہیں میں اپنی اس سوچ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی مستحق نہ ٹھہروں اس لیے آپؐ سے عقد کی اجازت دے دی۔“

یہ سن کر رسول اللہ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا:

”میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ غیرت و حمیت کے اظہار پر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا نہ تمہاری عمر کا مجھے خیال تھا نہ اس کا ذکر کیا تھا کیونکہ خود میری عمر بھی کچھ کم نہ تھی۔ رہی تمہارے بال بچوں کی بات تو تمہارے بچے بھی اب میرے ہی بچے ہیں۔“ (حدیث کا باحادہ مفہومی و تشریحی ترجمہ)

ام سلمہؓ کی عیال کہتی ہیں کہ انہوں نے ابوسلمہؓ کی وفات پر جو صبر کیا تھا اور اس پر خدا سے بہتری کی امید رکھی تھی وہ اس صورت میں پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابوسلمہؓ سے یقینی طور پر بہتر شوہر رسول اللہ (ﷺ) کی شکل میں عطا فرمایا جو ابوسلمہؓ کی عیال ہی سے بہتر نہیں بلکہ ساری بنی نوع انسانی میں بہترین ہیں۔

یہ روایت ترمذی و نسائی نے حماد بن سلمہ کی زبانی ثابت اور ابن عمر بن ابوسلمہؓ کے حوالے سے پیش کی ہے اور ابن ماجہ نے اسے ابی بکر بن ابی شیبہ یزید بن ہارون عبد الملک بن قدامہ اور ان کے والد قدامہ اور عمر بن ابوسلمہؓ کے حوالے سے تحریر کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ ابوسفیان کی دھمکی کے جواب میں مقررہ وقت پر موعودہ مقام یعنی بدر تک پہنچے اور وہاں آٹھ روز تک مسلسل قیام کے بعد بھی اور ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کی آمد کے کچھ آثار نظر نہ آئے تو آپؐ وہاں سے واپس مدینے تشریف لے آئے اور مدینے ہی میں ماہ ذوالحجہ کے ختم ہونے تک قیام فرمایا اور یہ سال سال چہارم ہجری تھا۔

واقعی کہتے ہیں کہ اسی سال یعنی سال چہارم ہجری میں رسول اللہ (ﷺ) نے زید بن ثابتؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ کتاب یہود کا مطالعہ کریں اور صحیح بخاری میں درج روایت کے مطابق انہوں نے یہ مطالعہ پندرہ دن میں ختم کر لیا تھا۔ واللہ اعلم



سال پنجم ہجری کے واقعات

غزوہ دومۃ الجندل:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سال چہارم ہجری میں غزوہ بدر آخر کے بعد سال پنجم ہجری میں آنحضرت ﷺ غزوہ دومۃ الجندل کے لیے مدینے سے تشریف لے گئے۔ ابن ہشام اسے اس سال کے ماہ ربیع الاول کا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے مدینے کی حفاظت و نگرانی کے لیے سباع بن عرفۃ غفاری کو مقرر فرمایا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہاں کے راستے میں آپ کا مشرکین کے کسی گروہ سے سامنا نہیں ہوا۔ اس لیے آپ کسی سے جنگ کے بغیر مدینے واپس تشریف لے آئے تھے اور باقی سال وہیں گزارا تھا۔

واقدی اپنے شیوخ اور اسلاف کی ایک جماعت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ (ﷺ) نے دومۃ الجندل یعنی شام کی سرحد کے اس قریبی مقام کا قصد فرمایا تھا تو اس کی وجہ قیصر روم کی طرف وہاں گڑبڑ کی اطلاع تھی اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ دومۃ الجندل میں قیصر کے لوگ کثرت سے جمع ہو کر وہاں کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور وہاں خرید و فروخت کے لیے انہوں نے بازار لگا رکھے ہیں اور وہ عنقریب مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے آپ مدینے سے دومۃ الجندل کے ارادے سے ایک ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم کو باقاعدہ مسلح کر کے روانہ ہوئے۔ آپ نے قریبی راستہ بتانے کے لیے بنی عذرہ کا ایک رہبر لے لیا تھا جسے ”رہبر خیریت“ کہا جاتا تھا۔ آپ دن بھر سفر فرماتے اور رات کے وقت قیام فرماتے تھے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ دومۃ الجندل کے قریب پہنچے تو مذکورہ بالا رہبر نے بتایا کہ اس سے ذرا آگے بنی تمیم کی بستی تھی جو آپ کے وہاں پہنچنے پر آپ کے پاس آ کر طرح طرح کی باتیں بتا رہے تھے۔ اس لیے آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک دستہ دومۃ الجندل روانہ فرمایا جس نے لوٹ کر بتایا کہ اس بستی کا ایک ایک شخص عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بستی خالی کر کے ادھر ادھر بھاگ گیا ہے۔ تاہم ان کے ہاتھ قیصر کا ایک آدمی لگ گیا تھا جسے گرفتار کر کے انہوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی اور وہ اسے قبول کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ مدینے واپس تشریف لے آئے تھے۔

واقدی کے بیان کے مطابق اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے مدینے سے باہر ایک مہینہ گزارا تھا۔



غزوة خندق یا غزوة احزاب

غزوة خندق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مندرجہ ذیل آیات نازل فرمائی ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ

تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا..... الخ ﴿﴾

ہم نے ان آیات شریفہ کی مکمل تفسیر اپنی ”کتاب التفسیر“ میں بیان کی ہے۔ یہاں ہم صرف متعلقہ واقعے پر مختصر گفتگو کریں

گے۔

ابن اسحاق، عروہ ابن زبیر، قتادہ اور بیہقی نیز جملہ علمائے سلف و خلف نے بیان کیا ہے کہ غزوة خندق ہجری سال پنجم کے دوران ماہ شوال میں واقع ہوا تھا۔ تاہم موسیٰ بن عقبہ نے زہری کے حوالے سے بتایا ہے کہ غزوة خندق کا واقعہ ماہ شوال سال چہارم ہجری میں گزرا تھا۔ امام مالک بن انس نے احمد بن حنبل کی زبانی موسیٰ بن داؤد کے حوالے سے اس سلسلے میں جو روایت پیش کی ہے اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ البتہ یہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان جملہ حضرات کی مراد سال چہارم ہجری سے متفقہ طور پر یہ ہے کہ یہ واقعہ سال چہارم کے بالکل آخر میں یا سال پنجم کے اختتام سے قبل گزرا تھا۔

بہر کیف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غزوة احد کے بعد مشرکین جن کا سربراہ ابوسفیان تھا جاتے جاتے مسلمانوں کو بدر کے مقام پر ایک اور جنگ کی دھمکی دیتے گئے تھے لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے وہ عسکان ہی تک دوبارہ آئے تھے اور وہیں سے بہانہ بنا کر لوٹ گئے تھے۔ تاہم جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشرکین کی دھمکی کے جواب میں بدر کے مقام موعود تک ماہ شعبان سال چہارم ہجری میں تشریف لے گئے اور وہاں آٹھ دن تک مشرکین کی آمد کا انتظار کر کے مدینے واپس آ گئے تھے۔ اس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ غزوة خندق اس کے صرف دو مہینے بعد کا یعنی سال چہارم کا واقعہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیز اسی سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ غزوة خندق کا واقعہ ماہ شوال سال پنجم ہجری ہی میں گزرا تھا۔ واللہ اعلم

غزوة خندق کی وقوع پذیری کے بارے میں راویوں میں اختلافات کے باوجود یہ بات اب متحقق و مشہور ہو چکی ہے اور اسی پر جمہور کا اتفاق ہے کہ غزوة خندق کا واقعہ ماہ شوال سال پنجم ہجری میں گزرا تھا۔ واللہ اعلم

ابن اسحاق غزوة خندق کے بارے میں جملہ روایات کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہی کہتے ہیں کہ درحقیقت یہ واقعہ ماہ

شوال سال پنجم ہجری میں گزرا تھا۔

اس کے بعد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے یزید بن رومان نے عروہ وغیرہ نیز عبید اللہ بن کعب بن مالک، محمد بن کعب قرظی،

زہری، عاصم بن عمر بن قتادہ اور عبداللہ بن ابی بکر کے حوالے سے بتایا کہ:

غزوہ خندق کی وجہ یہ تھی کہ یہود نے کچھ لوگ جن میں سلام بن ابی الحقیق نصیری، عیسیٰ بن اخطب نصیری، کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق، ہوذہ بن قیس، والکی، ابوعمار وائل اور بنی نصیر کے چند دوسرے لوگ جمع ہو کر مشرکین قریش کے پاس مکے گئے اور ان سے کہا کہ اگر وہ لوگ آنحضرت ﷺ سے واقعی پھر نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان کا ساتھ دیں گے۔

اس پر مشرکین قریش نے انہیں جواب دیا کہ:

”تم خود اہل کتاب ہو اور محمد ﷺ کا مذہب تمہارے مذہب سے ملتا جلتا ہے، پھر تم کس بنیاد پر ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو جب کہ محمد سے ہمارا تنازع محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے ہے۔“

مشرکین قریش کی اس دلیل کے جواب میں بنی نصیر کے مذکورہ بالا یہودیوں نے ان سے کہا:

”ہمارے نزدیک تمہارا قدیمی مذہب محمد کے نئے دین سے بہتر ہے اور اس کے علاوہ ہم انہیں خدا کا نبی مانتے ہی نہیں ہیں۔“

کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہود کی اس سازش کے بارے میں مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئی تھیں:

﴿الَّذِينَ تَرَأَى الدِّينَ أَوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ الخ﴾

جب بنی نصیر کے مذکورہ بالا افراد نے جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، مشرکین مکہ کے پاس جا کر انہیں آنحضرت ﷺ کے خلاف جنگ پر ابھارا، ان کے دین کو دین محمدی سے قدیم تر اور بہتر بتایا اور ساتھ ہی جنگ میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو مشرکین قریش حد درجہ مسرور ہوئے اور غزوہ بدر، غزوہ احد میں اپنی شکستوں اور جانی و مالی نقصانات کی تلافی کے لیے ایک بار پھر آپ کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئے تو یہودیوں کی وہ جماعت شاداں و فرحاں مکے سے لوٹ کر قیس عیلان کے علاقے میں قبیلہ غطفان کے پاس آئی اور اسے بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کر کے ان سے کہا کہ صرف وہ لوگ ہی نہیں بلکہ بنی نصیر کے علاوہ دوسرے تمام قبیلے بھی ان کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں گے اور ان سے یہ بھی کہا کہ قریش مکہ کا ایک کثیر التعداد لشکر بھی ان کے پیچھے پیچھے اس جنگ میں شرکت اور ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ بھی بخوشی مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ ہو گئے اور جب اس کے بعد مشرکین قریش کا جیسا کہ ان یہودیوں نے کہا تھا، ایک بھاری لشکر بھی وہاں پہنچ گیا تو قبیلہ غطفان کے قائد جن میں سے عیینہ بن حصن بن حدیفہ بن بدر کا تعلق غطفان کی ایک شاخ بنی فزارہ سے تھا، حارث بن عوف بن ابی حارثہ المری کا بنی مرہ سے اور مسعر بن زخیلہ بن نویرہ ابن طریف بن سخمہ بن عبداللہ بن ہلال بن خلاوہ بن اشع بن ریث بن غطفان کا تعلق خود اپنے خاص قبیلہ غطفان سے تھا اچھی طرح مسلح ہو کر دوسرے تمام جنگی ساز و سامان سے بھی لیس ہو گئے تو ان کی پیروی میں ان قبائل کے دوسرے بہادر نوجوان اور جنگ میں آزمودہ کار سب لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے جمع ہو گئے اور پھر یہ سب لوگ مذکورہ بالا یہودیوں اور مشرکین مکہ کے اس لشکر کے ساتھ مل کر مدینے پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔

جب نبی کریم ﷺ کو یہ اطلاع ملی اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی تو آپ نے مدینے کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔

ابن ہشام بعض چشم دید گواہوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا مشرور آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ طبری اور سبکی بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے ایسی خندق منوچہر بن ایرج بن فریدون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کھدوائی تھی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے بھی اسی نمونے کی خندق مدینے کے گرد کھدوائی تھی تاکہ دشمن مدینے میں آسانی سے داخل نہ ہو سکے اور مسلمان اس کی جارحیت سے محفوظ رہیں جیسا کہ متعدد روایات سے ثابت ہے تمام جوان اور بوڑھے مسلمانوں کے علاوہ خود آنحضرت ﷺ بہ نفس نفیس اس کام میں آخر تک شریک رہے۔ البتہ منافقین کا ایک گروہ اس کام میں ضعیفی کا عذر کر کے شریک نہیں ہوا۔ ویسے انہی میں سے کچھ لوگ دوسروں سے چھپ کر صرف کبھی کبھی رسول اللہ ﷺ کو دکھانے اور آئندہ الزام سے بچنے کے لیے تھوڑا سا کام کر لیتے تھے اور آپ سے اجازت لیے بغیر ہی چلے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات اسی سلسلے میں نازل فرمائی تھیں:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الخ ﴾

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینے کے مسلمان جب تک آنحضرت ﷺ کا حکم تھا خندق کی کھدائی میں برابر لگے رہے۔ انہی میں ایک شخص جعیل نامی اتنی تندہی سے کام کرتا تھا کہ دوسرے لوگ اسے عمرو کہہ کر اور کبھی ظہر کے نام سے بلانے لگے تھے حتیٰ کہ خود رسول اللہ ﷺ بھی اسے انہی ناموں سے پکارنے لگے تھے۔

بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن محمد، معاویہ بن عمرو اور ابوالاسحاق نے حمید کے حوالے سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کبھی علی الصبح سردی سے کانپنے اور دھوپ میں پسینے سے شرابور اور بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود انتہائی تندہی سے خندق کی کھدائی میں مصروف دیکھا تو فرمایا:

”یا اللہ! عیش (درحقیقت) عیش آخرت ہے (بہر حال) ان انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔“

اسی روایت کے مطابق وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بارے میں آنحضرت ﷺ کے ان تاثرات اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا فرمانے کے جواب میں ایک زبان ہو کر کہتے تھے:

”ہم وہ لوگ ہیں جو بدست محمد جہاد کے لیے بکے ہیں اور جب تک زندہ ہیں ہمیشہ اس میں مصروف رہیں گے۔“

صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں یہ روایت شعبہ کی زبانی معاویہ بن قرہ اور انس کے حوالے سے اس طرح درج ہے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے ابو عمر اور عبدالوارث نے عبدالعزیز اور انس کے حوالے سے بیان کیا کہ جب انصار و مہاجرین مدینے کے گرد خندق کھود رہے تھے تو وہ ترنم سے کہتے جاتے تھے:

نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا أبدا .

اور ان کے جواب میں آنحضرت ﷺ فرماتے تھے:

اللهم انه لا خير الاخير الاخير الآخرة فارك في الانصار و المهاجرة

بخاریؒ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت ان صحابہ کرام کو کمانے کے لیے جو کی روٹی کا کوئی ٹکڑا مشکل ہی سے ملتا تھا۔

بخاریؒ مزید فرماتے ہیں کہ اس موقع پر خندق سے مٹی نکالتے وقت خود آنحضرت ﷺ کا سر اور جسم مٹی سے اٹ جاتا تھا یا

نہا آلود ہو جاتا تھا۔

یہی کہتے ہیں کہ مدینے کے گرد خندق کی کھدائی کے لیے سب سے پہلے کدال خود نبی کریم ﷺ نے بسم اللہ کہہ کر اٹھایا

تھا۔ بخاریؒ یہ روایت نمبر کی زبانی شعبہ کے حوالے سے بیان کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران میں اگر کھانے کے لیے شہر سے کوئی چیز آتی تو آنحضرت ﷺ اسے مہاجرین و انصار میں تقسیم فرمادیتے تھے لیکن جب تنوری روٹیاں زیادہ تعداد میں آئیں اور ان کے ساتھ کافی مقدار میں شہد یا گوشت آتا تو اسے بھی آپ ان تین سو مہاجرین و انصار میں تھوڑا تھوڑا تقسیم فرمادیتے یا کبھی کبھی خود بھی تھوڑا سا چکھ لیتے جب کہ آپ شکم مبارک پر اکثر پتھر کی تیلیں باندھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر آپ کی زبان مبارک پر جاری رہتا۔ البتہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مسلسل دعا فرماتے رہتے تھے۔

بتایا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مدینے کے گرد چودہ گز چوڑی اور اسی قدر گہری خندق کھدوائی تھی اور جب اس میں سے سفید چمک دار مٹی نکال کر آپ کو دکھائی گئی تو پہلے آپ نے فرمایا کہ ”اس میں مجھے شام کی فتح کے آثار نظر آ رہے ہیں“ دوسری بار آپ نے فرمایا کہ ”اس میں کسری کے محلات کے آثار ہیں اور اس میں فارس کی فتح کی نشانیاں ہیں“ اخیر میں تیسری بار فرمایا کہ ”اس مٹی میں یمن و صنعاء کی مٹی کے آثار ہیں، جنہیں مسلمان ان شاء اللہ جلد فتح کریں گے“۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے ان اقوال مبارک میں کس قدر صداقت پوشیدہ تھی۔ (مؤلف)

متعدد و مستند روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا خندق کے کامیابی سے اختتام پر آنحضرت ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنہوں نے اس خندق کی کھدائی کا مشورہ دیا تھا فرمایا تھا ”سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں“۔ اور ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ البتہ منافقین صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس محنت و مشقت پر ہنستے اور اسے کارفضول بتا کر انہیں طعنے دیتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ انہیں مدینے کے گرد اس خندق میں قصور حیرہ اور کسری کے محلات مدائن دکھا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل آیت انہی منافقین کے بارے میں اتری تھی:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾

متعدد مستند روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی ضربات کے بعد رہ رہ کر خندق کے کنارے تشریف فرما ہو کر فرق مبارک پر اپنی ردائے پاک ڈال لیتے اور مسلمان رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ:

”اس میں منہ ڈال کر دیکھو تو تمہیں قصور قیصر و کسری نظر آئیں گے جنہیں ان شاء اللہ وہی مسلمان فتح کریں گے جو اس

وقت یہ خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔“

اس کے جواب میں وہ مناظر دیکھ کر مسلمان رضی اللہ عنہم عرض کرتے:

”یا رسول اللہ (ﷺ) آپ نبی برحق اور صادق القول ہیں۔“

کہتے ہیں کہ جب مذکورہ بالا خندق اختتام کو پہنچی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی اس کامیابی پر خوش ہو کر اطمینان کا سانس لیا تو آنحضرت ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جن ممالک کے تصور و محلات اور ان کے گرد و نواح کے مناظر آنحضرت ﷺ نے سلمان رضی اللہ عنہ کو اپنی ردائے مبارک کے اندر دکھائے تھے وہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ادوار خلافت میں اور اس کے بعد مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے اور یہ سب کچھ اسی بشارت کا نتیجہ تھا جو مذکورہ بالا خندق کی کھدائی کے وقت رب العزت نے آپ کو دی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی بلند حوصلگی کے باوجود اس بشارت کو ایمان کامل کے سہارے حق یقین سمجھے بغیر اتنی وسیع و عریض اور طاقت ور سلطنتیں کیسے فتح کر سکتے تھے یقیناً اسی بشارت کی بنیاد پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

ان اللہ زوی لی الارض مشارقها و مغاربها و سیبلغ امتی ما زوی لی منها.

”یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے کچھ مشرقی و مغربی حصے مجھے بخشے ہیں جو عنقریب میری امت کی ملکیت بنیں گے۔“



فصل:

غزوہ خندق کے بعد

ابن اسحق کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ خندق کے کام سے فارغ ہوئے تو آپ جیسا کہ سنا گیا تھا مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ شریک قبائل کی مدینے کی طرف آمد کے منتظر رہے جس کے بعد حسب توقع وہ لوگ آ ہی پہنچے۔ مشرکین قریش اپنے دس ہزار ٹڈی دل لشکر کے ساتھ جن میں حبشیوں کی کثیر تعداد کے علاوہ ان کے حامی بنی کنانہ اور دوسرے تہامی قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔ جب وہ غطفان پہنچے تھے تو غطفانی قبائل بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور اس کے بعد اہل نجد بھی ان میں شریک ہو گئے یہاں تک کہ وہ احد کی طرف ”ذنب لقی“ تک پہنچ گئے اور ان کا رخ مدینے کی طرف ہوا تو آنحضرت ﷺ تین ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ مدینے سے آگے بڑھے حتیٰ کہ ان دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے درمیان حد فاصل خندق رہ گئی۔ دشمن کے مقابل جانے سے قبل آپ نے مدینے کی خواتین کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی چھتوں سے لڑائی کا مشاہدہ کریں لیکن شہر کی حدود سے آگے آنے کی کسی حالت میں کوشش نہ کریں۔

جب مشرکین نے مینہ و میسرہ کو پھیلا کر مدینے کے بالائی اور نشیبی دونوں طرف لڑائی کے لیے محاذ بنایا تو مسلمانوں کو بھی آنحضرت ﷺ نے ان کے سامنے پوزیشن لینے کا حکم دیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی نبی کریم ﷺ نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہی کو مدینے کی اندرونی نگرانی اور انتظامات کے لیے مقرر فرمایا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل آیت اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر نازل فرمائی تھی:

﴿وَإِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَقَدْ رَأَيْتِ الْأَبْصَارَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾

بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے عثمان بن ابی شیبہ اور عبید نے ہشام بن عروہ ان کے والد اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کیا کہ اس آیت شریفہ کی شان نزول غزوہ خندق ہی کا دن ہے۔

موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ اور ان کے حامی قبائل (احزاب) گروہ درگروہ مدینے کے گرد و پیش پہنچے تو بنی قریظہ بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے۔

ابن اسحق کہتے ہیں کہ جس وقت حمی ابن اخطب نضری اپنے قبیلے کی صفوں سے نکل کر آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر کعب بن اسد قرظی جو اس قبیلے کے حل و عقد اور معاہدوں میں پیش پیش رہ کر ان کے معاملات طے کیا کرتا تھا بھاگتا ہوا اول الذکر کے قریب پہنچا اور اس سے کہا:

”اے حمی! تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم ہم سے آگے اور علیحدہ رہ کر اہل مدینہ کے خلاف جنگ میں پہل کرنا چاہتے ہو؟“

حمی ابن الخطاب تیوری چڑھا کر بولا:

”تم میرا راستہ چھوڑ دو“

کعب نے کہا:

”اے حمی! مجھے تم پر افسوس ہے، میں یہاں تم لوگوں کو یہی یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ محمد (ﷺ) سے ہمارا معاہدہ صلح ہو چکا ہے جس میں ان کی طرف سے اب تک سرسوزی نہیں پڑا ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ اب تک ہمیشہ بھلائی سے پیش آئے اور ایفائے عہد کے پابند رہے ہیں پھر بتاؤ کہ میں ان کے خلاف جنگ میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں یا تمہیں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟“

حمی بولا: ”میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو“

کعب نے کہا:

”معلوم ہوتا ہے کہ تم قریش مکہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اور مدینہ کی لوٹ مار میں شریک ہو کر مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں محمد (ﷺ) کے ساتھ اپنے معاہدے کی مطلق پروا نہیں ہے؟“

حمی ابن الخطاب نے جواب دیا:

”چلو یہی سہی لیکن کیا تمہیں بھی محمد (ﷺ) کی طرف اپنے اس عمل کے صلے میں مال و دولت اور انعام و اکرام کی خواہش نہیں ہے؟ جبکہ تم مجھے یقین ہے قریش مکہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تکلیف اٹھا کر یہاں تک صرف اسی لیے آئے ہو۔“

یہ سن کر کعب نے یہ کہتے ہوئے حمی ابن الخطاب نصیری کا راستہ چھوڑ دیا کہ:

”بہر حال میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اور اب اپنے لوگوں کی حفاظت کے تم خود ذمہ دار ہو“

موسیٰ بن عقبہ بتاتے ہیں کہ حمی ابن الخطاب اور کعب کی اس گفتگو کے باوجود بنی قریظہ اور بنی نضیر کی بعد میں گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ اگر قریش مکہ ان کے ان نوے معزز لوگوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں جو ان کے پاس کسی معاہدے کے تحت رکھے ہوئے تھے تو وہ آنحضرت ﷺ سے کیا ہوا معاہدہ صلح توڑ کر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں اور اس کے بعد جب قریش مکہ نے موقع غنیمت جان کر اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا تو یہ لوگ آپ سے نقض معاہدہ پر تیار ہو گئے جن میں خود کعب بن سعد نصیری بھی شامل تھا لیکن بنی سعد کے اسد اسید اور ثعلبہ ان کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے آپ کی طرف چلے آئے۔

جب آنحضرت ﷺ کو بنی نضیر اور بنی قریظہ کے بارے میں نقض عہد کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پاس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جو ان دنوں بنی اوس کے سردار تھے اور سعد بن عبادہ جو بنی خزرج کے سردار تھے بھیجا اور وہ کسی نہ کسی طرح ان کے

یاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ صلح کی پابندی کرنا چاہیں تو صرف اتنا کریں کہ مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اس پر بنی نضیر تو نیم راضی تھے لیکن بنی قریظہ اپنی بات پر اڑے رہے بلکہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو پہچانتے ہی انکار کر دیا اور بولے:

”کون محمدؐ؟ وہی جنہوں نے تم مسلمانوں کو فارس و روم کی فتح قیصر و کسریٰ کے تصور و محلات اور ان کی دولت کثیر پر قبضے کے خواب دکھائے ہیں لیکن پہلے وہ ان سے صرف اپنی جان ہی بچا کر دکھادیں، ہم ایسے جھانسون میں آنے والوں میں سے نہیں ہیں۔“

موسیٰ بن عقبہ بتاتے ہیں کہ سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے بنی قریظہ کو اپنی طرف سے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی طرح نہ مانے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں بنی نضیر کے انجام سے بھی انہیں آگاہ کر کے ان سے کہا کہ کہیں بعد میں انہیں بھی انہی کی طرح بعد میں مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر ان سے معاہدہ صلح پر مجبور نہ ہونا پڑے لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہے تو یہ دونوں وہاں سے واپس آ گئے اور بنی قریظہ کی ضد سے آنحضرت ﷺ کو آگاہ کر دیا اس پر آپؐ نے مجاہدین اسلام کو مشرکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا:

”مجھے بنی قریظہ کی طرف سے پہلے ہی کسی بھلائی کی امید نہیں تھی، بہر حال ہم نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی ہے۔“

(تشریحی ترجمہ)

موسیٰ بن قادہ بیان کرتے ہیں کہ اگلی صبح کو دونوں طرف سے کچھ لوگ آگے بڑھے لیکن ان میں ایک دوسرے پر تیر اندازی و سنگ باری کے علاوہ کسی شدید جنگ یا دست بدست لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے رہے:

”یا اللہ! میں تجھ سے تیرا وعدہ پورا کرنے کی استدعا کرتا ہوں (یقیناً) تو یہ نہیں چاہے گا کہ تیری عبادت کرنے والا (زمین پر) کوئی باقی نہ رہے۔“

لیکن دوسری طرف مسلمانوں ہی میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دیسے تو خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ بھی وہی کہتے تھے جو سعد بن معاذ اور سعد بن عباد رضی اللہ عنہ سے بنی قریظہ نے کہا تھا یعنی آنحضرت ﷺ کا یہ وعدہ کہ مسلمان بہت جلد قیصر و کسریٰ کے تصور و محلات کے مالک بنیں گے (نعوذ باللہ) صرف وعدے ہی تک محدود تھا جب کہ آپ کا غنا تک صحیح و سلامت پہنچنا بھی ان کے نزدیک ناممکنات میں سے تھا اور تو اور خود اوس بن قبیلی نے آپؐ سے کہا تھا کہ چونکہ ان کی عورتیں ان کے گھروں پر تنہا رہ گئی ہیں اس لیے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے۔

بات دراصل یہ تھی کہ یہ لوگ مشرکین سے خائف تھے اور ڈرتے تھے کہ وہ ان سے جنگ کر کے کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منافق فرمایا جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے صاف ظاہر ہے۔

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾

ابن الحنفی لیتے ہیں کہ جب مترکین مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے جو قریباً تین شب و روز یا ایک مہینے تک جاری رہا تو اس زمانے میں رسول اللہ (ﷺ) برابر یا تو اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی کامیابی کی دعا فرماتے رہے یا مجاہدین اسلام کی دلجمعی اور صبر و استقامت کی تلقین فرماتے رہے۔ تاہم اس دوران میں مشرکین کی طرف سے کبھی تیر اندازی اور اداہرے جو ابلی تیر اندازی ہی کے سوا لوٹی اور خاص لڑائی نہیں ہوئی یقیناً جب اس طرح محصورہ کرفدایان اسلام کے مصائب میں روز بروز اضافہ ہونے لگا تو جیسا کہ عاصم بن عمر بن قتادہ زہری کے حوالے سے بتاتے ہیں حضور نبی کریم (ﷺ) نے عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف کے پاس جو دونوں بنی غطفان کی قیادت کر رہے تھے مدینے کے تین تازہ پھل اس پیغام کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجنے کا قصد فرمایا کہ وہ آپ کے ساتھ پہلے معاہدہ صلح کی رو سے اور اس کی پابندی کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلے جائیں۔ تاہم یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے اور اس سلسلے میں ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے نیز یہ کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی تازہ معاہدہ کرنا چاہیں تو فی الحال زبانی کر لیں جسے بعد میں باقاعدہ ضبط تحریر میں لایا جاسکتا ہے۔ البتہ اس سے قبل آپ نے اس سلسلے میں پہلے سعد بن یعنی سعد بن معاذ اور سعد بن عباد رضی اللہ عنہما سے مشورہ طلب فرمایا لیکن وہ دونوں ایک زبان ہو کر بولے:

”یا رسول اللہ (ﷺ) اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے جو کچھ چاہتا ہے آپ اس پر عمل فرمائیے، ہم ان شاء اللہ ہر حالت میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پر صدق دل سے عمل کریں گے۔“

آنحضرت (ﷺ) نے ارشاد فرمایا:

”میں چاہتا ہوں کہ اہل عرب باہمی تفرقہ اندازی چھوڑ کر متحد ہو جائیں تاکہ اقوام عالم میں ان کی بے عزتی نہ ہو۔“

آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر مذکورہ بالا دونوں حضرات ایک زبان ہو کر بولے:

”یا رسول اللہ (ﷺ) ہم پہلے جب متحد تھے تو شرک جیسی لعنت میں مبتلا تھے اور انہی عربوں کی طرح بتوں کو پوجتے تھے۔ اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے اتحاد کر کے پھر ویسے ہی ہو جائیں حالانکہ اب اللہ نے آپ کے ذریعہ اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے تازہ پھل بھیجنا چاہتے ہیں وہ انہیں چکھیں گے بھی نہیں وہ انہیں فروخت کر دیں گے یا یونہی کسی کو دے دیں گے۔ لہذا ہم انہیں اپنی کوئی چیز کھانے کو کیوں دیں۔ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے، ہم تو انہیں صرف اپنی تلواروں کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں۔“

آنحضرت (ﷺ) نے ان حضرات کی یہ طویل طویل تقریر سن کر فرمایا:

”میرا یہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھتے ہو (بہر حال اب تم جیسا مناسب سمجھو کرو) (یعنی میں تمہیں اس سے نہیں روکوں

گا)۔“

آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی غطفان وغیرہ کے نام آپ کا تحریری پیغام منہ میں رکھ کر نکل گئے اور پھر آپ سے اجازت لے کر مشرکین سے جہاد کے لیے اپنی اپنی صفوں کی طرف لوٹ گئے۔ چنانچہ اس کے بعد آنحضرت (ﷺ) بھی دوسرے وہاں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اپنی جگہ واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور مشرکین میں کوئی قابل

ذکر بڑی جنگ تو نہیں ہوئی۔ البتہ مشرکین قریش میں سے کچھ سوار آگے بڑھ کر خندق کے کنارے تک آئے ان میں پہلا شخص عمرو بن عبدود بن ابی قیس بن عامر بن لوئی میں سے تھا اور دوسرا انکرہ بن ابی جہل تھا۔ اس کے بعد اسی طرح ہبیرہ بن ابی وہب مخزومی اور ضرار بن خطاب بن مرداس جس کا تعلق بنی محارب سے تھا یکے بعد دیگرے وہاں تک آئے لیکن پھر فوراً ہی اپنی صفوں کی طرف پلٹ کر بنی کنانہ کی قیام گاہ میں چلے گئے اور ان سے کہا:

”اے کنانہ والو! کیا تم اب گھوڑوں پر سوار ہونا بھول گئے ہو؟“

اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی اپنی صفوں میں کچھ دیر توقف کے بعد پھر خندق کی طرف بڑھے اور اس کے کنارے پہنچ کر اندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے:

”ایسا پرفریب جال عرب میں آج تک کسی نے نہیں پھیلایا۔“

پھر عمرو بن عبدود بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق کے پار آ گیا اور کچھ جزیہ کلمات کے بعد بولا:

”کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟“

اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑھ کر آگے آئے جو پیدل تھے یہ دیکھ کر وہ بھی گھوڑے سے کود پڑا اور ان سے پوچھا:

”تم کون ہو؟“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”میں علی ہوں۔“

اس نے پوچھا: ”علی بن عبدمناف؟“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”علی بن ابی طالب“ اس کے بعد انہوں نے اسے دعوت اسلام دی لیکن اس کے انکار پر فرمایا:

”پھر میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“

یہ سن کر وہ بولا:

”تم چونکہ میرے بھائی کے بیٹے ہو۔ اس لیے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔“

یہ سن کر عمرو بن عبدود نے طیش میں آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر اپنے گرز سے بھر پور وار کیا۔ وہ ایک انتہائی طاقت ور پہلوان تھا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وار کو خالی نہ دیتے تو یقیناً ان کا سر پاش پاش ہو جاتا لیکن انہوں نے اس کا وار خالی دے کر اپنی تلوار سے اس پر ایسا سخت وار کیا کہ وہ تڑپ کر خندق میں جا گرا اور وہیں تڑپ تڑپ کر جہنم داخل ہو گیا۔ اس کے اس طرح تڑپ کر خندق میں گرتے وقت مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور اسی نعرہ تکبیر کو سن کر مسلمانوں کی کچھلی صفوں کے لوگ سمجھ گئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبدود کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔

ابن ہشام نے مذکورہ روایت زیادہ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ مشرکین نے عمرو بن عبدود کی لاش لینے

کے لیے دس ہزار دینار کی پیشکش کی تھی لیکن آنحضرت ﷺ نے جو ایسا فرمایا تھا کہ:

”ہم لاشیں رکھنا پسند کرتے ہیں نہ لاشوں کی قیمت لے کر اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے۔“ (مفہومی ترجمہ)

ابن اسحاق نے یہ روایت تہتی کے حوالے سے بیان کی ہے۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ مشرکین کی جس لاش کو بھی انہوں نے قیمتاً مسلمانوں سے لینا چاہا تھا تو آنحضرت ﷺ نے وہی ایک جواب دیا تھا یعنی جس کا سطور بالا میں ذکر آچکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مشرکین نے عمرو بن عبدود کی لاش کی قیمت بارہ ہزار دینار لگائی تھی۔

ترمذی اس روایت کو سفیان ثوری کی زبانی ابن ابی لیلیٰ، حکم، قسّم اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے اسے روایت غریب بتایا ہے۔

موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے غزوہ خندق کے موقع پر جب بھی اپنے کسی مقتول کی لاش مسلمانوں سے مانگی تو آنحضرت ﷺ نے یہی فرمایا:

”ہمیں اس لاش کو اپنے ہاں رکھنے سے کوئی فائدہ ہے نہ ہم مشرکین کو اسے لے جا کر دفن کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔“

یونس بن بکیر ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عبدود کے بعد نوفل بن عبد اللہ بن مغیرہ مخزومی نے اسی کی طرح مسلمانوں سے مہارز طلب کیا تھا لیکن اس دفعہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں دو ٹکڑے کر کے خندق کی نذر کر دیا تھا۔

ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ جب نوفل حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں شدید زخمی ہو کر خندق میں گرا تو کچھ مسلمانوں نے اوپر سے اس پر پتھر برسائے شروع کر دیئے۔ اس نے اس پر چلا کر کہا:

”اے عربو! اس طرح تکلیف دے کر مارنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے ایک ہی دفعہ قتل کر دو۔“

اور اس کی یہ فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر قتل کر دیا تھا۔

یہی متعدد حوالوں سے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی یعنی عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے روز دوسرے بچوں کے ساتھ ایک چھت پر بیٹھے مشرکین اور مسلمانوں کی لڑائی کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب اس کے اختتام پر ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مدینے میں لوٹ کر اپنے گھر آئے تو عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا:

”ابا جان! یہ کن لوگوں کی لاشیں تھیں جنہیں آپ خندق سے نکال نکال کر دوسری طرف لوگوں کو دے رہے تھے۔“

بیٹے کے اس سوال پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پیار سے بولے:

”جان پدر! وہ ان مشرکین کی لاشیں تھیں جنہیں ہم نے قتل کر دیا تھا اور میں رسول اللہ (ﷺ) کے حکم سے انہیں اٹھا اٹھا

کر مشرکین ہی کے بھیجے ہوئے لوگوں کے حوالے کر رہا تھا۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے یحییٰ بن عماد بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد جناب عبد اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت

صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبدالمطلب، دو سہری عورتوں اور بچوں کے ساتھ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مکان کی چھت پر تشریف فرما تھیں جب کہ خود جناب حسان رضی اللہ عنہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشاد کے مطابق ان سب کی نگرانی پر مامور تھے۔ شام کا جھپٹنا ہو چلا تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جناب حسان رضی اللہ عنہ سے کہا:

”ذرا دیکھئے تو سہی کہ یہ چھت پر چڑھنے کی کون کوشش کر رہا ہے؟“

پھر وہ خود ہی بولیں:

”مجھے تو یہ کوئی یہودی معلوم ہوتا ہے:

جناب حسان رضی اللہ عنہ چونک کر بولے:

”ٹھہریئے میں دیکھتا ہوں۔“

اتنے میں وہ خود ہی اس طرف جھپٹیں جہاں اب کسی مرد کا سر چھت کی منڈیر سے ابھر رہا تھا اور اپنا گرز لے کر اس ابھرتے ہوئے سر پر اس طرح رسید کیا کہ وہ شخص جو کوئی بھی تھا ایک لمبی چیخ کے ساتھ چھت کی منڈیر پر ہاتھ جماتے ہوئے نیچے جا پڑا۔

جناب حسان رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بولے:

”ارے! آپ نے تو کمال کر دیا۔“

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا:

”وہ شخص یقیناً مر چکا ہوگا لیکن وہ مرد تھا، اس لیے میں اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ لہذا آپ نیچے اتر کر اس کی لاش

اوپر لے آئیے۔“

چنانچہ جب حسان رضی اللہ عنہ مکان کی سیڑھیوں کے راستے چھت سے نیچے اتر کر اس شخص کی لاش اوپر اٹھالائے اور جب اسے غور سے دیکھا گیا تو واقعی وہ مدینے ہی کا ایک یہودی تھا جو یقیناً اس چھت پر چڑھ کر عورتوں اور بچوں کو خوف زدہ کر کے ان کی چیخوں سے نیچے جنگی محاذ پر موجود مجاہدین کو ان کی پشت کی جانب متوجہ کرنا چاہتا تھا تا کہ وہ گھبرا کر اس اچانک افتاد پر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں دشمن نے کسی طرف سے شہر پر حملہ تو نہیں کر دیا اس طرف متوجہ ہوں اور مشرکین مکہ کو جن سے مدینے کے یہ یہودی اور کچھ دوسرے منافقین پہلے ہی سے ساز باز کر رہے تھے خندق پار کر کے سامنے سے شہر پر حملہ کرنے اور اس میں داخل ہونے کا موقع مل جائے۔

یہی بن عباد نے مذکورہ بالا حوالوں سے بتایا کہ جناب حسان بن ثابت نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے اس حیرت انگیز کارنامے

پر ان کی مدح میں متعدد اشعار بھی کہے تھے۔

موسیٰ بن عقبہ غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے مدینے کا قریباً ایک مہینے تک اس طرح محاصرہ کیے رکھا جیسے وہ اپنے کسی بڑے سے بڑے دشمن کے ناقابل تسخیر قلعے کا محاصرہ کیے پڑے ہوں۔ ان کا جو شخص بھی دن کے یارات سے گزر جاتا تو اسے قتل کر دیتے۔ ان کی کوشش کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا، اسے بھی ان کے ہمت سے جنگجوئی مجاہد اسلام سے

است بہت لڑائی میں کام آچکے تھے۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی ناپاک جانور یا غلیظ پرندے کی گردن میں مغزلات سے پر کاغذ باندھ کر اندازے سے اس جگہ پھینک دیتے جہاں ان کے خیال میں آنحضرت ﷺ کی آرام گاہ ہو سکتی تھی۔ تاہم کوئی نہ کوئی مسلمان اس ہاتھ پاؤں بندھے جانور یا نائٹیں بندھے پرندے کو مار کر انہی کی طرف پھینک دیتا۔ پھر بھی ان کی یہ حد سے زیادہ فتنج حرکت جو کسی بڑے سے بڑے موذی مگر اصول جنگ کی پابندی کرنے والے دشمن کی طرف سے بھی تصور میں نہیں آ سکتی مسلمانوں کے لیے اتنے دنوں تک دردمربی رہی۔

اس کے علاوہ وہ موقع بہ موقع اس طرح تیر اندازی و سنگ باری کرتے کہ مسلمانوں کو رات دن یہ اندیشہ رہتا کہ وہ اس کے بعد اپنی کثرت تعداد کے زعم میں کسی نہ کسی طرح خندق پار کر کے ان پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کی یہ تیر اندازی و سنگ باری خاص طور پر سہ پہر سے لے کر غروب آفتاب تک جاری رہتی جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کے علاوہ خود آنحضرت ﷺ کے لیے اکثر نماز عصر ادا کرنا ناممکن ہو جاتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم آچکا تھا کہ: ﴿حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةِ الْوَسْطٰی﴾ یعنی ہر وقت کی نماز خصوصاً عصر کے لیے وقت کی پابندی کیا کرو لیکن چونکہ مشرکین کی طرف سے ہر وقت خصوصاً اس وقت حملے کا اندیشہ رہتا تھا اس لیے صلاۃ الخوف یا صلاۃ الحرب کی طرح جس کا غزوہ ذات الرقاع کے ذکر کے ساتھ پہلے ذکر آچکا ہے یہاں یہ نماز پڑھنا ناممکن تھا۔

بہر کیف عصر سے لے کر عشاء تک جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا وہ غروب آفتاب کے بعد پہلے نماز عصر کے لیے اذان دیتے جس کے بعد مسلمان آپ کی قیادت میں پہلے نماز عصر ادا کرتے اور پھر اسی طرح یکے بعد دیگرے مغرب اور عشاء کی اذانیں دی جاتیں اور بالترتیب وہ نمازیں ادا کی جاتیں۔

اسی لیے ان دنوں رسول اللہ ﷺ اکثر فرمایا کرتے تھے:

”ان لوگوں نے ہمیں عصر تک کی نماز کی ادائیگی سے روک رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے شکموں اور دلوں کو آگ سے بھرے گا۔“

بعض روایات میں آپ کی اس حدیث کے آخر میں لفظ ”قبور“ بھی لکھا گیا ہے۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الصمد ثابت اور بلال نے عکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ جب کفار سے لڑائی کے اندیشے کی وجہ سے حضور نبی کریم ﷺ کی نماز عصر قضا ہو جاتی تو آپ فرماتے:

اللہم من حسبنا عن الصلوة الوسطی فاملاً بیوتہم ناراً و املاً قبورہم ناراً.

”یعنی یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں نماز عصر ادا کرنے سے قاصر کر رکھا ہے ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔“

یہی روایت ایک اور ثقہ راوی بلال بن خباب العبدی کوفی کی ہے جسے ترمذی وغیرہ نے بطور حدیث صحیح پیش کیا ہے نیز دیگر

علماء نے اس حدیث کو صحیح سے اسناد الیہ کے آتش

﴿حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰی وَ قُوْمُوا لِلّٰهِ قٰتِلِیْنَ﴾

میں ”صلاة الوسطی“ کو نماز عصر بتایا ہے۔

حافظ ابو بکر البرزازی کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن عمر مہمل یعنی ابن اسماعیل اور حماد یعنی ابن سلمہ نے عبد انکریم یعنی ابن ابی الخارق، مجاہد اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بیان کیا کہ جب آنحضرت ﷺ غزوہ خندق کے موقع پر مسلسل لڑائی کی وجہ سے نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ادائیگی سے قاصر رہے تو آپ نے پہلے روز غروب آفتاب کے بعد بلال کو حکم دیا کہ وہ ظہر کی اذان دیں جس کے بعد آپ نے اور آپ کی قیادت میں دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پہلے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد آپ کے حکم سے بلال رضی اللہ عنہ نے عصر کی اذان دی جس کے بعد عصر کی نماز ادا کی گئی، پھر اسی طرح بلال (رضی اللہ عنہ) نے یکے بعد دیگرے مغرب اور عشاء کی اذانیں دیں اور پھر بالترتیب مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

”آپ لوگوں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی دوسرے ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان (صبر آزما) اوقات (وحالات) میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں۔“

البرزازی نے غزوہ خندق کے سلسلے میں نماز ظہر سے لے کر نماز عشاء تک اس طرح آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ادائیگی نماز کی وجہ سے یہ روایت بطور خاص پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے راویوں نے بھی عبد الکریم، مجاہد ابی عبیدہ اور عبد اللہ کے حوالے سے اس روایت کو پیش کیا ہے۔



فصل:

غزوہ خندق کے دوران میں آنحضرت ﷺ کی دعائیں

امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے ابو عامر زبیر یعنی ابن عبد اللہ اور ربیع بن ابی سعید الخدری نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر نے غزوہ خندق کے روز آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ:

”حضور کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جسے ہم بیان کریں تو وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔“

ربیع بن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما کے والد بیان کرتے ہیں کہ ان کی اس گزارش کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”اچھا۔“ اس کے بعد مندرجہ ذیل دعا کی تلقین فرمائی اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی:

ترجمہ: ”یا اللہ ہماری عورتوں کے ستر پوشیدہ اور ہماری عزت و آبرو محفوظ رکھ۔“

اس کے بعد ابی سعید کے والد بیان کرتے ہیں کہ:

”آپ کی اس دعا کا اثر فوراً ہی ظہور پذیر ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا سے آپ کے دشمنوں کے آٹا فنا منہ پھیر دیئے۔“

اس روایت کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اپنے والد یعنی العقدی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے غلام زبیر بن عبد اللہ ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سعید اور آخر الذکر کے والد یعنی ابی سعید کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اسے بالکل صحیح بتایا ہے جو یقیناً درست ہے۔

امام احمد مزید فرماتے ہیں کہ ان سے حسین نے ابن ابی ذئب اور بنی سلمہ کے ایک شخص کے علاوہ جابر ابن عبد اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ ایک روز مسجد احزاب میں تشریف لے گئے وہاں اپنی روئے پاک بچھائی اس پر دیر تک کھڑے رہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے رہے لیکن اس وقت آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی لیکن دوبارہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو اسی طرح دعا فرما کر پھر نماز پڑھی۔

اس روایت کو صحیحین میں اندراج کے بعد اسماعیل بن ابی خالد کی زبانی عبد اللہ بن ابی اوفی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ

آخر الذکر کے بیان کے مطابق احزاب کے بارے میں مندرجہ دعا (بدعا) فرمائی تھی:

”یا اللہ کہ تو کتاب نازل فرمانے والا اور سر بیع الحساب ہے احزاب کو شکست سے دوچار فرما۔ یا اللہ انہیں شکست دے

اور ان کے پاؤں اکھیڑ دے۔“

ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”یا اللہ انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر فاتح بنا دے۔“

بخاری نے تیبہ لیت 'سعید مقبری' سعید مقبری کے والد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے اختتام پر آپ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس نے اپنے لشکر یعنی مسلمانوں کو عزت بخشی اور اپنے بندے (نبی) کی مدد فرمائی نیز

احزاب (دشمنوں کو) مغلوب کیا اور انہیں ان کی حد تک پہنچا۔ اب (ان کے لیے) باقی کیا رہ گیا ہے؟“۔

غزوہ خندق کے دوران میں نبی کریم (ﷺ) کا ذکر سطور بالا میں پہلے ہی آچکا ہے۔

ابن اخطب کہتے ہیں کہ انہی ایام میں جب کہ کفار نے مدینے کو اس کے بالائی اور نشیبی دونوں حصوں کی طرف سے محاصرے

میں لے رکھا تھا ایک روز نعیم بن مسعود ابن عامر بن انیف بن ثعلبہ بن قنفذ بن ہلال بن خلدہ بن اشجع ابن ریث بن غطفان نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن اس کی خبر چونکہ میری قوم کو نہیں ہے اس لیے آپ جہاں چاہیں میں

وہیں آپ کے حکم سے جانے کو تیار ہوں۔“

نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ جواب دیا:

”تم جہاں تک ممکن ہو ہم سے دور رہو کیونکہ جنگ بڑی ہلاکت خیز اور تباہ کن ہوتی ہے۔“

آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے واپس ہوا اور سیدہ ابی قرظہ میں پہنچا جہاں کے

لوگوں سے زمانہ جاہلیت میں دوستی تھی اور ان کے ساتھ اس کا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ان سے کہا:

”اے بنی قرظہ! آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے آپ لوگوں کے ساتھ کتنے گہرے دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔“

اس پر وہ سب یک زبان ہو کر بولے:

”اور ہمیں تو اب بھی تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔“

ان سے یہ سن کر نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا:

”دیکھو! یہ بستی تمہاری ہے یہاں تمہاری عورتیں ہیں تمہارے بال بچے ہیں تمہاری زرعی زمینیں اور باغات ہیں، غرض

تمہارا سارا مال و متاع یہیں ہے لیکن اگر تم اس لڑائی میں محمد کے خلاف قریش کا جو اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ آئے ہیں

ساتھ دیتے ہو جیسا کہ دے رہے ہو تو سوچو کہ اگر قریش کو شکست ہوگئی تو وہ پھر بھی واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے

جائیں گے اور ان کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن اس کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا کیونکہ تم تو مسلمانوں کے پڑوس میں۔ کیا

قریش سے مل کر اور ان سے جنگ کر کے تم مسلمانوں سے کسی اچھے سلوک کی امید رکھتے ہو؟“۔

نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر بنی قرظہ بولے:

”تمہاری ان باتوں سے تو کھلی شرارت ٹپک رہی ہے۔“

بنی قرظہ پر اپنی ان باتوں کا اثر نہ دیکھ کر وہ وہاں سے قریش کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر ابو سفیان بن حرب سے کہا:

”آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں محمدؐ سے الگ نہ کرنا آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہوں اور یہ بات کسی طرح انہیں بھی معلوم ہوگئی، اس لیے وہ اب مجھ سے اکثر باتیں چھپانے لگے ہیں۔ تاہم مجھے جو معلوم ہو سکا وہ میں اس لیے کہ آپ لوگوں کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں آپ کو بتانے چلا آیا ہوں۔ لہذا اگر آپ اسے سن کر میری بات پر عمل کریں گے تو یقیناً بڑے نقصانات سے بچ سکیں گے۔“

ابوسفیان نے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات سن کر کہا:

”مسلمانوں کا کوئی راز اگر تمہیں معلوم ہو تو وہ تم مجھے ضرور بتاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔“

نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ ابوسفیان کی زبان سے یہ سن کر خوش ہوتے ہوئے بولا:

”تو سنو! وہ بات یہ ہے کہ بنی قریظہ کے یہودی محمد کی مخالفت کر کے اب پشیمان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس پیغام کے ساتھ ان کے پاس بھیجا تھا کہ اگر وہ ان کی قریش کی حمایت کرنے کی غلطی معاف کر دیں تو وہ اب اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ قریش کے چند معزز لوگوں کو پکڑ کر ان کے پاس بھیج دیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قریش کے ان معزز لوگوں کو فوراً قتل کر دیں۔ اس کے بعد ہم تن من دھن سے ان کے ساتھ ہو جائیں گے یہ بات چونکہ محمدؐ نے مان لی ہے لہذا تمہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر بنی قریظہ ان کے خلاف تمہارا مزید ساتھ دینے کے لیے تم سے بطور ضمانت تمہارے کچھ معزز لوگ اپنے پاس رکھنے کے لیے طلب کریں تو تم اپنا ایک آدمی بھی انہیں نہ دینا۔ بہر حال میں نے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تمہیں یہ اطلاع دی ہے اس لیے اس معاملے میں تم جو بھی قدم اٹھاؤ اس میں میرا نام نہ آنے پائے ورنہ میری خیر نہیں ہوگی۔“

ابوسفیان سے اس گفتگو کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اٹھتے ہوئے کہا:

”اچھا اب میں چلتا ہوں ورنہ مسلمانوں میں میری غیر حاضری شبہ کی نظر سے دیکھی جائے گی۔“

ابوسفیان نے جس طرح نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا تھا اسی طرح اسے بڑی گرم جوشی سے رخصت

کرتے ہوئے قریش کے لیے اس کے خلوص و ہمدردی اور جس اطلاع کا ابھی ذکر کیا گیا ہے اس کا بہت بہت شکر یہ ادا کیا۔

نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ ابوسفیان کے پاس اٹھ کر بنی غطفان میں جا نکلا۔ اس نے وہاں بھی وہی کچھ کہا جو اس سے قبل

ابوسفیان سے کہہ آیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے بنی غطفان سے اپنی قربت اور رشتے کا ذکر کیا تھا اور بنی غطفان نے اس کی باتوں

کو خلوص پر مبنی جان کر اس کے مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔

نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس روز تمام دن آنحضرت ﷺ کی ہدایت کے مطابق اور اس کے علاوہ بنی قریظہ بنی غطفان

اور قریش پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسے ان تینوں کو مذکورہ بالا اطلاعات فراہم کرنے کی بناء پر مسلمانوں سے اپنی جان کا خطرہ

نہیں تھا، یہ ظاہر کیا۔

اگلے روز ماہ شوال سال پنجم ہجری کو جب کہ سنیچ کا دن تھا قریش نے اپنے منصوبے کے مطابق کہ اس روز بنی قریظہ اور بنی غطفان کو ساتھ لے کر مدینے پر آخری بار بھر پور حملہ کیا جائے گا ان دونوں قبیلوں کے پاس عکرمہ بن ابوجہل اور چند دیگر شرفائے مکہ کو بھیجنا تاکہ وہ اس کے لیے تیار رہیں لیکن انہوں نے انہیں یہ کہہ کر نال دیا کہ وہ دن ان کا "یوم السبت" ہے اور اس روز وہ کوئی کام نہیں کرتے بلکہ سارا دن عبادت میں گزارتے ہیں لیکن جب اگلے روز ان دونوں قبائل نے قریش کا ساتھ دینے کی وہی شرط رکھی کہ ان کے چند معزز لوگ بطور ضمانت ان کے سپرد کیے جائیں تو قریش کھٹکے اور انہیں نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اطلاع کا یقین آ گیا لیکن اس کے باوجود قریش نے ان قبائل کو منانے کی کوشش جاری رکھی تو انہوں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ جب تک ان کے پاس قریش کے اتنی ہی تعداد میں معزز لوگ بطور ضمانت نہیں چھوڑے جائیں گے جتنے ان دونوں قبائل کے لوگ باہمی معاہدہ صلح کے تحت قریش کے پاس اب تک موجود ہیں وہ صرف قریش کے وعدوں پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں لہذا ان کی یہ شرط پوری کیے بغیر وہ مسلمانوں سے بطور خود جس طرح نمٹنا چاہیں نمٹ سکتے ہیں۔

ان قبائل کے یہودیوں کے اس جواب سے قریش کو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا بیان کی مزید تصدیق ہو گئی اور انہوں نے ان دونوں قبائل کے پاس اپنا ایک آدمی بھی جیسا کہ انہیں نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا بطور ضمانت چھوڑنے سے انکار کیا تو وہ قبائل بھی نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات پر غور کرنے لگے کہ قریش کا ساتھ دینے کے باوجود اگر قریش کو شکست ہوئی جو خلاف قیاس نہیں تھا اور وہ وہاں سے مکے کو لوٹ گئے تو وہ دونوں قبائل مل کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے جب کہ خود قریش کو ان کے مقابلے میں دو بار یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد میں منہ کی کھانا پڑی ہے اس لیے اس وقت قریش کا ساتھ دے کر مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے بات بگاڑ لینا مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مذکورہ بالا شرط منوائے بغیر قریش کا ساتھ دینے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔

ادھر قریش ان کی یہ شرط کس طرح تسلیم کرتے جب کہ انہیں بقول نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ یقین تھا کہ ان قبائل کے پاس ان کے مکفول آدمیوں کی تعداد کے برابر اپنے آدمی بطور ضمانت رکھنا انہیں دانستہ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں دھکیلنا ہوگا۔ چنانچہ اس کا وہی نتیجہ ہوا جس کی نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنی مذکورہ بالا دوڑ دھوپ کے بعد پوری امید تھی بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی منشاء کے عین مطابق کہنا چاہیے۔

اس کے علاوہ جیسا کہ متعدد ثقہ راویوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے اسی رات لشکر قریش کے رُخ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی سرد و خشک اور تیز و تند ہوا کے جھکڑ چلے کہ انہیں اس بر فیل ہوا کی برودت سے اس کے باوجود کہ انہوں نے آگے کے الاؤ روشن کر کے ان میں ہر امکانی کوشش سے فراہم شدہ خشک لکڑیوں کے علاوہ تیر تک ان میں جھونک دیئے نجات نہ مل سکی اور رات بھران کے دانت سے دانت بنتے رہے۔

یہ سب کچھ یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضور آنحضرت ﷺ کی ان مذکورہ بالا دعاؤں کا اثر تھا جو آپ قریش کے خلاف مسلسل فرماتے رہے تھے۔

ابن اسحاق نے موسیٰ بن عقبہ کی طرح نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قصے اور ان جملہ واقعات کو نہایت سن و خوبی سے تفصیلاً بیان کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس رات آنحضرت ﷺ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو قریش کی حالت معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ناموشی سے قریش کے لشکر کا حال معلوم کر کے آپ کو بتائیں۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہما آپ کے اس حکم کی تعمیل میں اسی طوفانی رات میں جب کہ رخ بستہ ہوا کی آواز رعد کی لڑک سے اور اس کی تیزی بلی سے کم نہ تھی لشکر قریش کا حال معلوم کر کے آئے تھے۔ ابن اسحاق کے علاوہ متعدد دیگر راویوں نے قریش کے جگہ جگہ برقیلی ہوا کی شدت سے بچنے کے لیے آگ کے الاؤ روشن کرنے اور ان میں اپنے تیر تک جھونک دینے کا واقعہ بھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما ہی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ لشکر قریش میں ہر شخص کے دانت سے دانت بجنے اور ان سب کی زبان پر جن میں ابوسفیان بھی شامل تھا الریحیل الریحیل کی مسلسل پکار کا قصہ بھی حذیفہ بن یمان ہی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے جنہیں آنحضرت ﷺ نے ان کے اس حالت میں لشکر قریش کا چکر لگا کر ان کی حالت کی اطلاع آپ کو دینے کے صلے میں جنت کی بشارت دی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ روز قیامت بھی آپ کے رفیق کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر قریش پر نزول عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مسلمانوں کی نصرت کے بارے میں اس روایت کی تصدیق مندرجہ ذیل قرآنی آیہ شریفہ سے بھی ہوتی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ

تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾



فصل:

غزوة بنی قریظہ

پچھلی فصل میں مذکورہ دشمنانِ اسلام کو جیسا کہ پچھلے صفحات میں بیان کیا گیا غزوة خندق کی طویل مدت کے دوران میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی اور خود قریش کو غزوة احد میں پے درپے شکستوں کے بعد اس دفعہ بھی انتہائی شہ و مد سے آپ کے خلاف جنگی تیاریوں کے باوجود کوئی فائدہ نہ پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب آخرت کے دردناک عذاب کو دانستہ اپنے سر لے لیا بلکہ غضبِ خداوندی میں مبتلا ہو کر دنیا و آخرت دونوں میں خسارے کے مستحق ٹھہرے اور ان کے مقابلے میں اہل اسلام رضائے الہی کے مطابق راہِ خدا میں جہاد کر کے سرخرو اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا
عَزِيزًا..... الخ﴾

بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے محمد بن مقاتل، عبداللہ اور موسیٰ بن عقبہ نے سالم نافع اور عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ ان جملہ غزوات میں رکاوٹ کے باوجود انہیں حج و عمرہ کی ابتدا تصور فرماتے اور زبان پر بآوازِ خفیف نعرہ تکبیر لاکر ارشاد فرماتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيُونَ تَائِبُونَ
عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم ﷺ غزوة خندق سے فراغت کے بعد مدینے میں واپس تشریف لائے تو آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہتھیار اور زرہ بکتر جسم سے اتار کر کچھ دیر آرام کیا تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا اور اسی وقت جبریل علیہ السلام نے جو زرق برق لباس میں ملبوس تھے حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ:

”حضور (ﷺ) آپ تو غیر مسلح ہو گئے ہیں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ غزوة بنی قریظہ کے لیے قبیلہ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیے ادھر میں ابھی سے وہاں پہنچتا ہوں اور انہیں آپ کی اس طرف روانگی کی اطلاع دے کر ان میں کھلبلی ڈالتا ہوں۔“

جبریل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر آپ نے مسجد میں اذان کا حکم دیا۔ پھر ظہر کی نماز سے قبل صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطلاع دی اور نماز ظہر سے فارغ ہوتے ہی اتنی جلد اس طرف روانہ ہوئے کہ نماز عصر وہیں جا کر ادا کی۔ ابنِ ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی رسول اللہ (ﷺ) نے ابنِ ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے کا والی مقرر فرمایا تھا۔

بخاریؒ کہتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے ہشام ان کے والد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کیا اور آخر الذکر کی زبانی بتایا کہ جو نبی آنحضرت ﷺ غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر میں تشریف لائے تو منسل سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنے سے روانگی کا حکم دے دیا۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ”رواگی کس طرف ہوگی؟“۔ تو جبریل علیہ السلام بنی قریظہ کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بولے: ”اس طرف“ پھر بولے:

”آپؐ غیر مسلح ہو گئے لیکن مجھے اور میرے ساتھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلح ہونے کا حکم نہیں دیا تھا اور اب ہم اس کے حکم سے اسی طرف جا رہے ہیں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے یہ سن کر آپؐ فوراً بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ ان سے حسن اور حماد بن سلمہ نے ہشام بن عروہ ان کے والد اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ غزوہ خندق سے نمٹ کر گھر تشریف لائے اور غسل سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے ایک دیوار کے روزن سے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس اس حالت میں آئے کہ ان کے بالوں پر غبار تھا اور انہوں نے آپ سے اللہ کی طرف سے کچھ کہا تو آپؐ فوراً روانگی کی تیاری فرمانے لگے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف روانگی کا حکم دیا ہے جب کہ خود جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی ادھر روانہ ہو گئے ہیں۔

بخاریؒ فرماتے ہیں کہ ان سے موسیٰ اور جریر بن حازم نے حمید بن ہلال اور انس بن مالک کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر نے بتایا کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی مدینے سے روانگی سے قبل بنی غنم کی ایک گڈنڈی پر حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں سے غبار اٹھتا دیکھا تھا۔

بخاریؒ مزید فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن محمد بن اسماء اور جویریہ بن اسماء نے نافع اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ (ﷺ) نے یوم احزاب کے متعلق فرمایا کہ اس روز آپؐ نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بنی قریظہ پہنچنے سے قبل نماز عصر ادا نہیں کی تھی حالانکہ عصر کا وقت وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔

تبہتی مختلف حوالوں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سنا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس وقت تک ہتھیار نہیں اتارے تھے اور انہوں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فوراً ہتھیار بندی کا حکم دیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی قریظہ کی طرف فوراً روانہ ہو کر نماز عصر وہیں ادا فرمائیں۔

زہریؒ نے متعدد حوالوں سے بتایا ہے کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بنی قریظہ پہنچنے سے قبل ہی آفتاب غروب ہو گیا تھا۔ اس لیے وہاں بھی مقام خندق کی طرح غروب آفتاب کے بعد ہی نماز عصر ادا کی گئی تھی۔

نبیؐ متعدّد حوالوں سے حضرت عائشہؓ کی زبانی مزید بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ یوم خندق سے واپس آ کر نسل کے بعد فوراً ہی سلاح بند ہونے لگے تو انہوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

”یہ جبریل علیہ السلام نے انہوں نے ان کی طرف سے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فوراً احزاب کے تعاقب میں بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی فوری تیاری کا حکم دیا اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا بنی قریظہ کا رخ کر کے حمراء اسد کی طرف روانہ ہو گئے۔

کچھ لوگ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اتنا وقت تو تھا نہیں کہ آنحضرت راستے میں کسی جگہ ٹھہر کر باجماعت نماز عصر کا حکم دیتے، اس لیے جسے جہاں موقع ملا اس نے وہیں نماز عصر ادا کی اور پھر سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے اگلے ساتھیوں سے جا ملا لیکن کچھ لوگ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حوالے سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے غروب آفتاب کے بعد بنی قریظہ کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھ نماز عصر ادا کی تھی۔ تاہم آپ نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں باز پرس نہیں کی تھی۔

کہا جاتا ہے کہ بنی قریظہ پہنچ کر آپ نے ایک طرف اشارہ کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا:

”یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو ہم سے پہلے ہی دشمنانِ اسلام پر رعب ڈالنے اور ان کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں۔“

بتایا گیا ہے کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مذکورہ بالا گفتگو کے بعد آپ نے انہیں ایک طرف ہٹنے کا حکم دیا تاکہ آپ اس قبیلے کے لوگوں سے گفتگو فرما سکیں۔ تاہم آپ کی صلح پسندانہ گفتگو کے بعد بھی وہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے بلکہ کہنے لگے:

”اے ابوالقاسم! آپ ادھر ادھر کی فضول باتیں نہ کریں، ہم آپ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔“

چنانچہ آپ نے مجبوراً اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بستی کے محاصرے کا حکم دے دیا۔

کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس بستی کے کچھ لوگ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے باہمی فیصلے کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ مسلمانوں سے جنگ کریں گے انہیں قتل کیا جائے گا۔ تاہم معذوروں اور عورتوں اور بچوں سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔

بخاری کے بقول یہ بات فیصلہ کن نہیں ہے کہ محصورین سے یہ بات سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہی تھی یا کسی اور نے۔ واللہ اعلم ابن اخطب کہتے ہیں کہ مدینے سے روانگی کے وقت آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دے کر ان کی جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی سواری کا ایک تسمہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اس لیے جبریل علیہ السلام آپ کو موضع جنازہ کی مسجد کے دروازے تک اپنی سواری پر لائے تھے جہاں آپ اپنی امت کے دوسرے افراد سے آٹے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں سے اڑتے ہوئے غبار کا جو ذرہ لیا وہ جبریل علیہ السلام کی اسی

حزری کے پیچھے چھوٹے غبار سے متعلق ہے جب آنحضرت ﷺ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی سواری پر سفر فرما رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو مذکورہ بالا مسجد کے دروازے پر اتار کر آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے ساتھی فرشتوں کے ہمراہ اس کے بعد بنی قریظہ کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کے وہاں پہنچنے اور ان سے جنگ کرنے کے قبل ہی وہ لوگ رعب میں آکر رذشت زدہ ہو جائیں۔

اسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ بنی غنم میں جو آپ کے منتظر تھے پہنچے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ آیا آپ سے قبل کوئی سواری تیزی کے ساتھ ادھر سے گزرا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ادھر سے سفید گھوڑے پر سوار وحیہ کلبی رضی اللہ عنہا جس کے گھوڑے کی زین پر دیباچہ مڑھا ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بتایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو اس وقت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہا سے مشابہ تھے اور اس لیے وہ انہیں وحیہ کلبی رضی اللہ عنہا سمجھے تھے۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے بنی غنم سے فرمایا کہ وہ بنی قریظہ تک آپ کا اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ساتھ دیں۔ سطور بالا میں جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بنی قریظہ پہنچنے سے قبل راستے ہی میں نماز عصر پڑھ لی تھی ان سے جب ان لوگوں نے جنہوں نے بنی قریظہ پہنچ کر غروب آفتاب کے بعد آنحضرت ﷺ کی قیادت میں نماز عصر پڑھ لی تھی جب یہ کہا کہ انہوں نے راستے میں رُک کر نماز عصر ادا کرنے میں آپ کے حکم سے انحراف کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ:

”ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ پہلے لوگوں نے عصر کی نماز کے سلسلے میں حکم الہی کی پابندی کا خیال رکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے موقع محل کے لحاظ سے آپ کے حکم کی پابندی کی ہے۔“

بہر کیف جب آنحضرت ﷺ نے بنی قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ کیا تو اس سے قبل حمی بن اخطب اس وقت جب قریش غزوہ خندق کے موقع پر مذکورہ بالا طوفان باد سے گھبرا کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن کر ان پر نازل ہوا تھا صبح ہوتے ہی مکے کی طرف فرار ہوئے تھے بنی قریظہ میں چلا آیا تھا اور اب انہیں آپ کے خلاف جنگ پر ابھارا ہوا تھا۔

جب آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قلعہ بنی قریظہ کی جانب آگے بڑھایا تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے قلعہ پر حملہ کرنے سے قبل وہاں کے ان سربراہوں سے گفتگو کرنا چاہی جو قلعہ کی فسیل پر آگئے تھے لیکن انہوں نے اسلام اور داعی اسلام ﷺ دونوں کو اس صلح جوئی کے جواب میں سب و شتم سے نوازا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ:

”میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان لوگوں سے نعمت لے لی لیکن آپ آگے تشریف نہ لائیں۔“

آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ دریافت کی تو وہ بولے:

”یہ بدنباد اسلام اور آپ کو نعوذ باللہ گا لیاں دے رہے ہیں۔“

اس کے جواب میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس سے قبل قریش اور ان کے بھین حلیف اسلام کو اور مجھے اس سے زیادہ سب و شتم سے نوازتے

رہے ہیں۔“

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنی قریظہ کے قلعہ پر آ کے بڑھ لرایسا بھر پور حملہ لیا کہ اہل قلعہ کے سرداروں کو یقین ہو گیا کہ جب سارے مسلمان مل کر ان پر حملہ آور ہوں گے تو قلعہ ضرور فتح ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنا ایک آدمی سنور نبی کریم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ ان کے پاس ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجیں تاکہ ان سے کچھ بات چیت ہو سکے۔ چنانچہ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما کر ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو قلعہ میں بھیج دیا۔

واضح رہے کہ ابولبابہ بھی نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح مہذب جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل اس قبیلے کے یہودیوں کے دوست رہ چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر انہیں سمجھانے کی ہزار کوشش کی اور اس کے علاوہ وہاں موجود کعب بن اسد نے ان سے کہا کہ وہ تین باتوں میں سے ایک بات قبول کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ آنحضرت ﷺ کو ایک نبی کی حیثیت سے تسلیم کر کے داخل اسلام ہو جائیں کیونکہ آپ کے بارے میں توریت میں بشارت موجود ہے دوسری بات یہ کہ وہ آپ سے آپ ہی کی شرائط پر صلح کر لیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سے جنگ کریں اور شکست کی صورت میں اپنی عورتوں اور بچوں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں لیکن چونکہ بنی قریظہ کے یہودیوں کو حیحی بن اخطب نے آپ خلاف پہلے ہی حد سے زیادہ بھڑکا رکھا تھا اس لیے انہوں نے کعب بن اسد کی پہلی دونوں باتیں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ جب انہی میں سے کسی نے ابولبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ سے جنہیں اہل قلعہ نے نبی کریم ﷺ سے درخواست کر کے بلایا تھا پوچھا کہ مسلمان ان کی شکست کی صورت میں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا سلوک کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے اس پر خنجر کی طرح پھیر دیا۔ پھر بولے:

”اس صورت میں ان کا تمہارے بچوں اور عورتوں کے ساتھ ان کا کم سے کم یہ سلوک ہو سکتا ہے۔“

ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے وہاں موجود عورتیں اور بچے کانپنے اور زار و قطار رونے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر خود ابولبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور جب وہ قلعہ سے پلٹے تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بجائے مسلمانوں کی نظروں میں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر مدینے واپس چلے گئے لیکن وہاں پہنچ کر اپنے اس فعل پر اس قدر نادم ہوئے کہ مسجد نبوی کی بیرونی دیواروں سے اپنا جسم رگڑ رگڑ کر زخمی کر لیا اور رحمت عالم ﷺ نے جب مدینے میں واپسی پر یہ سنا تو انہیں معاف فرما دیا تھا۔ سورہ توبہ کی ایک شان نزول یہ بھی ہے۔

بہر کیف چونکہ ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یعنی بنی قریظہ کو مسلمانوں سے حد درجہ خائف کر دیا تھا اس لیے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اپنے بچوں اور عورتوں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے یہی بہتر ہوگا کہ جب تک ممکن ہو ان سے جنگ کی جائے لیکن اس فیصلے کے بعد انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا: ”کل یوم السبت ہے“ اس لیے ہم مسلمانوں سے جنگ تو کر نہیں سکتے۔ تاہم مسلمانوں سے کہا جائے کہ کل ”یوم السبت“ یعنی ہماری عبادت کا دن ہے اس لیے ہم ان سے جنگ کے لیے آمادہ ہونے کے باوجود جنگ کر نہیں سکتے۔“ چنانچہ جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اپنا قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ اگلے روز جنگ موقوف رکھی جائے تو آپ نے ان کی یہ درخواست فوراً قبول فرمائی۔

ہاں دقت یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مہلت کے بعد بنی قریظہ نے آنحضرت ﷺ سے کہا یا کہ آپ ان کے پاس سعد بن

معاذؓ کو بھیج دیں تاکہ وہ ان سے مشورے کے بعد صلح یا جنگ کے بارے میں آپ کو جواب دیں گے۔

جیسا کہ متعدد راویوں نے بیان کیا ہے آنحضرت ﷺ نے بنی قریظہ کے پاس سعد بن معاذؓ کو بھیجا جنہوں نے حرب معمول پہلے انہیں اسلام دینی دعوت دی لیکن ان کے انکار پر انہیں بتایا کہ اگر ان کے قلعہ پر ہمدردی نہ ہو تو پھر ان کے تمام مرد قتل کر دیئے جائیں گے یا گرفتار کر لیے جائیں گے اور ان کی عورتیں اور مال مال غنیمت سمجھا جائے گا۔

جب سعد بن معاذؓ بنی قریظہ کے پاس سے واپس آنحضرت ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ: ”ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟“ سعدؓ نے وہی جواب دیا جو ان سے جنگ کی صورت میں وہ بنی قریظہ کو دے آئے تھے۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

”تمہارا فیصلہ حکم خدا اور حکم رسول (ﷺ) کے مطابق ہے۔“

چنانچہ جب اگلے روز بنی قریظہ کے قلعہ پر مسلمانوں نے نعرہ ہائے تکبیر لگا لگا کر بھرپور حملہ کیا جس میں حضرت علیؓ کے علاوہ حضرت عمرؓ اور چند دیگر صحابہؓ پیش پیش تھے تو بنی قریظہ نے جن میں حمزہؓ بن اخطب اور کعب بن اسد قابل ذکر ہیں بڑی جی داری سے مزاحمت کی کوشش کی اور چند مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے قلعہ فتح کر ہی لیا۔

غزوہ بنی قریظہ میں مجاہدین اسلام کی تعداد جنہیں آنحضرت ﷺ نے بنی قریظہ سے مقابلے کا حکم جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے دیا تھا۔ مسلمانوں کی اس تعداد سے زیادہ نہ تھی جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتے بھی شامل تھے اور بعض ثقہ راویوں کے بقول ان کی تلواروں کی چمک دیکھی اور سنسناہٹ سنی گئی تھی جب کہ بنی قریظہ کے صرف آرمودہ کارکنوں نے والوں کی تعداد نو سو تک بتائی گئی ہے۔

بہر کیف جیسا کہ اکثر ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے مسلمانوں کے قلعہ بنی قریظہ میں داخلے کے بعد اس قبیلے کے جن لوگوں نے تنبیہ کے باوجود تہمتیا نہیں ڈالے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور آنحضرت ﷺ کے حکم کے مطابق باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں جن لوگوں نے معافی طلب کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا انہیں رہا کر دیا گیا اور متحارب اشخاص کی سورتوں اور مال کو حسب معمول خمس نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔

کہا جاتا ہے کہ جب حمزہؓ بن اخطب کو گرفتار کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جنہیں اسی رسی سے اوپر اٹھا کر اس کے گلے میں باندھ دیا گیا تھا۔ وہ اب بھی اپنی حرکات پر پشیمان نہیں تھا اس نے بڑے متکبرانہ لہجے میں آنحضرت ﷺ سے مخاطب ہو کر کہا:

”میں نے آپ کی مخالفت اور عداوت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور حتی الامکان آپ پر غالب آنے کی کوشش میں آپ

کو اب بھی جی نہیں مانتا اور اب تک یہی سمجھتا ہوں کہ عزت و ذلت سب تقدیری امور ہیں۔“

جیسا کہ اکثر روایات میں بیان کیا گیا ہے حمزہؓ بن اخطب کا قلعہ بنی قریظہ ہی میں قتل کر دیا گیا تھا۔

جو مجاہدین اسلام غزوہ بنی قریظہ میں شہید ہو گئے یا زخمی ہو کر وفات پا گئے تھے ان کی فرد انماز جنازہ کے بعد وہیں دفن کر دیا گیا۔

ابن اسحاق ایوب بن عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب سلمی بنت قیس یعنی منذر کی ماں کو جسے مسلمان ہو جانے کے شک کے باوجود بنی قریظہ نے حسن اتفاق سے قتل نہیں کیا تھا اور اس کے شوہر فاعہ بن شموال کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سلمی نے اپنے مذکورہ بالا شوہر فاعہ کی اشارہ کر کے آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ منقریب نماز پڑھا کرے گا اور اونٹ کے سوا کسی اور جانور کا گوشت نہیں کھایا کرے گا۔“

سلمیٰ کی اس بات پر آنحضرت ﷺ نے مسکرا کر اس کے ساتھ اس کے شوہر فاعہ بن شموال کو بھی آزاد کر دینے کا حکم دے دیا۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ ان سے محمد بن جعفر بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ غزوہ بنی قریظہ کے دوران میں کوئی عورت قتل نہیں کی گئی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”جتنی عورتیں بنی قریظہ سے گرفتار ہو کر آئی تھیں ان میں ایک عورت بڑی خوب صورت اور طرحدار تھی لیکن وہ رات دن مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی جب کہ اس کے قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ جب کسی نے آواز دے کر پوچھا کہ ”فلاں عورت کہاں ہے؟“ تو وہ آگے بڑھ کر بولی: ”میں ہوں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے پوچھا: ”تمہیں کیوں بلایا جا رہا ہے؟“ وہ بولی: ”قتل کرنے کے لیے“۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے پوچھا: ”تمہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟“ وہ بولی: ”اس لیے کہ میں نے آج تک اسلام اور مسلمانوں کو بلکہ محمد (ﷺ) تک کو برا کہنے کے سوا کبھی اچھا نہیں کہا۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بقول بنی قریظہ کی بیوی وہ ایک عورت تھی جسے قتل کیا گیا تھا۔

امام احمد نے اس روایت کو یعقوب بن ابراہیم ان کے والد اور محمد بن اسحاق کے حوالے سے انہی الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ:

”یہی وہ عورت تھی جس نے بنی قریظہ کے قلعہ میں خلاد بن سوید پر جوتا پھینکا تھا اور اسے اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ اس نے آخر تک اسلام خدا اور خدا کے رسول کو برا بھلا کہنے بلکہ سب و شتم سے زبان نہیں روکی تھی۔“

اس روایت کے آخر میں اس عورت کا نام نہ بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ الحکم قرظی کی بیوی تھی۔

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بنی قریظہ کا مال غنیمت قسمت نکالنے کے بعد ان مجاہدین اسلام میں جو غزوہ بنی قریظہ میں شریک تھے برابر برابر تقسیم کر دیا تھا لیکن آخر میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ہر سوار کو مال غنیمت میں اس کے حصے کے علاوہ تین تین تیر بھی دیئے تھے جن میں سے ایک تیر اس کی اپنی بہادری اور دواس کے گھوڑے کی پھرتی اور چستی و چالاکی کا انعام تھا۔

ابن اسحاق نے یہ بھی بتایا ہے کہ غزوہ بنی قریظہ میں سارے مجاہدین کی تعداد تینتیس تھی۔

ابن اسحاق ہی نے یہ بھی بیان کہا کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ بنی قریظہ کے بعد بنی قریظہ ہی کے ایک شخص عید بن زید بسایا جو مسلمان ہو گئے تھے ایک مسلح جماعت کے ساتھ نجد کے سرکش قبائل کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔

ابن اسحاق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بنی قریظہ کی بو عورتیں بنو رمال غنیمت مدینہ لائی گئی تھیں آنحضرت ﷺ نے اپنی کنیزی کے لیے ان میں سے بنی عمرو بن قریظہ کی ایک عورت کو پسند فرمایا تھا اور وہ آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ رہی تھی۔ ویسے آپ نے اسے مسلمان ہونے اور اپنی زوجیت میں لینے کی دعوت دی تھی لیکن شروع میں انکار کے بعد کچھ عرصہ بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا جس سے آپ کو بہت مسرت ہوئی تھی لیکن آپ نے اپنی زوجیت کے بارے میں اسے اختیار دے دیا تھا اور وہ آپ کی زوجیت میں نہ آنے کے باوجود آپ کی وفات تک بڑی لگن اور خلوص دل سے آپ کی خدمت کرتی رہی۔

ابن اسحاق نے غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کے ضمن میں سورہ احزاب کی جن ابتدائی آیات کا حوالہ دے کر انہیں پیش کیا ہے ان کی تشریح و تفسیر ہم اپنی کتاب ”کتاب التفسیر“ میں پیش کر چکے ہیں۔

ابن اسحاق غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے چند مسلمانوں کے علاوہ خلد بن سوید بن ثعلبہ بن عمرو خزرجی بھی شہید ہو گئے تھے۔ انہیں بنا تہ نے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اظہار حقارت کے لیے جوتے کے تلوے میں پیوست کر کے اپنے مکان کی چھت سے دو دھاری خنجر پھینک مارا تھا جس سے انہیں اتنا شدید زخم آیا تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے تھے۔ ان کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے صحابہ نبی ﷺ کی مجلس میں دو شہیدوں کے اجر کی بشارت دی تھی۔

ممکن ہے کہ بنی قریظہ کی جس واحد عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا تھا وہ بنا تہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہو۔ (مؤلف)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ”بنی قریظہ کے محاصرے کے دوران میں بنی اسد بن خزیمہ کے ابوسنان بن محسن بن حرثان فوت ہو گئے تھے جنہیں بنی قریظہ کے قبرستان ہی میں دفن کر دیا گیا تھا اور ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔“



سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مہمان بن عرفہ نے غزوہ خندق کے روز سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ایسا تاک کر تیرا مارا تھا جو ان کی پیشانی میں دونوں ابروؤں کے درمیان پیوست ہو گیا تھا اور باوجود اس کے کہ اس تیر کو نکال کر ان کی پیشانی کے اس زخم کو داغ دیا گیا تھا اور کچھ عرصہ بعد وہ زخم بھی مندمل ہو گیا تھا لیکن ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔

بہر کیف سعد اللہ میاں سے عاجزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ ان کی وفات سے قبل ان کی بینائی بحال ہو جائے تاکہ وہ بنی قریظہ کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہو سکیں۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی قریظہ نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ جملہ معاہدوں اور مواثیق کے باوجود آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھیں اور مسلمانوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اس فتنے کو دبانے کے لیے انہیں بنی قریظہ سے عنقریب جنگ کرنا پڑے گی۔

مدینے کے مسلمانوں کی یہ بات واقعی سچی نکلی کیونکہ آنحضرت ﷺ کو بنی قریظہ کی روز افزوں مخالفت اور سرکشی کے پیش نظر اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے دبانے کے لیے ان پر لشکر کشی کرنا پڑی۔

اس زمانے میں جب نبی کریم ﷺ نے کچھ منتخب مجاہدین اسلام کو وہاں کے یہودیوں کے خلاف جنگ کے لیے بنی قریظہ کی طرف سفر کی تیاری کا حکم دیا تو اچانک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی صدق دل سے عاجزانہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی دونوں آنکھیں روشن فرمادیں۔

جیسا کہ غزوہ بنی قریظہ کے ابتدائی ذکر میں بتایا جا چکا ہے جب آنحضرت ﷺ کے حکم سے مجاہدین اسلام نے قلعہ بنی قریظہ کا محاصرہ جنگ کیا اور وہاں کے یہودیوں کو صاف نظر آنے لگا کہ مسلمان ان پر ضرور غالب آ جائیں گے تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کہلوایا کہ آپ ان کے پاس ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجیں تاکہ وہ ان سے مشورہ کر کے صلح کے لیے آپ کی پیش کردہ شرائط پر غور کر کے باہم کچھ فیصلہ کر سکیں۔ ابولبابہ رضی اللہ عنہ کی دعوت اسلام رد کرنے کے بعد جب بنی قریظہ نے قلعہ فتح ہونے کی صورت میں ان سے مسلمانوں کا رد عمل پوچھا تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور یہ بھی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے اس سخت جواب پر آنحضرت ﷺ کی ناراضگی کے خیال سے جسے وہ گناہ عظیم سمجھتے تھے آپ کے پاس واپس آنے کی بجائے مسلمانوں کی نظریں بچا کر واپس مدینے چلے گئے۔ اپنے اس عمل پر ان کی ندامت وغیرہ کا حال بھی پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

بہر کیف جب ابولبابہ کا کچھ پتہ نہ چلا تو بنی قریظہ کے یہودیوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں قاصد بھیج کر کہلوایا کہ آپ ان کے پاس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجیں کیونکہ وہ بھی عہد جاہلیت میں ان کے قریبی دوست رہ چکے تھے۔ انہوں نے آپ

سے یہ بھی کہہ لیا کہ ۸۰ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ضرور عمل کریں گے تاہم جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان سے جو کچھ کہا اس کا لب و لہجہ اگرچہ بہت نرم تھا لیکن انہوں نے بھی ان سے دوسرے لفظوں میں وہی کہا جو اس سے قبل ان سے ابولہبابہ رضی اللہ عنہ کہہ چکے تھے۔

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنی قریظہ نے جو جوابات دیئے ان سے بظاہر یہی مترشح ہوتا تھا کہ وہ ان کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ ان کی ہر بات پر صحیح اور درست کہتے رہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے لیکن دراصل وہ ان کے مسلمان ہو جانے کی بناء پر انہیں آنحضرت ﷺ کا سچا پیرو کار سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ ہر بات آپ ہی کے اشارے پر کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے ان کا مشورہ بظاہر قبول کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے مخالفانہ طرز عمل پر اور زیادہ جم گئے۔ اس کا نتیجہ جو ہوا وہ غزوہ بنی قریظہ کے واقعات کے ساتھ آخر میں بتایا جا چکا ہے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بیٹائی تو غزوہ بنی قریظہ ہی میں لوٹ آئی تھی اور وہ اس کے لیے اکثر بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر ادا کرتے رہتے تھے لیکن سوئے اتفاق سے ان کا وہ زخم جو پہلے مندمل ہو چکا تھا اب پھر رسنے لگا تھا اور وہ اس کی وجہ سے بہت نحیف اور لاغر ہو گئے تھے حتیٰ کہ وہ اپنے خیمے سے جو مسجد نبوی کے قریب ہی تھا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری سے بھی جسے وہ ہر روز اپنے لیے لازم سمجھتے تھے معذور ہو گئے تھے۔

ابن اسحاق مزید بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ اپنے خیمے سے ایک پستہ قد گدھے پر بمشکل سوار ہو کر مسجد نبوی کے دروازے تک بھی نہ پہنچ سکے۔ انہیں لوگوں نے اس گدھے کی پیٹھ سے مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی اتار لیا کیونکہ وہ ڈگمگانے لگے تھے۔

اس کے بعد انہیں ان کے اصرار پر سہارا دے کر مسجد کے اندر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچایا گیا اور انہوں نے اس حالت میں بھی ان آداب کو جنہیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی خدمت حاضری کے وقت ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے ملحوظ رکھنا چاہا لیکن آپ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر اور اپنے ساتھ ان کی اس لامحدود محبت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے خود اٹھ کر انہیں اپنے پہلو میں بٹھایا اور دیر تک ان کی مزاج پرسی اور ان کے حق میں دعا فرماتے رہے۔

اس سے قبل جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے انہیں غزوہ بنی قریظہ ہی میں شہادت کی تمنا تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدینے میں واپسی کے بعد پورا کر دیا کیونکہ وہاں سے واپسی کے فوراً بعد جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ان کا پہلا زخم عود کر آیا اور اس سے برابر خون جاری رہنے لگا اور اس حالت میں ایک روز شب کے وقت انہوں نے اپنی جان جان آفرین اور اپنے مالک حقیقی کے حضور پیش کر دی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ بنی قریظہ کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا زخم پھر کھل گیا اور اسی سے وہ وفات پا کر رتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ان سے معاذ رضی اللہ عنہ زرقا اور ان کی قوم کے دوسرے اکثر لوگوں نے بیان کیا کہ جس رات

کو۔ بعد میں معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس وقت جبریل علیہ السلام جن کے سر پر ابرق کی طرح چمکتا ہوا نور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا:

”یا محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کس فوت ہونے والے کی میت ہے؟ اس کی آمد کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور عرش تک خوش ہو رہا ہے؟“

جبریل علیہ السلام سے یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی ردائے مبارک اوڑھ کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے نیچے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ واقعی وہ وفات پا چکے ہیں۔

حافظ بیہقی اپنی کتاب ”الدلائل“ میں فرماتے ہیں کہ ان سے ابو عبد اللہ الحافظ ابو العباس محمد بن یعقوب محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم کے علاوہ خود ان کے والد اور شعیب بن لیث نے بیان کیا اور آخر الذکر دونوں کولیت بن سعد نے یزید بن ہاشم بن معاذ بن رفاعہ اور جابر بن عبد اللہ کے حوالے سے بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے پوچھا کہ:

”یہ نیک بندہ کون ہے جس کی وفات پر آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور عرش تک خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟“

اس کے بعد بیہقی انہی حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا تو اس آدھی رات کو وفات پانے والے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے دو مرتبہ سبحان اللہ فرمایا اور ان کی تدفین کے بعد آپ نے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی تکبیر کہی جس کے بعد آپ نے فرمایا:

”اس مرد صالح کو قیامت تک قبر میں کسی تکلیف کا سامنا بڑی حیرت انگیز بات ہوگی۔“

احمد و نسائی رحمہما اللہ یزید بن عبد اللہ بن اسامہ بن ہاد اور یحییٰ بن سعید کے ذریعہ اور معاذ بن رفاعہ اور جابر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر پر فرمایا:

”سبحان اللہ! اس نیک بندے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور عرش الہی بھی حرکت میں آ گیا اور جب تک

اسے قیامت کے دن اس قبر سے اٹھایا جائے گا اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا۔“

ابن اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ ان سے معاذ بن رفاعہ نے محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن جموح نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے اور انہی کی زبانی بیان کیا کہ:

”جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا تو ہم بھی وہاں موجود تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد

ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد اللہ اکبر فرمایا جس میں ہم لوگ بھی شریک ہوئے۔“

اس کے بعد حاضر ہونے آئے۔ عرش پر۔

”یا رسول اللہ (ﷺ) آپ نے ان کی قبر پر ایسی (طویل) تین کیوں پڑھی اور اس کے بعد آپ کی زبان مبارک پر اللہ اکبر اتنی دیر تک کیوں رہا؟“

اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:

”ان کی قبر قیامت تک ان کے لیے نشاد اور باعثِ راحت رہے گی یعنی اس وقت تک جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قبر کو کھول کر انہیں اٹھایا جائے گا“۔ (حدیث نبوی کا تشریحی ترجمہ)

اسی طرح امام احمد نے یعقوب بن ابراہیم بن سعد ان کے والد اور ابنِ اسحق کے حوالے سے یہ روایت پیش کی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت کا ثبوت مجازاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:

”ہر قبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ناجی شخص کو جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے (روز قیامت تک) راحت سے رکھے۔“

یہ وہی حدیث نبوی ہے جسے بیان کرتے ہوئے امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے یحییٰ نے شعبہ سعد ابن ابراہیم نافع اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بیان کیا کہ:

”ناجی کے سوا جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے ہر قبر تک ہو جاتی ہے۔“

اس حدیث کی صحت کا ایک اور ثبوت اس کا صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں اندراج ہے۔ (مؤلف)

امام احمد متعدد دوسرے حوالوں کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ:

”سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر ستر ہزار فرشتگان رحمت آسمان سے اترے تھے اور یہ کہ اس سے قبل کسی دوسرے کی وفات پر نہ اتنی تعداد میں (رحمت کے) فرشتے زمین پر اترے تھے اور نہ اس کی تدفین تک اس کی قبر پر ٹھہرے تھے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ:

”سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر نافع مسلسل روتے رہے تھے۔“

بعض احادیث سے یہ بھی قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو خود آنحضرت ﷺ نے قبر میں اتارا تھا اور ان کے والدین کو جنت میں ان کی آمد کا جشن اور تزک و احتشام دکھانے کے لیے تاسر عرش اٹھایا اور پھر زمین پر اتار دیا گیا تھا۔ (مؤلف)

کہا جاتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ ایک لشکر لے کر کیدردہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں زری سے تیار کردہ ایک لباس فاخرہ پیش کیا تھا جسے زیب تن فرما کر آپ نے ممبر سے لوگوں سے خطاب فرمایا تھا اور جب آپ نے اسے پہنا تو لوگوں نے اسے مبارکبادی سے مبارکبادی دی۔ آپ نے اسے اٹھا کر فرمایا کہ:

”تم لوگ اس لباس کو حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں بہتر لباس تو جنت میں سعد بن معاذؓ نے پہن رکھا ہے۔“

اس حدیث کو ترمذی و نسائی نے محمد بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اسے حدیث صحیح و سن بتایا ہے۔ (مؤلف)

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ سعد بن معاذؓ کی وفات پر ایک انصاری شاعر نے حدیث نبوی کے حوالے سے اہتراز عرش کے بارے میں مندرجہ ذیل کہا تھا۔

وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو

ابن اسحاق مزید کہتے ہیں کہ سعد بن معاذؓ کی وفات پر ان کی والدہ یعنی کیشہ بنت رافع بن معاویہ بن ثعلبہ الخزریہ الخزرجیہ نے جب ان کے بیٹے سعد کی میت اٹھائی جا رہی تھی فی البدیہہ نوحہ کہہ کر پڑھا تھا اور آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ: ”سعد بن معاذؓ کی وفات پر اس نوحے کے علاوہ اور سب نوحے پر تکذیب ہوتے ہیں۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سعد بن معاذؓ کی وفات پر جسے آنحضرت ﷺ نے شہادت فرمایا ہے حسان بن ثابتؓ نے ایک بڑا پر درد مرثیہ کہا تھا نیز یہ کہ اس سے قبل کبھی کسی کی وفات پر اتنے لوگوں کو روتے نہیں دیکھا گیا تھا۔



فصل:

غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ پر اشعار

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے حجاج بن منہال نے متعدد حوالوں سے عدی بن ثابت کی زبانی البراء بن عازب کا یہ قول بیان کیا کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہا سے یہ فرماتے سنا کہ:

”مشرکین کی جتنی ہو سکے ہجو کرو جس میں جبریل علیہ السلام تمہارا ساتھ دیں گے۔“

بخاری کے بقول غزوہ بنی قریظہ کے روز اور ابن اسحاق کے بقول غزوہ خندق کے دن بنی محارب بن فہر کے بھائی ضرار بن الخطاب بن مرداس نے اشعار کی صورت میں مجاہدین اسلام کی ہجو کا ایک طومار باندھ دیا تھا۔^①

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیری السہمی نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر ایسا ہی کہا تھا۔^②

ابن اسحاق نے مذکورہ بالا اشاعروں کے جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہا نے جو پر مغز اشعار کہے تھے وہ بھی بیان کیے ہیں۔ ان کے علاوہ کعب بن مالک، ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب وغیرہ نے جو اشعار مذکورہ بالا دونوں موقعوں پر کہے تھے اور ان کے علاوہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہا نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات اور غزوہ بنی قریظہ کے شہداء پر جو مرثیہ کہے تھے ان سب کا ریکارڈ عربی ادب میں موجود ہے جس سے شائقین ادبیات استفادہ کر سکتے ہیں۔



① یہ اس مشہور عربی شاعر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا قصہ ہے۔ (مؤلف)

② بھی یہ اس مشہور عربی شاعر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا قصہ ہے۔ (مؤلف)

مقتل ابورافع یہودی

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے غزوہ خندق سے فراغت کے بعد مجاہدین اسلام کو بنی قریظہ کے سرکشوں اور فتنہ پردازوں کی سرکوبی کا حکم دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی قیادت کے لیے خود بھی بہ نفس نفیس اس طرف روانہ ہوئے تو آپ نے انہیں بطور خاص یہ حکم بھی دیا تھا کہ سلام بن حقیق جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ شخص جو ابورافع کے نام سے مشہور تھا، مسلمانوں کو مصائب میں مبتلا کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا جو قبیلہ خزرج کی مخالفت اور دشمنی میں ہر موقع پر آگے آگے رہتا تھا اس لیے آپ نے قبیلہ خزرج کے ان لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ تھے ابورافع کو قتل کرنے کا بطور خاص جو حکم دیا اس سے خزرجی لوگ حد سے زیادہ خوش ہوئے تھے اور وہ اس کی تاک میں تھے ویسے چونکہ اس وقت جب غزوہ احد سے قبل اوس والوں نے خزرج کے مشہور شخص کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا۔ ابورافع کے خیبر میں پائے جانے کی اطلاع ملی تھی اس لیے اب سے پہلے ہی خزرجی لوگوں کو اس کے فوری قتل کا حکم دیا گیا تھا۔

ابن اسحاق محمد بن مسلم زہری اور عبد اللہ بن کعب بن مالک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت کی مکہ سے مدینے کو ہجرت کے وقت مدینے میں سکونت پذیر اوس و خزرج کے جو لوگ مسلم انصار میں شامل ہوئے تھے اس وقت بھی اوس کے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ساتھ دینے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا، ان کا سرغنہ یہی ابورافع تھا اور خزرج کے جو لوگ کسی غرض اور مال و دولت کے لالچ کے بغیر آپ کا ساتھ دینے پر ہر طرح آمادہ ہو گئے تھے ان کا سربراہ کعب بن اشرف تھا جسے اکثر لوگوں کے بقول جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، غزوہ احد سے پہلے ہی ابورافع نے ان دونوں قبائل میں قدیم دشمنی اور اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ کی نصرت کے معاملے میں کعب بن اشرف کی حمایت کی وجہ سے اسے دانستہ قتل کیا تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا جب آنحضرت ﷺ نے خزرج والوں کو ابورافع کے قتل کی اجازت دی تھی وہ اس وقت خیبر میں تھا۔

بہر کیف ابن اسحاق نے مذکورہ بالا حوالوں سے ابورافع کے قتل کا واقعہ جس طرح بیان کیا ہے اسے ذیل میں درج کیا جاتا

ہے:

”جب آنحضرت ﷺ نے اہل خزرج کو ابورافع کے قتل کی اجازت دی تھی تو ان میں سے ابن اشرف کے علاوہ جو لوگ ابورافع کی تلاش میں نکلے تھے وہ بنی سلمہ کے پانچ افراد عبد اللہ بن عتیک، مسعود بن سنان، عبد اللہ بن سنان، ابو قتادہ الحارث ابن ربیع تھے جن میں ان کا حلیف خزاعی ابن اسود بھی شامل تھا۔ ویسے آخر الذکر کا تعلق خزرج کی ایک شاخ بنی اسلم سے تھا۔ تاہم جب یہ لوگ ابورافع کی تلاش میں روانہ ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے عبد اللہ بن عتیک کو تاکید کی تھی

کہ ولید یا اس کی بیوی کو کسی حالت میں قتل نہ کیا جائے۔“

”جب یہ لوگ خیبر پہنچے تو رات ہو چکی تھی لیکن انہوں نے خود کو اجنبی ظاہر کرنے کے خیال سے بھی کسی اور کے دروازے پر دستک دینا مناسب نہ سمجھا بلکہ سیدھے امین ابی حقیق کے دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں بھی اہل خانہ کو بلند آواز سے پکارنے کے بجائے اس کے دروازے پر اس قدر دستک دی کہ پڑوسیوں کو بالکل خبر نہ ہونے پائے جو بیدار ہو کر کسی گڑبڑ کی صورت میں اس کی مدد کو آ سکتے تھے۔“

”بہر حال دروازے پر دستک سن کر ابورافع کی بیوی نے دروازہ کھولا اور ان سے پوچھا: ”تم کون ہو؟“ وہ بولے: ”ہم عرب ہیں اور مسافر ہیں، چونکہ رات کو اس وقت کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے آپ کے پاس بچا ہوا کھانا ہو تو ہمیں دے دو۔“

وہ بولی: ”میرے شوہر اس وقت اوپر کی منزل میں کھانا کھا رہے ہیں، تم اپنے ایک آدمی کو اندر بھیج دو تاکہ وہ اوپر جا کر ان سے کھانا لے آئے۔“

لیکن جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے:

”اس عورت نے پیچھے ہٹ کر ان میں سے ایک آدمی کو اندر آنے کی اجازت دی ہی تھی کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے پیچھے مکان میں گھتے چلے گئے۔ وہ پہلے تو حیرت زدہ ہو کر کھڑی رہی لیکن جب ان لوگوں نے اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کا رخ کیا تو وہ اپنے خاوند کو خبردار کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی لیکن ان لوگوں نے اوپر پہنچتے ہی ابورافع پر جو واقعی کھانا کھا رہا تھا تلواروں سے حملہ کر دیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر کچھ دیر فرش پر تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔“

”ابورافع پر پہلے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا اور پہلے ہی دار میں اپنی تلوار اس کے پیٹ کے آ پار کر دی تھی۔ جب اس کی بیوی نے مزاحمت کرنا چاہی تو ان لوگوں نے اسے بھی قتل کرنا چاہا لیکن عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ نے انہیں آنحضرت ﷺ کا یہ حکم یاد دلا کر روک دیا کہ ولید اس کی بیوی یا کسی دوسرے کی بیوی کو کسی حالت میں قتل نہ کیا جائے۔“

”عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کی بصارت کمزور تھی اس لیے وہ اس مکان سے رات کے اندھیرے میں بھاگ نکلنے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا بلکہ اسے ایک آدھ جگہ ٹھوکر بھی لگ گئی تھی اور وہ گرجر زخمی ہو گیا تھا اس لیے اسے اٹھا کر راستے سے الگ لے جایا گیا، اس کا زخم صاف کیا اور تھوڑا سا پانی اسے پلا بھی دیا گیا۔“

جب ابن عتیک رضی اللہ عنہ سنبھل کر بیٹھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا:

”وہ خدا کا دشمن مر بھی گیا ہو گا یا نہیں؟“

اس کے جواب میں ان کا ایک ساتھی بولا:

”میں چپکے سے جا کر دیکھتا ہوں۔“

”اس نے ابورافع کے مکان پر پہنچ کر دیکھا کہ اس کے بیوی اس کی چھینیں سن کر اس کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے اور دو دو چار مل کر پرسش حال کے لیے اندر جا رہے تھے۔ چنانچہ یہ بھی انہیں میں شامل ہو گیا اور پھر انہی کے ساتھ مکان کی بالائی منزل پر بھی چلا گیا جہاں ابورافع کی بیوی پر اس قریب لاکر لوگوں کو اس کی صورت دکھارتی تھی تو مرچکا تھا۔“

ابن عتیق رضی اللہ عنہ کے اس ساتھی کو اتفاق سے اس وقت بھی کسی نے نہیں پہچانا تھا جب اس نے کہا تھا:

”میں نے ابن عتیق رضی اللہ عنہ کی آواز تو تھوڑی دیر پہلے کہیں قریب ہی سنی تھی لیکن میں نے سوچا کہ بھلا وہ ان اطراف میں خصوصاً ہماری اس بستی کی طرف کیسے آسکتا ہے۔“

جب ابن عتیق رضی اللہ عنہ کے اس ساتھی نے اسے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو ابورافع کے مکان سے کسی طرح چھپ چھپا کر واپسی میں اس کے مرنے کی اطلاع دی تو ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا:

”مجھے اس کی حسین اور جوان بیوی پر بڑا ترس آیا جو کم بخت اپنے شوہر کی قبیح حرکات کی وجہ سے اس عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔“

بہر حال جب یہ لوگ خیبر سے لوٹ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ ابورافع کو اسی نے قتل کیا ہے اس لیے آنحضرت ﷺ نے ان کی تلواریں باری باری سے لے کر ملاحظہ فرمائیں پھر ارشاد فرمایا:

”عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی تلوار پر کھانے کے کچھ باریک ذرات ابھی تک موجود ہیں جو مقتول کے پیٹ سے ان کی تلوار پر اس وقت جم کر رہ گئے تھے جب یہ تلوار مقتول کے پیٹ سے گزری تھی اگرچہ یہ ذرات بظاہر کسی کو شاید اب بھی نظر نہ آئیں اس لیے ابورافع کے قتل کو انہی کا کارنامہ سمجھنا چاہیے۔“ (حدیث کا تشریحی ترجمہ)

امام محمد ابن اسحاق نے بھی اس قصے کو قریباً اسی طرح بیان کیا ہے۔ (مؤلف)

امام ابو عبد اللہ البخاری کہتے ہیں کہ ان سے اسحاق بن نصر یحییٰ بن آدم اور ابن ابی زائدہ نے اپنے والد ابی اسحاق اور البراء ابن عازب کے حوالے سے بیان کیا کہ:

”جب آنحضرت ﷺ نے خزرج کے کچھ لوگوں کو ابورافع کی طرف بھیجا تھا تو ان میں سے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت اس کے مکان میں داخل ہو کر سوتے میں اسے قتل کر دیا تھا۔“

بخاری متعدد حوالوں سے بیان فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے انصار میں سے چند افراد کو ابورافع کی تلاش اور اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور ان کی سربراہی پر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو مامور فرمایا تھا تو اس وقت تک وہ آپ کی اور آپ کے مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایذا رسانی میں حد سے گزر چکا تھا۔

بخاری مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ابورافع نے حجاز ہی میں ایک جگہ قلعہ تعمیر کر لیا تھا اور اسے اپنے لیے محفوظ سمجھ کر وہیں سے نبی کریم ﷺ کے خلاف سازشوں کے جال پھیلاتا رہتا تھا۔

بہر حال جب ابن عتیک رضی اللہ عنہ لوگوں کی نٹروں سے بچتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک رات کو اس قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس میں داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تاہم وہ اپنے ساتھیوں کو ایک طرف ٹھہرا کر اپنا لباس اتارنے لگے اور جب بجز ستر پوشی کے ایک معمولی کپڑے کے ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہ رہا اور ماتھ میں بھی صرف تلوار اور کندرہ گئی تو ان کے ساتھی ایک رباں ہو کر حیرت سے بولے۔

”کیا آپ اس طرح اس مضبوط قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟“

ابن عتیک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”ہاں لیکن تم لوگ اس جگہ کے قریب ہی رہنا جہاں سے میں اوپر چڑھوں اور جب میں نیچے اتر کر قریب کا کوئی دروازہ کھولوں تو تم بھی اندر آ جانا۔“

اس منصوبے کی کامیابی کے بعد جب ابن عتیک رضی اللہ عنہ نے قلعے کی چھت سے ایک قریب زینے کے ذریعہ نیچے اتر کر ایک دروازہ کھولنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو کوئی مخصوص اشارہ کیا تو وہ بھی اس دروازے سے قلعے میں داخل ہوئے اورنگی تلواریں لے کر ادھر ادھر پھیل گئے لیکن انہیں وہاں ابورافع کے ایک غلام کے سوا اور کوئی نہ ملا۔ خدا جانے اس کے اہل و عیال اس وقت کہاں تھے۔

ابورافع کا وہ تنباغلام انہیں دیکھ کر شور مچانے لگا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اس وقت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ ابورافع کی خواب گاہ میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہے تھے اس نے انہیں دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا:

”تم! تم یہاں تک کیسے پہنچے؟“

ابن عتیک رضی اللہ عنہ بولے:

”پہلے تم یہ بتاؤ کہ میں نے ابھی جو چیخ سنی ہے وہ کس کی ہو سکتی ہے؟“

ابورافع نے گھبرا کر کہا:

”ارے کم بخت! تیری ماں مرے یہاں اس قلعے میں اس وقت میرے ایک تنباغلام کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، معلوم ہوتا ہے اسے بھی کسی نے قتل کر ڈالا۔“

یہ کہہ کر ابورافع نے بستر سے اٹھنا چاہا لیکن ابن عتیک رضی اللہ عنہ نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اپنی چمک دار تلوار کے پہلے ہی وار میں اسے جہنم واصل کر دیا اور جب ان کے ساتھی انہیں دھونڈتے ہوئے ابورافع کی خواب گاہ میں پہنچے تو انہیں اس کے بستر پر ایک تصویر عبرت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔

بخاری آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ ان سے اکثر لوگوں نے بیان کیا کہ ابورافع کے قلعے سے باہر آتے وقت وہ ضعف و بھاری کی وجہ سے کسی دروازے سے نکل کر گر پڑے تھے جس سے ان کی ایک بندی ٹوٹ گئی تھی اور انہیں ان کے ساتھی بمشکل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تھے۔

بخاریؒ کے بقول ابن کے متعدد شہداء راویوں کا بیان ہے کہ جب عبداللہ بن عتیکؓ نے وہ کوفہ کے ساتھ آنحضرتؐ کی خدمت میں اس حالت میں لائے کہ ان کی ایک شکستہ پنڈلی ٹخنے اور پاؤں، بیت سد سے ریاد و تورم تھے اور ان کے ہاتھوں اور اعضاء کے قتل کا سارا اوتھہ آپ کے گوش گزار کیا تو آپ نے بڑی شفقت سے ان کے حیرے پر کھو ڈالی اور پھر کلمات تمہیں و آفریں کے ساتھ اس کی اس شکستہ پنڈلی سے نیچے تک دست مبارک پھیرا۔

بخاری فرماتے ہیں کہ اکثر راویوں نے عبداللہ بن عتیکؓ کو یہ بیان نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ کی شکستہ پنڈلی کے دست مبارک پھرنے کے بعد ان کی اس پنڈلی کا شدید درد اور ورم بالکل جاتے رہے اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس میں تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔

بہر کیف اس روایت اور اس روایت سے قبل جو روایات اور افعال کے قتل کے بارے میں بیان کی گئی ہیں ان پر ہمارے نزدیک کسی تہرے کی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ اعلم (مؤلف)



مقتل خالد بن سفیان الہزلی

حافظ بیہقی نے اپنی کتاب ”الدلائل“ میں مقتل اور افرغ کے بعد مقتل خالد بن سفیان الہزلی کا مختصر ذکر کیا ہے۔

امام احمد اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان سے یعقوب اور خود ان کے والد نے ابن اسحاق کے حوالے سے اور محمد بن جعفر بن زبیر نے ابن عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یعنی عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے آخر الذکر یعنی عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا:

”مجھے خبر ملی ہے کہ خالد بن سفیان بن بلع میرے خلاف جنگ کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے لہذا تم جا کر اسے ٹھکانے لگا دو وہ آج کل تمہیں عرنہ میں ملے گا۔“

عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے اس کی کچھ نشانی بتا دیجیے تاکہ میں اسے پہچان سکوں۔“

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ مرض رعشہ میں مبتلا تھا۔“

عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کے بعد وہ اپنی تلوار لے کر دیوانہ وار روانہ ہو گئے

اور انہوں نے خالد بن سفیان الہزلی کو عرنہ میں جا پکڑا۔

وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عصر کا وقت تھا اور خالد بن سفیان عورتوں کو سوار کرنے کے لیے اونٹوں کو بٹھارہا تھا۔ وہ بیان کرتے

ہیں کہ انہوں نے اسے اسی نشانی سے جو آنحضرت ﷺ نے بتائی تھی پہچانا تھا لیکن ایک طرف تو انہیں نماز عصر قضا ہونے کا اندیشہ

تھا اور دوسری طرف یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے اسے ٹھکانے لگانے سے پہلے نماز ادا کی تو وہ کہیں چل نہ دے اس لیے انہوں نے

یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور ہر رکعت میں رکوع و سجود کے بعد اس کی پشت کی طرف سے لیٹے لیٹے اس کی

طرف کھسکنا شروع کیا حتیٰ کہ آخری رکعت کے سجدوں کے بعد سلام پھیرتے ہی وہ اس کے پاس جا پہنچے اور اسی لمحے اسے جہنم

داخل کر دیا۔

وہ کہتے ہیں کہ قتل سے پہلے اس نے ان کی آہٹ پا کر مڑتے ہوئے اور حیرت زدہ ہو کر ان سے پوچھا تھا: ”تم کون ہو؟“

اور انہوں نے جواب دیا تھا:

”میں ایک عرب ہوں اور تمہارے پاس اسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں جس کے لیے تم لوگوں کو جمع کر رہے ہو اور وہ کام

یہ ہے۔“

یہ کہتے ہی انہوں نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی اور اس کے فوراً بعد جیسا کہ انہوں نے بتایا، ان عورتوں کو جنہیں سوار کرنے کے لیے وہ اونٹوں کو بٹھارہا تھا اس کی لاش پر روتا چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔

عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے مزید بیان کیا کہ وہ جب غزوات سے مدینے واپسی پر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا:

”تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو کر آئے ہو۔“

آنحضرت ﷺ کے اس پیغمبرانہ ارشاد کے جواب میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”جی حضور ﷺ میں اسے قتل کر آیا ہوں۔“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ انہیں ساتھ لے کر اپنے خانہ مبارک تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے انہیں ایک عصا عطا

فرمایا: عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے مؤدبانہ عرض کیا:

”حضور ﷺ آپ کی یہ عطا اس بندہ ناچیز کے لیے دولت کونین سے بڑھ کر اور دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ متبرک ہے

لیکن آپ کے اس غلام کے لیے اس کا مصرف کیا ہوگا؟“

اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ:

”عصا دنیا میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ بننے کے علاوہ میدان حشر میں میرے لیے تمہاری پہچان ہوگا کیونکہ دنیا کی کسی سر

زمین سے کہیں زیادہ وہاں انسانی مخلوق ایک جگہ جمع ہوگی اور یہاں سے بہت زیادہ کسی نہ کسی عصا پر انحصار کرے

گی۔“ (تشریحی ترجمہ حدیث)

اسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عصا تلوار کی طرح ہمیشہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا خاص رفیق بنا رہا اور ان کی وصیت

کے مطابق تدفین کے وقت ان کی قبر میں رکھ دیا گیا تھا۔

امام احمد نے اس واقعے کو یحییٰ بن آدم، عبداللہ بن ادریس، محمد بن اسحاق، محمد بن جعفر بن زبیر اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے

بعض بیٹوں کے حوالے سے بھی روایت کیا ہے۔

اسی طرح اس قصے کو ابوداؤد نے بھی ابی معمر، عبدالوارث، محمد بن اسحاق، محمد بن جعفر، خود عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اور ان کے

والد کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

حافظ بیہقی نے اس روایت کو محمد بن سلمہ کے ذریعہ محمد بن اسحاق، محمد بن جعفر بن زبیر، ابن عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اور ان کے

والد یعنی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کیا ہے۔

ابن ہشام نے خالد بن سفیان کے قتل کے بارے میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے کچھ اشعار بھی پیش کیے ہیں۔

عبداللہ بن انیس بن حرام ابو یحییٰ جہنی بڑے مقتدر اور مشہور صحابی تھے۔ وہ بیعت عقبہ کے علاوہ غزوات احد و خندق اور ان

کے بعد دوسرے غزوات میں بھی شریک رہے تھے۔ انہوں نے جیسا کہ مشہور ہے، شام میں قریباً سال اسی ہجری میں وفات پائی

جب کہ بعض روایات میں ان کا سال وفات سن چون ہجری بتایا گیا ہے، واللہ اعلم (مؤلف)

علی بن زبیر اور خلیفہ بن خیاط نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن انیس ابی عیسیٰ انصاری کو جن سے نبی کریم ﷺ کی یہ حدیث مروی ہے کہ آپ کی دعا سے غزوہ احد کے روز ان کے خشک برتن میں پانی نکل آیا تھا جس سے انہوں نے منہ دھویا تھا اور سیر ہو کر پانی بھی پیا تھا، دو مختلف شخصیات بتایا ہے اور یہی بات ابو داؤد اور ترمذی نے عبداللہ العمری اور عیسیٰ بن عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے لیکن ترمذی نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں عبداللہ العمری کی روایت کو مستند اور صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیونکہ ضعیف العمری کی وجہ سے ان کا حافظ پہلا جیسا نہیں رہا تھا۔ (مؤلف)



عمرو بن عاص اور نجاشی کا قصہ

محمد بن اسحاق ابورافع کے قتل کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان سے یزید بن ابی حبیب نے حبیب بن اوس ثقفی کے غلام راشد اور خود حبیب بن اوس کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر کو عمرو بن عاص نے بتایا:

”جب ہم یعنی قریش مکہ غزوہ خندق سے ناکام کے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان چند خاص لوگوں کو جمع کیا جو میری ہر بات کو معتبر جان کر اسے مانتے بھی تھے اور ان سے کہا کہ ”اگر آپ لوگ میرا ایک مشورہ مانیں تو کہوں۔“

وہ بولے:

”ضرور کہیے، ہم اسے مانیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔“

عمرو بن عاص نے اس کے بعد حبیب بن اوس کو بتایا:

جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لوگ میری بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو میں نے ان سے کہا:

”میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں بھی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنے کچھ جہاندیدہ اور معتبر آدمی بھیجے چاہئیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ محمد (ﷺ) نے اپنے کچھ خاص خاص آدمی جعفر بنی جعفرؓ کی سرکردگی میں جن میں عمرو بن امیہ ضمری بھی شامل ہے حبشہ بھیج دیئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ جعفر بنی جعفرؓ کی سرکردگی میں جن میں عمرو بن امیہ بہت ہی چالاک آدمی ہے۔ اگر نجاشی ان کی باتوں میں آ گیا تو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔“

عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر مجھ سے درخواست کی کہ میں خود نجاشی کو ہموار کرنے کے لیے حبشہ جاؤں۔ چنانچہ میں قریش کے بہت سے دوسرے لوگ لے کر حبشہ روانہ ہو گیا۔

عمرو بن عاص مزید بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ پہنچ کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نجاشی کے دربار میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ عمرو بن امیہ ضمری اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے نکل رہا تھا بہر حال وہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور وہاں کے دستور کے مطابق پہلے انہوں نے نجاشی کے سامنے فرش پر سر رکھ کر اسے سجدہ کیا اور پھر دست بستہ کھڑے ہو کر اس سے کہا:

”حضور بادشاہ سلامت! ابھی جو شخص حضور کے دربار گہر بار سے نکلا ہے ہم قریش کے اسی آدمی کا نمائندہ ہے جس نے ایک نیا (نعوذ باللہ) من گھڑت مذہب ایجاد کر کے نہ صرف اہل مکہ بلکہ جملہ اہل عرب کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے جب کہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے وہاں کے لوگوں کو حضور کی اطاعت کے لیے پہلے کی طرح اب بھی ہموار کرنے کا سلسلہ جاری کر رکھا لیکن ہمارا ہی وہ آدمی اپنے آپ کو خدا کا نبی بتاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے کہ خود ہمارے لوگ کثرت

سے اس نئے مذہب میں داخل ہونے لگے ہیں۔ اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ آگے چل کر وہ شخص یعنی محمد (ﷺ) نہ صرف ہمارے مذہب بلکہ آپ کے دین مسیحی کے لیے بھی ایک خطرہ عظیم ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بندہ درگاہ اس لیے حضور کی خدمت عالی میں قریش مکہ کی طرف سے یہ گزارش لے کر حاضر ہوا ہے کہ حضور اس شخص کے ان نمائندوں کی پرفریب باتوں کی بجائے میری گزارشات پر غور فرما کر ہماری امداد فرمائیں تاکہ ہم ابتداء ہی میں اس نئے مذہب کا سدباب کر سکیں بلکہ اس نئے مذہب کے بانی کا بھی (نعوذ باللہ) ابھی سے قلع قمع کر دیں۔“

عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے یہ گفتگو سن کر نجاشی اتنا غضب ناک ہوا کہ اس نے اپنے ہی منہ پر ایسا زبردست دوہتر مارا کہ ان کے بقول وہ سمجھے کہ اس سے اس کی ناک ضرور ٹوٹ گئی ہوگی۔

اس کے بعد عمرو بن عاص نے بیان کیا:

”میں یہ دیکھ کر لرز گیا اور اس کے (نجاشی کے) سامنے سر جھکا کر دست بستہ کھڑا ہو گیا تو وہ کسی قدر پرسکون ہو کر یوں گویا ہوا:

”جس شخص کو تم بد نصیب لوگ (نعوذ باللہ) جھوٹا کہتے ہو وہ درحقیقت خدا کا وہی سچا اور آخری نبی ہے جس کی بشارت انجیل مقدس میں موجود ہے اور اس پر جو کلام خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ وہی ”ناموس اکبر“ (کلام الہی) ہے جو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) پر نازل ہوتا تھا کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں خدا کے اس برگزیدہ بندے اور سچے نبی پر پہلے ہی ایمان لا چکا ہوں۔ اس لیے قریش مکہ کو میری طرف سے اس رسول خدا (ﷺ) کے خلاف کسی امداد کی ہرگز امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ تم لوگ یہاں سے فوراً واپس چلے جاؤ ورنہ.....“

عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ نجاشی کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ وہ خوف زدہ ہو کر اس کے آگے دوبارہ جھک گئے اور پھر دست بستہ ہو کر مؤدبانہ بولے:

”مجھے حضور کی رائے عالی سے اب حرف بحرف اتفاق ہے اور میں حضور ہی کے دست مبارک پر محمد (ﷺ) اور ان کے سچے دین پر ایمان لا کر داخل اسلام ہوتا ہوں۔“

عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے یہ سن کر نجاشی کا چہرہ خوشی سے دسکنے لگا اور اس نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ان کی توقع سے زیادہ انعام و اکرام سے نوازا کر رخصت کیا۔

عمرو بن عاص آخر میں کہتے ہیں کہ جب وہ اور ان کے ساتھی حبشہ سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اپنے اسلام کو کچھ دنوں کے لیے قریش مکہ سے پوشیدہ رکھیں گے لیکن وہ جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو انہیں خالد ابن ولید مل گئے اور انہیں دیکھ کر بولے:

”عمرو! تم جس طعننے کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے اب تمہارا وہ انداز نہیں ہے، آخر اس کا کیا سبب ہے؟ کیا تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟“

عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی یہ بات سن کر انہوں نے اس سے سرگوشی میں کہا: ”میرے دوست! تم برا مانو یا بھلا لیکن میں کم سے کم تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ نجاشی کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور میں بجز اللہ مسلمان ہو گیا ہوں۔“

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ان کی زبان سے بظاہر یہ حیرت ناک بات سن کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خوشی سے اچھل پڑے اور پھر بولے:

”مبارک ہو! بہر حال میں تمہیں یہ بتانے میں اب کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ مجھے تم سے پہلے ہی یہ عظیم شرف حاصل ہو چکا ہے۔“

ہمارے نزدیک عمرو بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے داخل اسلام ہونے کا واقعہ واقعہ حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے لیکن محمد بن اسحاق کی طرح ہم نے بھی اسے سال پنجم ہجری کے دوسرے واقعات کے ساتھ یہاں درج کر دیا ہے۔ (مؤلف)



فصل:

ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ کا رشتہ ازدواج

واقعہ خندق کے بعد جیسا کہ بیہقی نے کلبی کے ذریعہ ابی صالح اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ کی تزویج میں مندرجہ ذیل آیت قرآنی کے موثرات کی صاف بھلاک پائی جاتی ہے:

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً﴾

یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت ابوسفیان کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی تزویج ہی تھی جس کے ذریعہ وہ یعنی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین اور ان کے بھائی معاویہ مومنین کے ماموں ہو گئے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ باہم دشمنی رکھنے والوں میں اسلامی رشتہ اخوت و مودت قائم ہو گیا۔

بیہقی ابو عبد اللہ الحافظ احمد بن نجدہ، یحییٰ بن عبد الحمید اور ابن المبارک کی زبانی معمر زہری عروہ اور خود ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے عبد اللہ بن جحش کی زوجیت میں تھیں اور جب عمرو بن عاص جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے شاہ حبشہ نجاشی کو قریش مکہ کے حق میں ہموار کرنے کے لیے حبشہ گئے تھے تو یہ بھی اپنے شوہر اور دوسرے مشرکین قریش کے ہمراہ وہاں گئی تھیں لیکن دوسرے لوگوں کی واپسی کے بعد یہ اپنے شوہر عبد اللہ بن جحش کے ساتھ جیسا کہ اسی روایت میں بیان کیا گیا ہے، وہیں مقیم ہو گئی تھیں اور یہ کہ ان کے شوہر نے وہاں عیسوی مذہب قبول کر لیا تھا لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے شوہر کا وہیں انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنی چند کنیزوں کے ساتھ وہاں تنہا رہ گئی تھیں جس کے بعد آنحضرت ﷺ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تھا جسے انہوں نے بطیب خاطر قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد خود نجاشی نے جیسا کہ عمرو بن عاص کی زبانی پہلے بیان کیا جا چکا ہے مسلمان ہو گیا تھا خطبہ نکاح کے بعد ان کی اجازت سے خالد بن سعید کی وکالت اور جعفر بن عبد المطلب اور چند دوسرے مسلمانوں کی گواہی سے جو اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے ان کا عقد آنحضرت ﷺ سے پڑھایا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے بطور مہر جو کچھ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا تھا اس کے علاوہ خود نجاشی نے انہیں اپنی طرف سے چار ہزار دینار اور بہت سا دوسرا جہیز بھی دیا تھا۔

جب یہ لوگ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ان کی کنیزوں کو ساتھ لے کر حبشہ سے روانہ ہونے لگے تو نجاشی نے سنت انبیاء کا حوالہ دے کر دعوت کے لیے انہیں روک لیا تھا جس کے بعد وہ لوگ اگلے روز وہاں سے واپس مکہ کی طرف واپس لوٹے تھے۔

بیہقی کا ابن لہیعہ کے ذریعہ ابی اسود اور عروہ کے حوالے سے یہ بیان کہ عبد اللہ بن جحش نے اسلام لانے کے بعد دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے حکم سے مکہ سے حبشہ کو ہجرت کی تھی اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ وہاں گئی تھیں لیکن دوسرے شیطانی سے مغلوب ہو کر عبد اللہ بن جحش عیسائیت کو پسند کر کے عیسائی ہو گئے تھے اور یہ کہ آنحضرت ﷺ کے حکم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حواص وقت حبشہ میں تھے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے عقد کر لیا تھا لیکن یہ کہہ کر کہ انہیں پہلے بیان کیا جا چکا ہے حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ تو عبد اللہ بن جحش کے فوت ہونے سے قبل ہی مکہ واپس آ گئے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے جس کے بعد آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا وہیں آپ سے آ ملی تھیں۔ اس لیے یونس کی وہ روایت ہی صحیح معلوم ہوتی ہے جو انہوں نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے پیش کی ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آنحضرت ﷺ کا پیغام وصول ہونے اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے اسے قبول کر لینے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے خالد بن عمرو بن عاص کو وکیل اور جعفر بن عبد المطلب وغیرہ کو وکیل بنا کر ان کا نکاح آپ کی طرف سے خود وکیل بن کر آنحضرت ﷺ سے پڑھایا تھا اور پھر خالد بن سعید اور دیگر مسلمانوں کے ہمراہ انہیں آپ کی خدمت میں مدینے بھجوا دیا تھا۔

بہر حال یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا عقد سال چہارم ہجری میں بتایا ہے جب کہ خلیفہ ابو عبید اللہ معمر بن ثنی اور ابن البرقی وغیرہ نے اسے سال ششم ہجری میں بیان کیا ہے لیکن مسلم الثبوت روایت وہی ہے جس میں یہ واقعہ سال پنجم ہجری سے منسوب کیا گیا ہے اور وہی اس سال کے دوران میں بہت سے دوسرے وقوع پذیر واقعات کی مناسبت سے قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ام حبیبہ کا آنحضرت سے فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ واللہ اعلم بہر حال ابو عبید القاسم بن سلام نے ام حبیبہ کی وفات کا سن چوالیس ہجری بتایا ہے۔ جب کہ ان کے بھائی معاویہ ابن ابی سفیان نے ماہ رجب سن ساٹھ ہجری میں وفات پائی۔ البتہ ابوسفیان کے اسلام لانے کا ذکر اکثر راویوں نے فتح مکہ کے بعد کیا ہے۔ جس پر ہم آگے چل کر ان شاء اللہ مفصل گفتگو کریں گے۔



۲ آنحضرت ﷺ کا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے عقد

ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا آنحضرت ﷺ کی پھوپھی میمونہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی یعنی آپ کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ پہلے ان کی شادی آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔

قادۃ واقدی اور بعض اہل مدینہ کے بقول وہ اس کے بعد سال پنجم ہجری میں آنحضرت ﷺ کے نکاح یعنی آپ کی زوجیت میں آئیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ سال مذکورہ کے ذیقعد کا مہینہ تھا۔

حافظ بیہقی کہتے ہیں کہ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا سے نبی کریم ﷺ کا عقد غزوہ بنی قریظہ کے بعد ہوا تھا جب کہ خلیفہ بن خیاط ابو عبیدہ عمر بن شنی اور ابن مندہ بتاتے ہیں کہ وہ سال سوم ہجری کے اوّل چند ماہ کے دوران میں آپ کی زوجیت میں آئی تھی۔ ان راویوں کے علاوہ ابن جریر اور دوسرے متعدد مورخین، مفسرین اور علماء و فقہاء نے جن میں احمد بن حنبلؒ بھی شامل ہیں آپ کے ساتھ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کے ازدواج کو عموماً مختلف سنیں و اوقات میں بیان کیا ہے لیکن ان سب کا ایراد و اندراج ہم نے یہاں بخوف طوالت قصد ترک کر دیا ہے بہر کیف آنحضرت ﷺ کے تعدد ازدواج اس کے جواز اور مطلقہ خواتین سے آپ کو نکاح کی اجازت کے بارے میں ارشاد بانی حسب موقع ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ جس میں آنحضرت ﷺ سے قبل زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کے متعلق تصریح واضح الفاظ میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ الخ﴾

اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوا:

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ سُنَّةَ اللَّهِ الخ﴾

ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہم نے اپنی ”کتاب التفسیر“ میں آنحضرت ﷺ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر بصورت اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے زید رضی اللہ عنہ کی شادی کی صورت میں نبی کریم ﷺ کی ان پر نوازش کا ذکر ہم نے بالتفصیل کیا ہے۔ (مؤلف)

مقاتل بن حبان کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے زینب رضی اللہ عنہا کو دس دینار اور ساٹھ درہم نقد کے علاوہ دوپٹے سمیت دہنوں والا پورا لباس اور جہیز میں کئی جوڑے کپڑے، ستو اور بہت سی کھجوریں نیز گھریلو استعمال کی کئی دوسری اشیاء دی تھیں۔

جیسا کہ مذکورہ بالا روایت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش یعنی آنحضرت ﷺ کی پھوپھی زاد بہن

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی منکوحہ کی حیثیت سے ان کے ساتھ ایک سال یا اس سے کچھ زیادہ رہیں لیکن اس کے بعد ان دونوں میں باہم اختلافات رہنے لگے اور ایک روز زید رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کی شکایت کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ کے مطابق ان سے فرمایا:

”جاؤ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرو اور آپس میں عادلانہ طور پر دونوں مل جل کر رہو۔“

(حدیث نبوی کا تشریحی ترجمہ)

اس سلسلے میں علی بن حسین زین العابدین اور السدی بیان فرماتے ہیں کہ جہاں تک نبی کریم ﷺ کی ذات بابرکات و والاصفات کا تعلق ہے آپ اپنی ازواجِ مطہرات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے مندرجہ بالا حکم پر حرف بحرف عمل پیرا تھے اور آپ نے اسی کے مطابق عمل کا حکم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔

اس بارے میں اسلاف کے جو مختلف بیانات تواریخ میں ملتے ہیں ان سے ہم نے یہاں بخوف طوالت و ازالہ شلوک صرف ایک مستند ترین روایت پر اکتفا کیا ہے۔ (مؤلف)

جہاں تک زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے مطابق دینے اور ان کے ایامِ عدت گزرنے کے بعد آنحضرت ﷺ کا انہیں اپنی زوجیت میں لانے کا تعلق ہے اس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَّوَجْنَا كَمَا﴾ میں فرمایا ہے۔ (اس آیت کا ترجمہ سطور بالا میں پیش کیا جا چکا ہے مترجم)

بخاری صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ زینب بنت جحش آنحضرت ﷺ کی زوجیت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں اس خاص فیضان پر ہمیشہ اظہارِ فخر کیا کرتیں اور فرمایا کرتی تھیں: رسول اللہ (ﷺ) کی دوسری ازواج کو آپ کے ساتھ ان کے رشتہ داروں نے بیاہا ہے جب کہ مجھے خود اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے اپنے زیرِ حکم آپ کی زوجیت کا شرف بخشا ہے۔

اس کے علاوہ ابن جریر نے بھی حمید جریر، مغیرہ اور شععی کے حوالے سے آنحضرت ﷺ کی زوجیت میں آنے پر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے مندرجہ بالا اظہارِ فخر و مباہات کا ذکر کیا ہے بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ آپ کی دوسری ازواج کے مقابلے میں آپ کے ساتھ اپنے جدی رشتے کا بھی بڑے فخر کے ساتھ ذکر کیا کرتی تھیں اور یہ بھی کہا کرتی تھیں کہ آیت حجاب کا نزول صرف ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اظہارِ فضل و کرم کا نتیجہ تھا۔ جس میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے آنحضرت ﷺ کی دوسری ازواج بھی شامل ہو گئیں۔

نزول آیت حجاب کا ذکر ہم ان شاء اللہ اگلے صفحات میں تفصیل سے کریں گے۔ (مؤلف)



نزول آیتِ حجاب

آنحضرت ﷺ سے ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے عقد مبارک کی رات کے بعد اگلی صبح طلوع ہوتے ہی آیتِ حجاب نازل ہوئی جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظر میں عموماً بلا استثناء اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عظمت شرم و حجاب کی دلیل مانا گیا ہے۔

مذکورہ بالا آیت جس کی شان نزول تمام ثقہ ترین راویوں نے جس میں بخاری، مسلم، نسائی، معمر، ابی قلابہ، انس، عبدالوارث، عبدالعزیز بن صہیب اور بہت سے دیگر مفسرین، محدثین و علماء و فقہاء شامل ہیں یہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ طَعَامًا غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَّا هَا﴾

اس آیت شریفہ کی شان نزول جسے مذکورہ بالا جملہ راویوں نے بہ اختلاف الفاظ بیان کیا اور اسے بہ اتفاق آراء صحیح تسلیم کیا ہے درج ذیل ہے:

ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے عقد کے اگلے روز آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مقیم مدینہ کو دعوت ولیمہ میں مدعو فرمایا۔ جن لوگوں نے آپ کی اس دعوت میں شرکت کی ان کی تعداد کئی سو تھی۔ دعوت کا مقام نبی کریم ﷺ کا وہی مکان تھا جو آپ نے عروسِ نوح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے لیے مخصوص فرمایا تھا۔ چونکہ اس زمانے تک آیتِ حجاب نازل نہیں ہوئی اس لیے مدینے کی دوسری عورتوں کی طرح مسلم خواتین بھی پردہ نہیں کرتی تھیں اور مسلمانوں کے گھروں میں ان کے اعزہ و اقارب کے علاوہ دوسرے مسلمان مرد بھی بے روک ٹوک آتے جاتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے مذکورہ دعوت ولیمہ میں بھی سب لوگ بلا امتیاز دو دو چار چار کی ٹولیوں میں آپ کے اس مکان میں آتے اور کھانے سے جو گوشت روٹی پر مشتمل تھا فارغ ہو کر باہر چلے جاتے تھے۔ تاہم کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی آمد تک وہیں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگتے اور آنحضرت ﷺ کی ازواج جن میں جیسا کہ مذکورہ بالا تمام راویوں نے بالاتفاق بیان کیا ہے سب سے زیادہ شرمیلی تھیں ہر جماعت کے آنے پر منہ پر نقاب ڈال لیتیں اور ان کے رخصت ہونے تک اسی طرح چہرے پر نقاب ڈالے بیٹھی رہتیں۔ چنانچہ صاف ظاہر ہے کہ جب مدعو حضرات میں سے کچھ لوگ کھانے سے فراغت کے بعد بھی دسترخوان کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے لگتے تو ان خواتین کو خصوصاً حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جو ہر عروسِ نوح کی طرح دوسری خواتین سے زیادہ ہر دفعہ سٹ کر بیٹھ جاتیں تکلیف ہوتی تھی۔

اس کا احساس چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہوا لیکن اسے سب سے زیادہ خود آنحضرت ﷺ نے محسوس فرمایا۔ لہذا اسی موقع پر جیسا کہ مشہور ہے مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور رفتہ رفتہ اس کی خبر اسی روز جملہ مسلم حضرات کو ہو گئی اور وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے متعلق حکم پر مبنی اس آیت پر عمل کے پابند ہو گئے۔

مسلمان عورتوں کے لیے پردے کے حکم پر مبنی اور اس کے آداب پر مشتمل دوسری مکمل آیت بعد میں نازل ہوئی۔ تاہم اس کا مبداء یہی مختصر مندرجہ بالا آیت تھی اور اس کے نزول پر ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اگر اظہارِ فخر کرتی تھیں تو وہ بھی کچھ غلط نہ تھا۔ (مؤلف)

ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا شمار اول المہاجرات میں ہوتا ہے۔ وہ انتہائی نیک دیندار با وضع و با اخلاق اور فیاض خاتون تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بقول جب وہ دسترخوان پر بیٹھتیں تو کوتاہ دستی کا ثبوت دیتیں لیکن خیرات و صدقات کے معاملے میں ید طولی رکھتی تھیں۔ ان کی وفات کا آنحضرت ﷺ کو جو انہیں بہت عزیز رکھتے تھے بہت رنج ہوا۔ ان کی وفات ہجرت کے بیسویں سال ہوئی۔



سال ششم ہجری کے واقعات

بیہقی کہتے ہیں: ”کہا جاتا ہے کہ نجد کی مہم سے قبل اسی سال یعنی سال ششم ہجری کے ماہ محرم میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی مہم واقع ہوئی تھی جس میں ان کا شامہ بن اثال میاسی رضی اللہ عنہ سے ٹکراؤ ہوا تھا۔“ البتہ ہمارے نزدیک بیہقی کی یہ روایت محل نظر ہے کیونکہ اس سے قبل ابن اسحاق سعید المقبری خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جنہوں نے اس مہم میں شرکت کی تھی بتا چکے ہیں کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر کے بعد ہجرت کی تھی اس لیے یہ مہم بھی لازماً غزوہ خیبر کے بعد ہی وقوع پذیر ہوئی ہوگی۔ واللہ اعلم بہر کیف یہ بات صحیح ہے کہ غزوہ بنی لحيان کا واقعہ اسی سال کے اوائل میں ہوا تھا۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق فتح بنی قریظہ جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ سال پنجم ہجری کے ماہ ذی الحجہ میں اس وقت ہوئی تھی جب مشرکین حج کعبہ کے لیے مکے میں جمع ہوا کرتے تھے اور ابن اسحاق ہی کے بقول اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ماہ ذی الحجہ کے علاوہ محرم، صفر، ربيع الاول اور ربيع الثاني کے مہینے مدینے ہی میں قیام فرمایا تھا اور پھر فتح بنی قریظہ کے بعد چھ مہینے کے اوائل یعنی ابتدائے جمادی الاول میں بنی لحيان کا قصد فرمایا تھا تا کہ مرجع حبیب اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی و فتنہ پردازی کا قضیہ ہمیشہ کے لیے نمٹایا جاسکے۔

اس دفعہ بھی آنحضرت ﷺ نے بنی قریظہ کی مہم پر روانگی کی طرح جنگی طریقوں کے مطابق بنی لحيان کی طرف جانے والے سیدھے راستے کی بجائے شام کا راستہ اختیار فرمایا تا کہ ادھر سے مڑ کر آپ بنی لحيان کی بے خبری میں اچانک وہاں پہنچ جائیں۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ بنی لحيان کی طرف روانگی کے وقت آنحضرت ﷺ نے مدینے کی نگرانی اور انتظامات کے لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو مقرر فرمایا تھا اور جب آپ اپنی منزل پر پہنچے تو مشرکین بنی لحيان کی ہستی کے سامنے پہاڑوں کی چوٹی پر اپنا حفاظتی مورچہ قائم کیا اور جب بنی لحيان سے جنگ کا وقت آیا تو مجاہدین اسلام نے آپ کے حکم سے آپ کی قیادت میں نماز کے وقت ”صلاة الخوف“ ادا کی۔

بیہقی نے ابن اسحاق کی طرح اس غزوے کا ذکر سال چہارم ہجری کے واقعات میں غزوہ خندق کے بعد کیا ہے اور اسی میں ”صلاة الخوف“ کا ذکر بھی کیا ہے اور ہم بھی انہی کے حوالے سے اس کا ذکر اسی سال کے واقعات میں کر چکے ہیں اور وہیں صلاة الخوف کا ذکر بھی آچکا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز آنحضرت ﷺ نے عسکان میں ادا کی تھی۔ تاہم ہم نے سال ششم ہجری کے واقعات کے ضمن میں اس کا ذکر یہاں دوبارہ امام شافعی کے اس ارشاد کے تحت مناسب سمجھا کہ اصحاب مغازی عقب کے سب ابن اسحاق کے وہ اخلاف تھے جو انہی کی طرح بذات خود تمام غزوات میں شریک تھے اور انہوں نے ان کی ترتیب اسی لحاظ سے رکھی ہے۔ بعض مؤرخین نے غزوہ بنی لحيان کے موقع پر کہے ہوئے کعب ابن مالک کے اشعار بھی پیش کیے ہیں۔ (مؤلف)

غزوہ ذی قرد

جب نبی کریم ﷺ غزوہ بنی لحيان سے فراغت کے بعد مدینے واپس تشریف لائے تو ابھی آپ نے وہاں چند راتیں ہی گزاری تھیں کہ آپ کو اطلاع ملی کہ غزوہ بنی لحيان کے موقع پر عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر الفزاری جو بنی غطفان کے ایک گروہ کو لے کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا اب وہاں سے اتر کر غابہ میں آ گیا ہے جہاں اس نے بنی غفار کے ایک شخص کو قتل کر کے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے عبد اللہ بن کعب بن مالک کے حوالے سے غزوہ بنی قرد کی تفصیلات بتائیں وہ عاصم بن عمر بن قتادہ اور عبد اللہ بن ابوبکر تھے۔ ابن اسحاق ان لوگوں میں اول الذکر کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ عیینہ بن حصن اور اس کے ساتھیوں کو جو غابہ وغیرہ میں قتل و غارت خصوصاً مذکورہ بالا غفاری شخص کے قتل اور اس کی بیوی کے اغوا کے مجرم تھے پہلے سلمہ بن عمرو بن اکوع رضی اللہ عنہ نے راستے میں دیکھا تو انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے کو جن کے پاس گھوڑا بھی تھا ساتھ لے کر دیوانہ وار غابہ کا رخ کیا، وہ پہلے سلح کے قریب ٹھہرے اور پھر صرخ میں رات گزار کر صبح ہوتے ہی دوبارہ ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور جب وہ نظر آئے تو ان پر تیروں کی بارش کر دی لیکن وہ دو افراد اتنے بڑے گروہ کا مقابلہ کب تک کرتے اس لیے صرخ میں ان دونوں کی باغیوں کی تلاش میں وہاں سے رواںگی کی خبر سنتے ہی صباح ابن اکوع مدد کے لیے مدینے کی طرف تیزی سے چل دیئے اور جب وہاں پہنچے تو ان کی زبان پر ”غضب ہو گیا، غضب ہو گیا“ اور فریاد ہے فریاد ہے، ہی تھا۔

ابن اسحاق مذکورہ بالا حضرات کی زبانی بتاتے ہیں کہ صباح بن اکوع کا یہ دو ایلاسن کر پہلے دو سوار مقداد بن اسود اور عباد بن مبشر رضی اللہ عنہما دریافت حال کے لیے ان کی طرف بڑھے جس کے فوراً بعد سعد بن زید، اسید بن ظہیر، عکاشہ بن حصن، بنی اسد بن خزیمہ کے بھائی محرز، بنی سلمہ کے بھائی ابوقادہ الحارث بن ربیع بن زریق کے بھائی ابو عیاش عبید بن زید بن صامت رضی اللہ عنہم بھی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جمع ہو گئے۔ پھر یہ خبر جب ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے گوش گزار کی تو آپ نے انہی لوگوں کی سرکردگی کے لیے سعد بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما کر اسی صبح کے وقت اس طرف روانہ فرمایا جہاں کا پتہ صباح بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا۔

یہاں ایک بات جو بطور خاص قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا لوگوں کو اس مہم پر روانہ کرتے وقت آنحضرت ﷺ نے ان کی کیفیت کے لحاظ سے ابو عیاش سے مزاحاً فرمایا:

”ابو عیاش اگر تم اپنا یہ گھوڑا کسی اور کو دے دو تو وہ اس پر تم سے بہتر سواری کر سکے گا۔“

اس کے جواب میں ابو عیاش رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”حضور! میں گھڑ سواری میں مشاق ہوں، دوسرے میرے سوا اس گھوڑے پر جو بھی سوار ہوگا یہ اسے دو چار قدم چلنے سے

پہلے ہی گرا دے گا کیونکہ یہ گھوڑا انتہائی سرکش اور منڈور ہے۔“

ابو عیاش رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر آنحضرت ﷺ نے قسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:
”اگر ایسا ہے تو پھر یہ بہتر ہے کہ تم ہی اس پر سواری کرو۔“

ابو عیاش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس گفتگو کے بعد وہ آنحضرت ﷺ سے اجازت لے کر اپنے اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس نے مشکل سے پچاس گز چلنے کے بعد انہیں گرا دیا۔ اس بات سے پہلے تو وہ سخت حیران ہوئے لیکن جب یہی واقعہ وہیں دو چار بار پیش آیا تو انہوں نے وہ گھوڑا مجبوراً کسی اور کو دے دیا۔
کہا جاتا ہے کہ ابو عیاش رضی اللہ عنہ نے مدینے ہی میں وہ گھوڑا اپنے کسی ساتھی کے گھوڑے سے بدل لیا تھا یا اسے فروخت کر کے دوسرا گھوڑا لے لیا تھا۔

ابن اسحاق مذکورہ بالا اصحاب ہی کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا گروہ کی روانگی کے بعد خود آنحضرت ﷺ حسب ضرورت صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر مختلف منازل سے گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں عیینہ بن حصن نے قتل و غارت کا ہنگامہ برپا کر رکھا تھا تو وہ اس گروہ سے مقابلے کے بعد جسے آپ نے اپنی ادھر روانگی سے قبل روانہ فرما دیا تھا۔ یہ خبر سن کر کہ آپ بہ نفس نفیس اپنے اس مقدمۃ الحیش کی مدد کے لیے مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں تو وہ میدانی علاقے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں پر جا چڑھا اور جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پہلے گروہ کے مجاہدین کی طرح آپ کا اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی تیروں سے استقبال کیا لیکن بعد میں یہ دیکھ کر کہ نیچے وادی میں کسی مسلمان کا تیر جس درخت کے تنے پر لگتا ہے وہ درخت تیر لگتے ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور یہ مسلمان تیر اندازوں کی زد سے بچنے کے لیے وہ اور اس کے ساتھی پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی نسبت سے بڑی بڑی چٹانیں نیچے کی طرف سرکنے لگتی ہیں اور جس پتھر کی وہ آڑ لیتے ہیں وہ لڑھک کر نیچے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت آخر کار پہاڑوں سے اتر کر وادی میں آ گیا۔ اور آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔

جس شام کا یہ واقعہ ہے وہاں ایک پہاڑی چشمہ تھا جسے بنی قطفان اور دوسرے لوگ قرد کہتے تھے اسی وجہ سے اسی غزوہ کا نام غزوہ بنی قرد پڑ گیا اور تاریخ میں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ اس موقع پر جو اشعار کہے گئے تھے خصوصاً حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار آج تک بنی غطفان کے اکثر لوگوں کے ورد زبان چلے آتے ہیں۔



غزوہ بنی مصطلق

غزوہ بنی مصطلق وہ غزوہ ہے جس میں بنی خزاعہ کی ایک شاخ بنی مصطلق سے مجاہدین اسلام کو مقابلہ کرنا پڑا تھا اور اس کی قیادت خود آنحضرت ﷺ نے بہ نفس نفیس فرمائی تھی۔

اس غزوے کی وقوع پذیری کے بارے میں راویوں کے بیانات میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً بخاری اسے غزوہ المرسیع سے مربوط بتاتے ہیں بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ غزوہ بنی مصطلق دراصل غزوہ مرسیع ہی کا دوسرا نام ہے جب کہ محمد بن اسحاق اسے سال ششم ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں اور موسیٰ بن عقبہ اسے سال چہارم ہجری کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔

نعمان بن راشد زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انک کا واقعہ غزوہ مرسیع ہی کے زمانے کا ہے جسے بخاری نے موسیٰ بن عقبہ کے غزوات میں شامل کیا ہے جو سب کے سب سال چہارم ہجری کے واقعات ہیں لیکن جس راوی نے موسیٰ بن عقبہ اور عروہ کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے اس کا بیان ہے کہ یہ غزوہ یعنی غزوہ بنی مصطلق ماہ شعبان سال پنجم ہجری کا واقعہ ہے۔ واقدی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اوائل شعبان سال پنجم ہجری کا قصہ ہے جب آنحضرت ﷺ سات سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیت میں اس غزوے کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے۔

محمد بن اسحاق بن یسار کہتے ہیں کہ غزوہ ذی قرد کے بعد رسول اللہ ﷺ مدینے میں جمادی الآخر اور رجب کے مہینے گزار کر ماہ شعبان سال ششم ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے ارادے سے خزاعہ کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنی جگہ چھوڑا تھا لیکن اس بارے میں نمیلہ بن عبد اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے عاصم بن عمر بن قتادہ، عبد اللہ بن ابوبکر اور محمد بن یحییٰ بن حبان میں سے جس نے بھی غزوہ بنی مصطلق کا ذکر کیا اس نے یہی بتایا کہ جب آنحضرت ﷺ کو یہ خبر ملی کہ بنی مصطلق آپ کے خلاف جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں اور ان کی سربراہی حارث بنی ضرار کر رہا ہے (جس کی بیٹی جویریہ بنت حارث غزوہ بنی مصطلق کے بعد آپ کی زوجیت میں آ گئی تھیں) تو آپ اس طرف روانہ ہوئے اور آپ سے ان کا مقابلہ ساحل بحر کے نواح میں قدید کے اس مقام پر ہوا جسے مرسیع کہا جاتا ہے لیکن آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو صرف ان لوگوں سے جنگ کا حکم دیا جو ان کے خلاف تلوار اٹھائیں اور جب وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح نصیب ہوئی تو آپ نے ان کے باقی ماندہ لڑاکا لوگوں کو گرفتار کر کے اور مال غنیمت کو مدینے بھیج کر وہاں اپنے ایک صحابی کو بطور نگران مقرر فرما دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر بھی آپ نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہی کو مدینے کا انتظام سپرد فرمایا تھا۔ اور اس کی نگرانی پر مقرر فرمایا تھا۔

واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سال پنجم ہجری میں ماہ شعبان کی دو راتیں گزرنے کے بعد بنی مصطلق کی طرف اپنے ساتھ سات سو صحابہ رضی اللہ عنہم پر مشتمل مجاہدین لے کر روانہ ہوئے تھے نیز یہ کہ بنی مصطلق بنی مدج کے حلیف تھے۔

واقدی مزید بیان کرتے ہیں کہ بنی مصطلق کے لوگ جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کے حکم سے پہلے ان سے اسلام قبول کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا گیا لیکن اس کے جواب میں انہوں نے مسلمانوں پر تیر چلانے شروع کر دیئے لہذا آنحضرت ﷺ کی اجازت سے عرب کے دستور کے مطابق پہلے دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کا مقابلہ ہوا جس میں بنی مصطلق کے دس آدمی قتل ہوئے جس کے بعد ان کے باقی ماندہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جب کہ مسلمان مجاہدین کا صرف ایک آدمی کام آیا تھا۔

صحیحین (صحیح بخاری و صحیح مسلم) میں عبد اللہ بن عون کے حوالے سے جو روایت درج ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے حکم سے پہلے بنی مصطلق کے قائد نافع کو ایک خط بھیجا گیا تھا جس میں صلح کی مذکورہ بالا شرائط تحریر کی گئی تھیں لیکن اس کے انکار اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا اس کے حکم سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑ کے بعد آپ نے مجاہدین اسلام کو ان کے مقابلے کی اجازت دی تھی اور انہی کو قتل کیا گیا تھا جنہوں نے مقابلے پر اصرار اور پھر مسلمانوں سے جنگ کی تھی۔ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں دوسری عورتوں کے ساتھ جویریہ بنت جارث بھی تھیں۔ یہ بیان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے جو اس روز مجاہدین اسلام میں شامل تھے جنہوں نے اس غزوے کا ذکر بہ تمام و کمال کیا ہے۔ لہذا ابن اسحاق کا یہ بیان کہ اس جنگ میں ایک انصاری نے ایک مسلمان ہی کو جس کا نام ہشام بن صبابہ بتایا گیا ہے۔ دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا تھا قرین قیاس نہیں ہے۔ تاہم ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا ہشام بن صبابہ کے بھائی مقیس بن صبابہ نے مکے سے مدینے آ کر اور خود کو مسلمان بنا کر رسول اللہ ﷺ سے اپنے بھائی کی دیت کا مطالبہ کیا تھا اور آپ نے اس کی دیت ادا بھی فرمادی تھی لیکن اس کے باوجود وہ مدینے میں ایک تنہا غریب کی حیثیت سے کچھ دن ٹھہرا رہا اور پھر موقع پا کر اس مسلمان انصاری کو جس نے اس کے بھائی ہشام کو قتل کیا تھا قتل کر کے بحالت کفر یا ارتداد کے واپس چلا گیا اور وہاں جا کر اپنے اس نام نہاد کارنامے پر کچھ فخریہ اشعار بھی کہے:

”یہی وہ مقیس بن صبابہ تھا جس کے بارے میں تین دوسرے مشرکین مکہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ نے قتل کے بعد استار کعبہ پر لگانے کا حکم دیا تھا“۔ (مؤلف)

مقیس بن صبابہ کی موت پر آنحضرت ﷺ نے منافقین کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور جب آپ فتح مکہ کے بعد مدینے واپس تشریف لائے تھے تو اس وقت تک قریب قریب تمام منافق جنہم واصل ہو چکے تھے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب بنی مصطلق پر فتح یابی کے بعد نبی کریم ﷺ وہاں سے مدینے میں کامیاب و کامران تشریف لائے تو مفتوح قبیلے کی وہ خواتین آپ کے سامنے حاضر کی گئیں جو مال غنیمت کے ساتھ گرفتار کر کے مدینے لائی گئی تھیں تو جویریہ بنت حارث نے آپ سے عرض کیا:

”میں بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی ہوں۔ پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی کے لیے کتابت کا کام کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد

اس نے اسے کام کے لیے مجھے کسی دوسرے کے سپرد کر دیا تھا لیکن (ہلواہ ملاحظہ کی بیوی کے بقول بھی) ان میں سے کسی کے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ تاہم مجھے خوف تھا کہ اس کے بعد ثابت بن قیس ابن شماس کے حوالے کیا جائے گا جو مجھ سے شادی کا خواہاں تھا۔ بہر حال مجھے خوشی ہے کہ اب میں آپ کے زیر سایہ آگئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی کنیزی میں لے کر مجھ سے کتابت کا کام لے لیا کریں۔“

جویریہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے یہ سن کر آپ نے فرمایا:

”اگر تمہارے لیے اس سے بہتر تجویز پیش کی جائے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟“

جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ”حضور (ﷺ) وہ کیا؟“

آپ نے ارشاد فرمایا:

”وہ یہ کہ تم اسلام قبول کر کے میری زوجیت میں آ جاؤ۔“

آپ کے اس ارشاد گرامی پر جویریہ رضی اللہ عنہا نے حد سے زیادہ مسرت کا اظہار کیا اور برضا و رغبت مسلمان ہو گئی جس کے بعد آپ نے اپنے قول کے مطابق اپنی زوجیت میں لے لیا اور وہ خوش قسمتی سے امہات المؤمنینؓ میں شامل ہو گئیں۔

واقعی خود جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی زوجیت میں آنے سے قبل بنی مصطلق کی بستی میں اپنے مکان کے اس کمرے میں جو ان کی خواب گاہ تھا ایک شب خواب میں یرب (مدینہ) کی طرف سے چاند کو اترتے دیکھا تھا لیکن انہوں نے آپ کی زوجیت میں آنے سے قبل بنی مصطلق میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا تا آنکہ ان کے اس خواب کی تعبیر ان کے سامنے آ گئی۔

واقعی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے مہر کے بطور بنی مصطلق کے چالیس گرفتار آدمیوں کے فدیہ کی رقم انہیں دینا چاہی تھی لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا تو آپ نے ویسے ہی بنی مصطلق کے اتنے آدمی بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیئے تھے اور اس کے برابر رقم اپنے پاس سے حصہ رسد مجاہدین میں تقسیم فرمادی تھی۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بنی مصطلق کے سو آدمی خوش ہو کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے تھے۔



قصہ افک

اب تک جتنی روایات محمد بن اسحاق نے متعدد مستند حوالوں سے بیان کی ہیں اسی طرح ان کے بعد انہوں نے افک کی روایت بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے زہری نے علقمہ بن وقاص، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر اور عبد اللہ بن عبید اللہ بن عتبہ کے حوالے سے افک کی روایت بیان کی اور پھر بتایا کہ ان حضرات کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگوں کی زبانی اس سلسلے میں اکثر باتیں سنیں۔

اس کے علاوہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ان سے یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد حضرت زبیرؓ عبد اللہ بن ابوبکر اور عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کے حوالے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی یہ روایت بیان کی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے دوران سفر اکثر اوقات کچھ خواتین بھی آپ کے قافلے کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ بنی مصطلق کی جنگ کے موقع پر بھی ایسا ہی تھا لیکن اس وقت خواتین کے ہراونٹ کی حفاظت کے لیے ایک ایک تیر انداز متعین تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ اس دفعہ وہ بھی آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تھیں لیکن جنگ کے وقت خواتین کی سواروں کی حفاظت کے لیے جو تیر انداز متعین تھے ان میں سے بھی چند ایک کے علاوہ جنگ میں شریک ہو گئے تھے اور جب غزوہ بنی مصطلق سے نئیابی کے بعد واپسی ہوئی تو ان کی بھی چنداں ضرورت نہ رہی تھی۔ بہر حال بنی مصطلق سے مدینے کی طرف لوٹتے ہوئے جب مدینہ صرف ایک منزل رہ گیا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ذی قریع کی بستی کے قریب پڑاؤ کا حکم دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہاں جب اونٹ بٹھائے گئے تو انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رنج حاجت کی ضرورت پیش آئی اور وہ اپنے اونٹ کے ہودج سے اتر کر اس سے فراغت کے لیے قریب کے ایک گوشے میں چلی گئیں لیکن واپسی کے وقت معلوم ہوا کہ ان کے کرتے کے اوپری نکلے کی ڈوری میں جو قیمتی مہرہ ظفار بندھا ہوا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے کرتہ جھاڑ کر دیکھا اور پھر ادھر ادھر زمین پر دیکھا لیکن وہ نہ ملا تو وہ اپنے اونٹ کے پاس واپس آئیں اور وہاں کی جستجو کے بعد نہ ملا تو وہ پھر لوٹ کر اسی جگہ گئیں تو وہ اتفاق سے انہیں وہیں مل گیا لیکن اب صبح صادق ہو چکی تھی اور کوچ کا اعلان کرنے والے نے اس کا اعلان کر دیا تو لوگ اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو گئے اور قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا اور جب وہ وہاں پہنچیں تو قافلہ خاصی دور جا چکا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ یہ دیکھ کر رونے لگیں لیکن حسن اتفاق سے اسی وقت صفوان بن المعطل سلمی رضی اللہ عنہ جو خود بھی کسی ایسی ہی ضرورت سے قافلے کے پیچھے رہ گئے تھے ادھر سے گزرے اور یہ دیکھ کر کہ وہ پریشان اور قافلے سے پھڑک رہے تھے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ان سے مؤدبانہ سوار ہونے کی درخواست کی۔ چنانچہ وہ مجبوراً ان کے

اونٹ پر سوار ہو گئیں اور صفوان بن امیہ بڑے محتاط انداز میں ان کے آگے بیٹھ کر اونٹ کو تیز رفتاری سے بھگاتے ہوئے قافلے میں جا پہنچے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے ساربان نے یقیناً اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ قافلے کو اس منزل سے مدینے کی طرف روانگی سے قبل وہ ہودج میں سوار ہو چکی ہیں ان کا اونٹ بھی قافلے کے ساتھ آگے بڑھا دیا تھا اور اتنی سی بات تھی جسے کچھ دروغ گو اور افترا پرداز لوگوں نے جن کا سرغنہ مشہور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول تھا افسانہ بنا دیا جس میں مدینے کی کچھ خواتین بھی فطرتاً شریک تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آنحضرت ﷺ بھی کئی روز ان سے کھینچے کھینچے رہے حالانکہ آپ کو ان کی پاک دامنی کا یقین کامل تھا اور اس کے علاوہ آپ کے کچھ بلند مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے اہل بیت تو درکنار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے بارے میں بھی انہوں نے کبھی کوئی بات بجز خیر و نیکی دیکھی نہ سنی تھی تاہم حضرت کے مزید اطمینان اور سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. أَلِي مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

ہم نے اس قصے کے بارے میں اب تک جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب آثار سلف و خلف پر حتی الامکان پوری تحقیق کے بعد

بیان کیا ہے۔ و ما توفیقنا الا باللہ (مؤلف)

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بہت سے مدحیہ اشعار بھی کہے ہیں۔



غزوہ حدیبیہ

غزوہ حدیبیہ ماہ ذیقعدہ سال ششم ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا جس میں راویوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس واقعہ کے سب سے مستدر راوی زہری، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام نافع، موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق بن یسار وغیرہ ہیں۔ ابن لہیعہ نے بھی ابی اسود اور عروہ کے حوالے سے اس امر کی تصدیق کی ہے۔

تاہم یعقوب بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ ان سے اسماعیل ابن غلیل اور علی بن مسہر نے بیان کیا کہ انہیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ مدینے سے حدیبیہ کی طرف رمضان کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے اور حدیبیہ کی جنگ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی لیکن عروہ کی بیان کردہ یہ روایت بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کیونکہ مذکورہ بالا دوسرے راویوں کے علاوہ بخاری، مسلم اور چاروں دوسرے محدثین کرام جو صحاح ستہ میں شامل ہیں بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ حدیبیہ کی طرف اس ارادے سے تشریف لے گئے تھے تاکہ آپ ماہ ذیقعدہ میں مکہ پہنچ کر عمرہ اور ساتھ ہی حج بیت اللہ فرمائیں جس کے لیے عرب کے تمام لوگ اسی مہینے میں وہاں آتے تھے نیز یہ کہ آپ نے اسی مہینے میں جرانہ سے گزرتے ہوئے غزوہ حدیبیہ کا مال غنیمت حنین کے مقام پر مسلمانوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ ہم نے اس روایت میں تمام تر بخاری کے الفاظ پر انحصار کیا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ رمضان و شوال میں مدینے میں مقیم رہ کر ماہ ذیقعدہ میں وہاں سے کسی جنگ کی بجائے صرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے مدینے کے انتظامات و نگرانی کے لیے ثمیمہ بن عبد اللہ لیشی کو مقرر فرمایا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس مہینے میں یعنی ماہ ذیقعدہ میں تمام اہل عرب بلکہ عرب کے جملہ باد یہ نشین بھی حج کعبہ کے لیے نکلے کا رخ کرتے تھے اس لیے آپ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ خصوصاً قریش مکہ کہیں آپ کے قصد عمرہ کو بھی جنگ کا بہانہ سمجھ کر اس میں مزاحم نہ ہوں بلکہ لڑائی پر آمادہ ہو جائیں جب کہ اس دفعہ آپ عمرہ کے علاوہ حج بیت اللہ کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ ویسے اس سے قبل آپ چار بار مدینے سے عمرہ کے لیے نکلے کی طرف روانہ ہوئے تھے لیکن ہر بار قریش مکہ نے اس میں مزاحمت کی تھی اور لڑائی پر آمادہ ہو گئے تھے اور آپ عمرہ کے علاوہ عظمت کعبہ کے خیال سے راستے ہی سے واپس ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دفعہ آپ نے خود احرام باندھنے کے علاوہ اپنے مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی جن کی تعداد بعض روایات میں سات سو اور بعض میں ایک ہزار کے لگ بھگ بتائی گئی ہے احرام باندھ کر چلنے کا حکم دیا تھا تاکہ حج کعبہ کے لیے جانے والے لوگوں کے علاوہ خود قریش کو بھی یقین آ جائے کہ آپ صرف عمرہ و حج کے ارادے سے مدینے سے روانہ ہوئے ہیں۔ اسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس دفعہ آپ کے ساتھ سواری کے اونٹوں کی تعداد بھی صرف ستر تھی۔

ابن اسحاق عبد اللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس سفر کے راستے میں آنحضرت ﷺ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ مکے کی طرف جانے والے عام راستے سے ہٹ کر جس پر عموماً لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو کوئی دوسرا راستہ ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو وہ راستہ کون بتا سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال پر ایک شخص نے جو مسلمان ہو گیا تھا بتایا کہ ایسا ایک راستہ ہے اور یہ بھی عرض کیا کہ وہی اس راستے سے آپ کو نواح مکہ تک لے جائے گا۔ چنانچہ وہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی راستے سے جو پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں سے گزرتا تھا ساتھ لے کر چلتا رہا حتیٰ کہ آپ اور آپ کے ہمراہی ایک وادی کے کنارے سرزمین سہلہ تک جا پہنچے اور آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھی مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ خدا سے توبہ کی قبولیت کی دعا کرتے اور استغفار پڑھتے وہاں سے آگے بڑھیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو یہی حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس حکم الہی کی تعمیل نہیں کی تھی۔ بہر کیف جیسا کہ ابن شہاب نے بیان کیا ہے آپ اور آپ کے ہمراہی توبہ و استغفار کے یہی کلمات مسلسل زبان سے ادا کرتے ہوئے سہیلہ سے آگے بڑھ کر کئی موڑ کاٹتے ہوئے مکے کے زیریں علاقے حدیبیہ تک جا پہنچے جہاں قریش مکہ کی طرف سے آگے بڑھنے میں مزاحمت کا خطرہ تھا۔ چنانچہ آپ نے سیدھے راستے سے ایک طرف ہٹ کر پڑاؤ کا حکم دیا تو آپ کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے یک زبان ہو کر عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) آپ کے حکم کی تعمیل میں تو ہم جان تک دینے کے لیے حاضر ہیں لیکن یہاں نزدیک و دور کہیں پانی کے آثار نظر نہیں آتے اس لیے شاید اس جگہ قیام مناسب نہ ہو۔“

اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”(کچھ دن بعد) ہمیں (یعنی اس علاقے تک آ کر) قریش مکہ اور دوسرے مشرکین مجھ سے معافی اور رحم کے طالب ہوں گے اور میں انہیں معاف کر دوں گا۔“

یہ فرما کر آپ نے اپنی سواری کے اونٹ کو بٹھایا اور نیچے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اسے اس جگہ کے بتیوں سے یعنی عین درمیان میں گاڑ دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے اس حکم کی تعمیل کی گئی اور جتنے لوگ اونٹوں پر سوار تھے وہ سب کے سب آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی سواریوں سے اتر کر وہیں پڑاؤ ڈالنے لگے اور جہاں آپ کا تیر گاڑا گیا تھا وہی جگہ آپ کے حکم سے آپ کی قیام گاہ قرار پائی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ جہاں آنحضرت ﷺ کا تیر گاڑا گیا تھا وہاں قیام کے لیے پہلے سواری سے اترنے والے ناجیہ بن جندب تھے لیکن بعض دوسرے اہل علم نے بیان کیا وہ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ تھے جیسا کہ انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے۔

زہری اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا جگہ پر جب آنحضرت ﷺ کے حکم سے پڑاؤ ڈالا گیا تو بنی خزاعہ کا ایک شخص بدیل بن ورقہ نامی اپنے قبیلے کے کچھ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کے وہاں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا اور اسے بھی آپ نے یہی بتایا کہ آپ وہاں قریش سے یا دوسرے قبائل

جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف عمرہ و حج کے لیے آئے تھے اور یہ وہی بات تھی جو اس سے قبل بشر بن سنیان کو بتائی گئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے پاس سے لوٹ کر قریش مکہ کے پاس گئے اور آپ کا مقصد انہیں بتا دیا لیکن وہ بولے کہ: ”ان کا مقصد کچھ بھی ہو ہم انہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ہم عرب ہیں اور عرب اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔“

زہری کہتے ہیں کہ بنی خزاعہ کی یہ خصوصیت اسلام لانے سے پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ وہ کوئی بات لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ چنانچہ مذکورہ بالا لوگوں نے قریش مکہ کو آنحضرت ﷺ کی وہاں تشریف آوری کا مقصد بتانے کے بعد مکہ سے واپسی پر ان کے جواب سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی مذکورہ بالا خصوصیت کے مطابق آپ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ مشرکین مکہ سے خبردار رہیں۔

زہری مزید بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد خود قریش مکہ نے آنحضرت ﷺ کے پاس دریافت حال کے لیے بنی عامر بن لویٰ کے بھائی کمز بن حفص بن اخیف کو بھیجا تو آپ نے اسے آتا دیکھتے ہی فرمایا: ”یہ شخص غدار ہے“۔ بہر حال جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے بھی وہی فرمایا جو آپ اس سے قبل بدیل اور اس کے ساتھیوں سے فرما چکے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بار پھر آپ کے پاس حلیس بن علقمہ یا ابن زیان کو جو مکہ کے حبشیوں کا سردار اور بنی حارث بن عبدمناف بن کنانہ کا ایک فرد تھا۔ اسی کی قیام کے کچھ لوگ ساتھ کر کے آپ کے پاس بھیجا تا کہ وہ آپ سے وہاں تک تشریف آوری کا مقصد مکمل طور سے معلوم کر کے آئے۔

زہری کہتے ہیں کہ آخر میں ان لوگوں کو آتا دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:

”یہ لوگ دیانتداری کے ساتھ (مکے میں) متاہلانہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور مجھے ان کے چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ

یہ (آئندہ) ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔“

زہری آخر میں کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے انہیں بٹھا کر ان کے آنے کی وجہ دریافت کی اور ان کے جواب پر آپ نے انہیں بھی وہی بتایا جو ان سے قبل قریش مکہ کی طرف سے آنے والے لوگوں کو بتا چکے تھے یعنی آپ کا مقصد قریش مکہ سے جنگ نہیں بلکہ صرف زیارت بیت اللہ اور عمرہ و حج کی ادائیگی ہے۔

حلیس بن علقمہ آنحضرت ﷺ کے جواب سے مطمئن ہو کر جب قریش مکہ کے پاس واپس گیا تو اس نے انہیں آپ کے جواب سے بہ تمام و کمال آگاہ کرنے کے بعد ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کا جواب بالکل صداقت پر مبنی ہے لیکن انہوں نے اسے بھی وہی جواب دیا جو اس سے قبل آپ کے پاس اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کو دے چکے تھے یعنی وہ کسی حالت اور کسی قیمت پر آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔

مشرکین مکہ کی یہ باتیں سن کر حلیس جو ایک بادیہ نشین کی حیثیت سے آزاد فضا میں پلا بڑھا اور صاف باطن و صاف گوشخص تھا

طیش میں آ گیا اور بولا:

”مجھے یقین ہے کہ محمد (ﷺ) ایک بچے اور صاف گوشخص ہیں لیکن تم انہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے زیارت بیت اللہ اور عمرہ و حج کی ادائیگی سے بھی روکنا چاہتے ہو اس لیے میری نظر میں تم لوگ صرف دعا بازا اور حیلہ جو ہو۔ یاد رکھو کہ آج سے میں اور میری قوم کا کوئی فرد تمہارا حلیف نہیں ہے تم اپنے فیصلے خود کر کے ان پر عمل کر سکتے ہو ہمارا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“

زہری کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا سب لوگوں کی زبانی آنحضرت ﷺ کا ایک ہی جواب یعنی آپ صرف زیارت بیت اللہ اور عمرہ و حج کے ارادے سے وہاں تک تشریف لائے ہیں خصوصاً حلیس بن علقمہ کی زبانی آپ کا یہی جواب اور اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زبان سے اپنے حق میں سخت دست سننے کے باوجود مشرکین قریش نے ایک بار پھر آپ کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا لیکن آخر الذکر نے مکے سے روانگی سے قبل ان سے کہا کہ:

”محمد (ﷺ) نے تمہیں صرف ایک ہی اور وہ بھی بہت نرمی سے جواب دیا ہے جب کہ تم لوگ انہیں صرف سب و شتم سے جواب دیتے ہو۔“

اس کے بعد وہ بولے:

”میں مانتا ہوں کہ تم میرے بزرگ ہو (عروہ سبیعہ بنت عبد شمس کے بیٹے تھے) لیکن تمہارا حد سے تجاوز کرنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔“

عروہ بن مسعود کی ان باتوں کے جواب میں وہ بولے کہ:

”تم ہماری اولاد ضرور ہو لیکن محمد (ﷺ) کے بارے میں ہم سے زیادہ نہیں جانتے۔“

یہی بات مشرکین قریش نے حلیس بن علقمہ سے ان کی بادیہ نشینی کے حوالے سے اسے سادہ لوح بتا کر کہی تھی اور عبد اللہ بن ابوبکر کے بقول اسے قریش کی ان باتوں پر غصہ آ گیا تھا۔

بہر کیف جب عروہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ سے کہا کہ:

”آپ (ﷺ) مدینے سے یہاں آئے ہیں ادھر قریش مکہ آپ (ﷺ) کے مقابلے کے لیے مسلح ہو کر ایسے تیار بیٹھے

ہیں جیسا میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسے آپ (ﷺ) کل خود ہی دیکھ لیں گے۔“

عروہ کی یہ باتیں سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو آنحضرت ﷺ کے پس پشت بیٹھے تھے بولے:

”ہم بھی اپنا حال کل ان پر ظاہر کر دیں گے۔“

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ سن کر عروہ بولے:

”یہ کون ہیں؟“

آنحضرت ﷺ نے جواب دیا:

”یہ ابوبکر بن قحافہ رضی اللہ عنہ ہیں۔“

اس پر عروہ بولے:

”میں ان کی شخصیت سے واقف ہوں تو انہیں بھلا کیا جواب دے سکتا ہوں۔“

جب عروہ آنحضرت ﷺ سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کا ہاتھ رہ رہ کر آپ کی ریش مبارک تک چلا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر مغیرہ

ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ کے پس پشت بطور محافظ مسلح کھڑے تھے ان سے کہا:

”اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم تک پہنچے تم اپنا ہاتھ رسول اللہ (ﷺ) کی ریش مبارک کے پاس سے ہٹالو۔“

عروہ بن مسعود نے جب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی اور ان کی تیوریاں چڑھی دیکھیں تو بولے:

”میاں تمہیں شاید کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔“

پھر آپ سے پوچھا: ”یہ شخص کون ہے؟“

آپ نے مسکرا کر فرمایا:

”یہ تمہارے بھائی کے بیٹے مغیرہ بن شعبہ ہیں، کل تک یہ بھی تمہاری ہی طرح تھا لیکن اب اسلام نے ان کی کاپیلاٹ دی

ہے۔“ (منہوی ترجمہ)

اس کے بعد آپ نے عروہ بن مسعود سے بھی اپنے حدیبیہ تک آنے کے مقصد کے بارے میں وہی فرمایا جو آپ اس سے

قبل قریش کے بھیجے ہوئے دوسرے آدمیوں سے فرما چکے تھے۔

جب عروہ بن مسعود آنحضرت ﷺ کے پاس سے اٹھے تو وہ اس وقت تک آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ادب

اور ان کی محبت کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے یعنی وہ نہ تو آپ کے آب وضو کا کوئی قطرہ ضائع ہونے دیتے نہ لعاب دہن زمین پر گرنے

دیتے تھے اور اگر آپ کا کوئی موئے مبارک اتفاقاً آپ کے سر یا ریش مبارک سے جھڑ کر گرتا تو وہ اسے فوراً محفوظ کر لیتے تھے۔

عروہ بن مسعود نے جب آنحضرت ﷺ کا جواب قریش مکہ کو سنایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اگرچہ

شہنشاہ روم ہرقل، ایران کے بادشاہ کسری اور حبشہ کے حکمران نجاشی کے دربار بھی دیکھے ہیں لیکن انہوں نے ان میں سے کسی جگہ ان

تینوں باجروں بادشاہوں کے ساتھ ان کے درباریوں کی طرف سے ادب کا وہ مظاہرہ نہیں دیکھا تھا جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ

آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے آپ کی سادہ ترین قیام گاہ میں ان کے مشاہدے میں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے قریش مکہ

سے کہا:

”ارے وہ تو محمد (ﷺ) کے وضو کے پانی کا کوئی قطرہ تو کیا ان کے تھوک تک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اور ان کے

گرے ہوئے ہر بال کو بھی تبرک سمجھ کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات تسلیم

کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ انہیں خدا کا رسول سمجھتے ہیں۔ بہر حال میں نے وہاں جو کچھ دیکھا ہے آپ کو بتا دیا

لہذا اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔“

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ انہیں بعض اہل علم نے بتایا کہ عروہ بن مسعود کی واپسی کے بعد آنحضرت ﷺ نے خراش بن امیہ

خزاعی کو طلب فرمایا اور انہیں سوازی کے لیے اپنا تاقیہ دے کر قریش کے کچھ معززین کے پاس بھیجا تاکہ وہ کہے جا کر انہیں آپ کے حدیبیہ تک آنے کے مذکورہ بالا پر امن مقصد سے آگاہ کریں لیکن وہ جو نہیں سکے پہنچے قریش کے شقی القتب لوگوں نے انہیں گھیر کر قتل کرنا چاہا لیکن وہاں کے اہل جش ان کے آڑے آئے اور لوگوں کو آپ کے ناتے سے ہٹاتے ہوئے اسے اور اس پر سوار خراش بن امیہ کو بحفاظت مکہ کے باہر دور تک چھوڑ گئے اور وہ بخیریت آپ کے پاس پہنچ گئے۔

ابن اسحاق عکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد قریش مکہ نے اپنے چالیس بچاں آدی مسلمانوں کے پڑاؤ کا چکر لگانے کے لیے بھیجے لیکن جب نبی کریم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا تو اس کے باوجود کہ وہ آپ کے پڑاؤ پر تیر اندازی اور سنگ باری کے مرتکب ہوئے تھے انہیں معاف فرما کر مکہ واپس بھیج دیا۔

اس کے اور جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا، آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ وہ مکہ کے جائیں اور وہاں ابوسفیان اور قریش کے دوسرے ممتاز و معزز لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ بیت اللہ کی عظمت کی بناء پر اس کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ انہیں قریش مکہ کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ ہے کیونکہ ان سے ان کی (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی) دشمنی مسلم ہے اس کے علاوہ ان کے قبیلے بنی عدی کا اس وقت کوئی شخص وہاں نہیں ہے جو کسی خطرے کے موقع پر ان کے کام آئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان گزارشات کے بعد آپ سے عرض کیا کہ اس کام کے لیے ان سے بہتر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رہیں گے کیونکہ ابوسفیان کے علاوہ بنی امیہ کے کئی دوسرے لوگ کوئی ایسی ویسی بات ہونے پر ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا۔ چنانچہ آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے سفیر کے طور پر مکہ روانہ فرما دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر ابوسفیان اور وہاں کے دوسرے شرفاء کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ صرف انہیں یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دے سکتے ہیں اور جب انہوں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ آپ کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حرم میں قید کر دیا جب کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کو کسی نے خبر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر آنحضرت ﷺ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب مجبوراً قریش مکہ کو اس کا جواب دیا جائے گا اور اسی کے لیے آپ نے مکہ کے بعد دیگرے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک درخت کے زیر سایہ تشریف فرما ہو کر بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے قریش مکہ سے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی بیعت کی تھی۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو اس بیعت میں شریک تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قریش سے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم سے جان دینے کی بیعت نہیں لینا چاہتے تھے لیکن خود صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے دست مبارک پر اسی کے لیے بہ اصرار بیعت کی تھی جس میں وہاں موجود تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بنی سلمہ کے بھائی جد بن قیس کے سوا شریک تھے۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جد بن تیس کی گردن ازادینا چاہتے تھے لیکن وہ پھرتی سے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو گیا تھا جب کہ باقی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا فرداً فرداً اسی پر آخری دم تک کے لیے بیعت کی تھی۔ تاہم اس کے بعد آنحضرت ﷺ کو معلوم ہو گیا تھا کہ قریش کے ہاتھوں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی۔

ابن ہشام کہتے ہیں اور وکیع نے بھی اسماعیل بن ابی خالد اور شعبی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مذکورہ بالا بیعت سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر ابوسنان اسدی نے کی تھی۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے بیان کیا اور اس کی تصدیق کچھ دوسرے لوگوں نے ابن ابی ملیکہ اور ابن عمران کے حوالے سے کرتے ہوئے بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیعت رضوان میں شریک کرنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے یہ بیعت کی تھی۔

ابن ہشام کی پیش کردہ اس روایت کی اسناد اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اس کا ثبوت صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں اس کے اندراج سے ملتا ہے۔ (مؤلف)

ابن اسحاق زہری کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد قریش مکہ نے بنی عامر بن لوی کے بھائی سہیل بن عمرو کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں صلح کی گفتگو کے لیے بھیجا لیکن صلح کی شرط یہ رکھی کہ آپ اس سال واپس مدینے چلے جائیں اور یہ بھی کہلوایا کہ اگر آپ بزور کے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو پھر قیامت تک یہاں آنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم بھی آپ کی طرح عرب ہیں۔

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے سہیل بن عمرو کو آتے دیکھا تو فرمایا:
”اس شخص کی آمد سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ مصالحت پر آمادہ ہیں۔“

بہر کیف آنحضرت ﷺ اور سہیل بن عمرو کے مابین خاصی طویل گفتگو کے بعد قریش مکہ کی پیش کردہ شرط آپ نے تسلیم فرمائی اور سہیل بن عمرو مشرکین مکہ کو اس کی اطلاع دینے کے لیے واپس چلے گئے اور تحریری صلح نامہ کی تیاری ہونے لگی تو حضرت عمرؓ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور ان سے پوچھا:

”یا ابا بکر! کیا رسول اللہ ﷺ نے کسی اعتراض کے بغیر اس صلح نامے کے لیے مشرکین مکہ کی پیش کردہ شرط واقعی تسلیم کر لی ہے؟“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا جواب اثبات میں دیا تو انہوں نے پوچھا:
”کیا اس کا علم یہاں موجود تمام مسلمانوں کو ہے اور انہوں نے اتفاق رائے سے تسلیم کر لیا ہے؟“

اس کے ساتھ ہی انہوں نے پوچھا:

”کیا اس کا علم باقی مسلمانوں کو بھی ہوگا؟“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان دونوں سوالوں کا جواب بھی اثبات میں دیا تو وہ بولے:

”اس صلح نامے کی ایک نقل یقیناً مشرکین مکہ کے پاس بھی رہے گی جسے وہ ہیبتہ دوسروں کو دکھا کر اپنے مقابلے میں ہماری کمزوری کا ثبوت مہیا کرتے رہیں گے اس لیے میرے نزدیک مشرکین مکہ کی پیش کردہ اس شرط کو اس صلح نامے میں شامل کرنا مصالحو دنیوی کو مصالحو دینی پر ترجیح دینا ہوگا جو مجھے پسند نہیں ہے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس گفتگو کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہی خیالات کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا:

”یہ امر الہی ہے جس کی تعمیل ہم سب پر لازم ہے اور اسی میں ہماری بھلائی پوشیدہ ہے۔“

آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حد درجہ نادم ہوئے اور آپ سے معافی کے طالب ہوئے۔ انہوں نے اس روز روزہ بھی رکھا اور اپنے ایمان کی سلامتی پر نماز شکرانہ بھی ادا کی۔

ابن اسحاق اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرما کر انہیں مذکورہ بالا صلح نامہ تحریر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ”لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم“ اس پر سہیل بن عمرو جو اس وقت وہاں موجود تھے بولے: ”ہم ان کلمات سے واقف نہیں ہیں اس لیے یہاں ”باسمک اللہم“ لکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”جو یہ کہتے ہیں وہی یعنی ”باسمک اللہم“ ہی لکھو۔“

اس کے بعد جب پہلے سے طے شدہ امور پر مشتمل یہ صلح نامہ لکھا جا چکا اور اس پر آنحضرت ﷺ اور قریش مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو کے دستخطوں کے بعد دونوں کی مہریں بھی ثبت ہو چکیں تو اچانک جندل بن سہیل نے کھڑے ہو کر بہ آواز بلند کہا:

”یہ صلح نامہ دراصل قریش مکہ کی تباہی اور ان میں باہم فتنے کی بنیاد ہے ہیں ابھی جا کر قریش مکہ کو یہ بات بتاتا ہوں۔“

اس کی یہ بات سن کر اس کے باپ سہیل بن عمرو نے اٹھ کر اس کے ایک چھتر رسید کیا اور تنبیہ کی کہ وہ اس معاملے میں خاموش رہے۔ اس نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ کاش اس کا بیٹا اس وقت وہاں نہ آتا۔ اس پر آپ نے اسے روک کر جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”جندل! تم سکون سے اس پر غور کرو، یہ صلح نامہ آج فریقین کی بھلائی کا باعث ہے لیکن ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ صرف تم لوگوں کی بھلائی کا سبب ٹھہرے گا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جندل رضی اللہ عنہ کو اپنے پہلو بہ پہلو لے کر ایک طرف گئے اور اسی طرح اسے بہت کچھ سمجھایا۔

آنحضرت ﷺ نے اس صلح نامہ کے ذریعہ انتہائی صبر و تحمل کا اظہار فرمایا جس کی خوش انجامی کا ثبوت بھی بہت جلد مل گیا حالانکہ اس وقت آپ کو زیارت بیت اللہ اور حرم میں نماز ادا کرنے کی بڑی تمنا تھی۔

بہر کیف اس صلح نامہ پر دونوں طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا جن میں ابو بکر، عمر، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن سہیل بن عمرو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، محمود بن مسلمہ، مکرز بن حفص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم جنہوں نے وہ صلح نامہ لکھا تھا شامل تھے۔

ویسے مسلمان اس صلح نامے پر نسبتاً زیادہ مطمئن اور خوش تھے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس کے نتائج عالم روایاء میں ملاحظہ فرمائے تھے اور آپ نے انہیں ان سے آگاہ فرمادیا تھا۔

اس صلح سے فراغت کے بعد آنحضرت ﷺ نے حج و عمرہ کے معمولات کے طور پر نزد و بدر میں ابو جہل کے مال غنیمت میں حاصل شدہ اونٹ کے سوا جو قریش کی بد مزگی کا باعث ہو سکتا اونٹوں کی قربانی کی اور سر کے بال بھی صاف کرائے اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن ابی نجیح نے مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے حدیبیہ میں حج و عمرہ کے معمول پر سر کے بال منڈوانے والوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی تو ان لوگوں نے جنہوں نے بال صرف ترشوائے تھے اپنے حق میں بھی آپ سے دعائے خیر کی استدعا کی لیکن آپ نے دوسری اور تیسری بار بھی سر کے بال منڈوانے والوں کے حق ہی میں دعا فرمائی۔ تاہم آپ نے سر کے بال ترشوانے کے حق میں بھی ان کی بار بار درخواست پر چوتھی بار دعائے خیر فرمائی۔

اس موضوع پر ہم احادیث صحیح و حسن کے روشنی میں آگے چل کر ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو کریں گے۔

بخاری کئی دوسرے حوالوں کے علاوہ البراء کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ آخر الذکر نے بتایا کہ وہ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے اور انہوں نے نیز جملہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کی فتح قرار دیتے ہوئے اسے فتح مکہ کی بنیاد ٹھہرایا تھا۔

ابن اسحاق کے بقول صلح حدیبیہ ارشاد بانی ﷺ ﴿فَجَعَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ کے مطابق اپنی جگہ مسلمانوں کی فتح ہونے کے علاوہ ان کے لیے ایک عظیم تر فتح یعنی فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی جو اس کے دو ہی سال کے اندر اندر انہیں حاصل ہوئی۔ بخاری حدیبیہ میں آنحضرت ﷺ کے پڑاؤ کا حوالہ دیتے ہوئے جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ”یہاں تو نزدیک و دور کہیں پانی کے آثار نہیں ہیں اس لیے یہاں پڑاؤ مناسب نہ ہوگا“ بیان کرتے ہیں کہ انہیں یوسف بن عیسیٰ ابن فضیل اور حمین نے سالم اور جابر کے حوالے سے بتایا کہ واقعی حدیبیہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا تھا جب کہ انہوں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ ایک مٹی کے لوٹے میں بھرے پانی سے وضو فرما رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے قریب آ کر عرض کیا کہ:

”یا رسول اللہ (ﷺ) یہاں وضو تو کیا پینے کے لیے بھی پانی کا کوئی قطرہ نہیں ہے۔“

ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نبی کریم ﷺ کا پانی سے بھرے لوٹے سے وضو فرمانا یقیناً ان کے لیے بڑا حیرت ناک تھا لیکن جیسا کہ سالم و جابر نے بیان کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس گزارش اور حیرت پر آپ نے اسی مٹی کے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا۔

بخاری کے بقول جابر کے اس بیان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جب ان سے بعد میں دریافت کیا گیا کہ ”اس وقت وہاں

آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی؟“ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی تعداد تو باں پندرہ سو افراد سے زیادہ نہ تھی لیکن وہ اگر ایک لاکھ کی تعداد میں بھی ہوتے تو آنحضرت ﷺ کی انگلیوں سے نوارے کی طرح اٹلتے ہوئے پانی سے وہ بھی سیراب ہو سکتے تھے۔

بخاریؒ فرماتے ہیں کہ ان سے سعید نے جابر ہی کے حوالے سے بیان کیا کہ سدہ بیہ میں آنحضرت (ﷺ) کے دست مبارک پر بیعت کرنے والوں کی تعداد پندرہ سو تھی جب کہ بعض دوسرے لوگوں نے قتادہ وغیرہ کے حوالے سے ان کی تعداد چودہ سو بتائی ہے۔

یہاں اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ بیعت الرضوان میں شامل لوگوں کی تعداد میں راویوں میں جو اختلاف آرا ہے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ (مؤلف)

جابر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حد بیہ میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سو افراد سے تجاوز نہ تھی جب کہ فتح مکہ کے موقع پر ان کی تعداد دس ہزار تھی۔

بہر کیف کچھ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت الرضوان کے موقع پر مسلمان مہاجرین و انصار کی مجموعی تعداد وغیرہ چودہ سو سے زیادہ نہ تھی لیکن ان لوگوں کو ملا کر جو وہیں مسلمان ہوئے تھے یہ تعداد پندرہ سو تک جا پہنچی تھی اور آنحضرت (ﷺ) نے ان سب کو جنت کی بشارت دی تھی۔



فصل:

سال ششم ہجری میں دیگر مہمات

جیسا کہ پہلی نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے اسی سال ششم ہجری میں ماہ ربیع الاول کے اوائل یا اواخر میں آنحضرت ﷺ نے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں چالیس افراد دے کر کچھ باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا تھا لیکن جب یہ لوگ ان کی پناہ گاہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تاہم مجاہدین کے ہاتھ ان کے سوانٹ آگئے جنہیں لے کر عکاشہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے واپس آ گئے۔

انہی ایام میں آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان سرکشوں سے نمٹنے کے لیے چالیس آدمی دے کر بھیجا۔ ابو عبیدہ ذی القصد تک پہنچے تو وہ لوگ پہاڑی علاقے میں گھس گئے تاہم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا لیکن وہ کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ ان کا ایک آدمی گرفتار ہوا لیکن وہ بھاگتے بھاگتے بھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر گئے۔

اسی سال آنحضرت ﷺ نے سرکشان حوم کی سرکوبی کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا جہاں انہیں مزینہ کی ایک عورت حلیمہ نامی ملی جس نے مجال بنی سلیم تک مجاہدین اسلام کی رہنمائی کی تو وہاں انہیں کچھ لوگ ملے جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس مہم میں مجاہدین کو کانی مال غنیمت کے علاوہ بکریوں کا ایک بہت بڑا گلہ بھی ملا۔ اسیروں میں حلیمہ کا شوہر بھی تھا لیکن چونکہ حلیمہ مسلمان ہو چکی تھی اس لیے جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان قیدیوں کو لے کر مدینے پہنچے تو آنحضرت ﷺ نے حلیمہ کی وجہ سے اس کے شوہر کو رہا کر دیا تاہم حلیمہ کو اس سے طلاق دلوادی۔

اسی سال زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ماہ جمادی الاول میں بنی ثعلبہ کی طرف صرف پندرہ افراد لے کر گئے جہاں کچھ خانہ بدوش عربوں نے آپ کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھا کر بھاگ گئے اور ان کے بیس اونٹ مجاہدین کے ہاتھ آئے۔ اس مہم میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو صرف چار دن لگے۔ تاہم اس مہینے میں انہیں آنحضرت ﷺ نے عیس کی طرف بھی بھیجا تھا۔

پہلی واقدی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اسی مہم میں ابو العاص بن ربیع کا بہت سا مال اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں اونٹ بھی مجاہدین اسلام کے ہاتھ آئے تھے۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس مہم میں ابو العاص کے بہت سے ساتھی مارے گئے تھے لیکن وہ خود بھاگ کر مدینے ہی آیا تھا جہاں اس کی زوجہ زینب بنت رسول اللہ ﷺ (رضی اللہ عنہا) غزوہ بدر کے بعد جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے آگئی تھیں اور یہیں وہ سفر شام میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے ان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے اور ان تجارتی مال کی لین دین کر لیا کرتے تھے مگر اس

بار چونکہ مدینے آ کر ابو العاص مسلمان ہو گئے تھے اس لیے آنحضرت ﷺ نے ان کے اوٹ اور تمام مال انہیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لوٹا دیا تھا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح پر پہلے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تاہم کفار پر تحریم مومنات کا فیصلہ سال دوم ہجری میں ہو چکا تھا اور ان سے مومنات کی طلاق یا ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے نکاح ثانی یا ان کے پہلے نکاح کے برقرار رکھنے کا معاملہ بعض راویوں کے مطابق سال ہشتم ہجری میں طے ہوا تھا لیکن واقدی نے اس کا ذکر بھی سال ششم ہجری کے واقعات کے ساتھ کیا ہے۔ واللہ اعلم

واقدی ذکر کرتے ہیں کہ اسی سال یعنی سال ششم ہجری میں وحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ قیصر روم کی طرف سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں تحائف لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں جب وہ قبیلہ جذام کی پستی کی طرف سے گزر رہا تھا تو وہاں کے لوگوں نے اس کے پاس جو کچھ تقاسب لوٹ لیا تھا۔ جب اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو ہوئی تو آپ نے اس قبیلے کی سرکوبی کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہی کو روانہ فرمایا تھا۔

واقدی بیان کرتے ہیں کہ اسی سال آنحضرت ﷺ کو اطلاع ملی تھی کہ حمی بن اسد بن بکر نے مسلمانوں کے خلاف ایک جماعت تیار کر لی ہے تاکہ وہ خیبر کے یہودیوں کی مدد کر سکیں جو مسلمانوں کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور ان سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے اس لیے آپ نے اس قبیلے کی سرکوبی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے وقت اس مہم پر روانہ ہوئے تھے اور صبح ہوتے ہی اس قبیلے کے ذخیرہ آب پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کا محاصرہ کر لیا تھا تو انہوں نے ہتھیار ڈال کر آنحضرت ﷺ کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سنا گیا تھا کہ وہ لوگ خیبر کے یہودیوں کو کافی بڑی مقدار میں کھجوریں بھیج رہے ہیں لیکن اس مہم کے بعد یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا تھا۔

واقدی ہی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اسی سال شعبان کے مہینے میں آنحضرت ﷺ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دومۃ الجندل کی طرف روانہ فرمایا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ اگر وہاں کا حکمران اطاعت قبول کر لے تو انہیں اس کی بیٹی سے شادی کی اجازت ہے۔ چنانچہ جب وہاں کے حکمران نے اطاعت قبول کر لی تو اس کے لشکر نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور اسلام قبول کر لیا تو آپ کی ہدایت کے مطابق عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں کے حکمران کو اس کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا جو اس نے بخوشی قبول کر لیا اور اس کے بعد اس کی بیٹی سے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔ دومۃ الجندل کے حکمران کا نام اصبح کلیبہ اور اس کی بیٹی کا نام تماضر تھا لیکن وہ اسلام لانے اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد عموماً ام ابی سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نام سے پکاری گئیں۔

واقدی کہتے ہیں کہ سال ششم ہجری کے ماہ شوال میں آنحضرت ﷺ نے کرز بن جابر فہری کو اہل عربیہ کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ہوایہ تھا کہ ان لوگوں نے اس حاکم کو جو آپ نے وہاں مقرر فرمایا تھا اسے قتل کر کے اس کا سارا مال و متاع لوٹ لیا تھا اسی لیے کرز بن جابر نے ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں کے حاکم کے ماتحت عملے کے علاوہ جانوروں تک پر پانی بند رکھا تھا

آنحضرت ﷺ کی اجازت کے مطابق قابل عبرت سزا دی۔

بخاری و مسلم نے اس روایت کو سعید بن ابی عروبہ کے ذریعہ اور قتادہ و انس بن مالک رضی اللہ عنہما کے حوالے سے پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عکک، عرنیہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق عکک یا عرنیہ کا ایک گروہ مدینے میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ زراعت میں مصروف پر امن لوگ ہیں لہذا دوسرے باغیوں کے خلاف ان کی حفاظت کے لیے مدینے سے کچھ لوگ روانہ کیے جائیں۔ آپ سے اس گزارش کے بعد وہ لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے وہاں کے لیے ایک حاکم مقرر کر کے اور اس کے ماتحت عملے کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا لیکن انہوں نے راستے ہی میں حرہ کے قریب پہنچ کر ان سب کو قتل کر کے ان کا سامان لوٹ لیا اور مرتد ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ان کی سرزنش کے لیے کرز بن جابر کی سرکردگی میں بیس مجاہدین دے کر انہیں وہاں روانہ فرمایا تھا اور ان کی اس ناقابل معافی حرکت کی انہیں خاطر خواہ سزا دی گئی تھی۔



سال ششم ہجری کے کچھ دیگر واقعات

جیسا کہ امام شافعیؒ نے فرمان الہی ﴿وَاسْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ یعنی اللہ کے لیے حج اور عمرہ ادا کیا کرو کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے بتایا ہے واقعہ حدیبیہ کے زمانے یعنی سال ششم ہجری میں مسلمانوں پر حج کی ادائیگی فرض کی گئی اور اسی کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حج کی استطاعت حاصل ہوتے ہی ہر مسلمان پر فوری طور سے حج کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے لیکن دیگر تینوں ائمہ فقہ یعنی امام مالکؒ، امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ نے امام شافعیؒ کے مندرجہ بالا آیت سے استنباط کے برعکس یہ کہا ہے کہ کسی مسلمان پر اسے حج کی استطاعت حاصل ہوتے ہی فوری طور پر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی بلکہ اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اس دوران میں اپنی سہولت کے مطابق حج یا عمرہ ادا کرے۔ ان ہر سہ فقہاء نے اپنے استدلال میں آنحضرت ﷺ کی ادائیگی حج کی مثال دی ہے کہ سال ششم ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہونے کے باوصف آپؐ نے ہجرت کے دسویں سال یعنی فتح مکہ کے بعد ماہ ذیقعد میں حج ادا فرمایا تھا اور سال ششم ہجری میں حج فرض ہو جانے کے باوجود قریش مکہ کے ساتھ صلح نامہ کی اس شرط کی بنیاد پر کہ آپؐ اس سال حج یا عمرہ کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہوں گے حج کی ادائیگی ملتوی فرمادی تھی۔

ہم نے مندرجہ بالا یہ شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی ”کتاب التفسیر“ میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ (مؤلف)
اسی سال قریش مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کی اس شرط کے متعلق کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر مکہ سے مدینے چلی جائے تو اس صلح نامے کے مطابق آنحضرت ﷺ اسے مکہ واپس کر دیں گے مندرجہ ذیل آیت اتری تھی جس کسی عورت کا مسلمان ہونے کے بعد اس کے مشرک خاوند کی زوجیت میں رہنے کو قرار دیا گیا ہے بلکہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم شخص کی زوجیت میں نہیں آسکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ الخ﴾

غزوہٴ مریسبع بھی اسی سال ششم ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ قصہ انکب بھی اسی سال کی بات ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت کے بارے میں آیت قرآنی نازل ہوئی تھی جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔

صلح حدیبیہ بھی اسی سال ششم ہجری کا واقعہ ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے جب کہ قریش مکہ سے حرب و ضرب اور فتح مکہ کا واقعہ ہجرت کے دسویں سال پیش آیا۔

واقعی بیان کرتے ہیں کہ اسی سال یعنی سال ششم ہجری میں آنحضرت ﷺ نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو سات دوسرے آدمیوں کے ساتھ مقوقس حاکم اسکندریہ کے نام خط دے کر بھیجا تھا اور اسی سال شجاع بن وہب بن اسد بن خزیمہ کو جنہوں نے غزوہٴ بدر میں شرکت کی تھی عربی نصاریٰ کے بادشاہ حارث بن ابی شمر غسانی کے نام رضیہ بن خلیفہ کلبی کو قیصر روم ہرقل کے نام عبد اللہ بن حذافہ سہمی کو ایران کے بادشاہ کے نام سلیط بن عمرو العامری کو ہوذہ ابن علی حنفی کے نام اور عمرو بن امیہ ضمری کو حبشہ کے نصرا نیوں کے بادشاہ نجاشی کے نام خطوط دے کر بھیجا تھا۔

سال ہفتم ہجری

غزوہ خیبر:

شعبہ حاکم اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آخر الذکر کے بقول ارشاد باری تعالیٰ ﴿وَآتَاهُمُ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (انہیں) (مسلمانوں کو) عنقریب فتح حاصل ہوگی) سے مراد فتح خیبر تھی (جو اوائل سال ہفتم ہجری میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی)۔

موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آنحضرت ﷺ نے کم و بیش تیس روز مدینے میں قیام کے بعد خیبر کا رخ فرمایا جس کی فتح کا وعدہ اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے ہی فرما چکے تھے۔

موسیٰ نے زہری کے حوالے سے فتح خیبر کا سال سال ششم ہجری بتایا ہے لیکن جیسا کہ ہم سطور بالا میں بتا چکے ہیں صحیح یہی ہے کہ خیبر کی فتح اوائل سال ہفتم ہجری کا واقعہ ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں:

”حدیبیہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مدینے میں پورا ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم کا کچھ حصہ بسر فرمایا جس کے بعد ماہ محرم کے باقی حصے کے دوران میں آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔“

یونس بن کبیر، محمد بن اسحاق، زہری، عروہ، مروان اور المسور کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آخر الذکر دونوں حضرات کے بقول آنحضرت ﷺ پر سورہ فتح حدیبیہ اور مدینے کے راستے میں وہاں سے واپسی کے دوران میں نازل ہوئی تھی اور مدینے پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں ماہ ذی الحجہ جس میں آپ مدینے واپس پہنچے تھے وہیں بسر فرمایا اور پھر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔

مروان اور المسور نے مزید بیان کیا کہ مدینے سے روانگی کے بعد آپ نے غطفان کے بیچ کی وادی رجع میں قیام فرمایا کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ بنی غطفان کہیں اہل خیبر کے حلیف نہ بن گئے ہوں۔ تاہم ان کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد آپ اگلی صبح غطفان کی بستی میں داخل ہوئے۔

تبہقی واقدی کے حوالے سے جو روایت آخر الذکر نے اپنے بزرگوں سے سنی تھی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر کی طرف روانگی کا قصد سال ہفتم ہجری کے اوائل میں فرمایا تھا۔

عبداللہ بن ادریس اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آخر الذکر کو عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ خیبر کے لیے تیاری ماہ محرم کے آخر تک کی تھی جب کہ آپ نے ماہ صفر کے آخر میں ادھر کا قصد فرمایا اور وہاں پہنچے۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی آنحضرت ﷺ نے مدینے کے انتظامات اور اس کی نگرانی کے لیے ثمیلہ بن عبداللہ لیشی کو مقرر فرمایا تھا لیکن امام احمد بیان فرماتے ہیں کہ ان سے عفان و ہیب اور حسیم یعنی ابن عراق نے اپنے والد کے حوالے سے

بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ اس زمانے میں مدینے آئے جب آنحضرت ﷺ خیبر جا چلے تھے تو انہوں نے آپ کے نائب کی حیثیت سے وہاں یعنی مدینے میں سباع بن عرفظہ الغطفانی کو دیکھا تھا۔

تبھی نے لیسان بن حرب کی زبانی وحیب بن خثیم بن عراق اور آخر الذکر کے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک شخص جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے اسی زمانے میں مدینے تشریف لائے تھے جب آنحضرت ﷺ خیبر کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب مدینے سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پہلے آپ نے ایک بستی میں قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آگے بڑھ کر صہبا میں ٹھہرے اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ آگے روانہ ہوئے تو آپ نے رجع میں قیام فرمایا۔ یہ ایک وادی ہے جو غطفان کی سرحد پر واقع ہے۔ غطفان کی بستی میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے آپ قیام فرمانے کے لیے اس لیے داخل نہیں ہوئے کہ ایک اطلاع کے مطابق بنی غطفان آپ کے خلاف خیبر کے یہودیوں کی مدد کر رہے تھے اور آئندہ بھی ان کی مدد پر آمادہ تھے۔

بہر کیف جب انہیں ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی اپنے علاقے میں آنے کی خبر ملی تو پہلے تو انہوں نے خیبر کا رخ کیا لیکن راستے میں انہیں اپنے مال و منال اور اہل و عیال کی حفاظت کا خیال آیا تو انہوں نے آپ کو اور آپ کے لشکر کو بغیر کسی مزاحمت کے خیبر کی طرف بڑھنے کا راستہ دے دیا اور خود ایک طرف ہٹ گئے۔

بخاریؒ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن مسلمہ نے مالک بن یحییٰ بن سعید اور بشیر کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر کو سوید بن نعمان نے بتایا کہ جب آنحضرت ﷺ نے اس سال جب غزوہ خیبر وقوع پذیر ہوا مدینے سے خیبر کی طرف روانگی کا قصد فرمایا تو وہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ سوید بن نعمان نے مزید بتایا کہ مدینے سے روانہ ہو کر آنحضرت ﷺ نے پہلے صہبا میں قیام فرمایا جو خیبر کا زیریں علاقہ ہے اور وہیں نماز عصر ادا فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ نے وہاں زاد سفر کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں منگوانا چاہیں تو معلوم ہوا کہ وہاں ستوتک میں شراب کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہ سن کر آپ نے جو کچھ پہلے سے ساتھ تھا وہی نوش فرمایا اور دوسروں نے بھی وہی کھایا۔

سوید بن نعمان نے مزید بیان کیا کہ صہبا میں آپ نے مغرب کے وقت تک قیام فرمایا اور وہیں وضو کیے بغیر صرف کلی کر کے نماز مغرب ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ آگے روانہ ہو گئے۔

بخاریؒ فرماتے ہیں کہ انہیں یزید بن ابی سعید اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما کے حوالے سے عبداللہ بن مسلمہ اور حاتم بن اسماعیل کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ:

”ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ خیبر کی طرف سفر کر رہے تھے تو آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے عامر رضی اللہ عنہ سے جو شاعر تھے کچھ سنانے کی فرمائش کی تو انہوں نے اس وقت جو اشعار سنائے ان کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اور ان کی قوم آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکت کی وجہ سے ہدایت بنے، کاش ان کی آئندہ نسلیں بھی اسی طرح اسلام کے زیر سایہ رہ

کر سکون و اطمینان سے زندگی بسر کر سکیں۔

یہ اشعار جب آنحضرت ﷺ نے سماعت فرمائے تو لوگوں سے دریافت فرمایا کہ ”یہ کون شخص ہے؟“ اور جب آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے تو آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔

اسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ خیبر کی بستیوں میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے لوگوں سے یعنی اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ یہ آگ کیسی ہے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یہودیوں نے الاؤ روشن کر رکھے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہودی عموماً مردہ جانوروں کی چربی سے ایسے الاؤ روشن کرتے ہیں۔ پھر جب نفع خیبر کے بعد آپ سے عرض کیا گیا کہ عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ نے جو اسی روز زخمی ہو کر وفات پا گئے تھے یعنی شہید ہو گئے تھے ایسے ہی ایک الاؤ کی راکھ سے اپنی تلوار کا خون صاف کیا تھا اور آپ سے یہ بھی دریافت کیا گیا کہ آیا آپ کے نزدیک ان کا یہ عمل جائز تھا یا نہیں تو آپ نے عامر رضی اللہ عنہ کے بھائی کی انگلیاں اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا کہ:

”چونکہ یہ مجاہد تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ فعل قابل معافی ہے اور یہ یقیناً ناجی اور اجر جہاد کا مستحق ہے اور اجر شہادت کا بھی۔“

اس روایت کو حد درجہ غریب ہونے کے باوجود حدیث نبوی کے حوالے سے پیش کرنے والوں میں بخاری کے علاوہ کئی دوسرے ثقہ راوی بھی شامل ہیں اور ان سب نے اسے بالاتفاق مستند تسلیم کیا ہے۔ (مؤلف)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے متعدد لوگوں نے عطاء بن ابی مروان اسلمی اور ان کے والد نیز ابن معتب بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا کہ جب آنحضرت ﷺ خیبر کے سامنے وارد ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”ٹھہر جاؤ! اب ہم ان کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔“ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی:

”اے سات آسمانوں اور سات زمینوں کے رب! اے کم یا زیادہ جملہ شیاطین کے رب! اے ہواؤں اور جملہ ساکن اشیاء کے رب! میں تجھ سے اس بستی اور اس کے مکینوں کے لیے خیر کا طالب ہوں لیکن اس بستی کے شر اور اس کے مکینوں کے شر سے اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔“

یہ دعا فرما کر آپ نے مجاہدین اسلام کو حکم دیا: ”آگے بڑھو! بسم اللہ۔“

اس روایت کو قریب قریب انہی الفاظ میں حافظ بیہقی نے بھی حاکم، اسمع عطاردی، یونس بن کبیر، ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع، صالح بن کیسان، ابی مروان اسلمی اور آخر الذکر کے والد اور درداء کے حوالے سے جو سب کے سب غزوہ خیبر میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تھے بیان کیا ہے۔

ابن اسحاق متعدد راویوں کی زبانی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آخر الذکر نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ جب بھی کسی غزوے کے لیے مدینے سے تشریف لے جاتے تھے تو منزل پر پہنچ کر اگر رات کا وقت ہوتا تو آپ دشمن کے خلاف اس وقت کوئی اقدام نہیں فرماتے تھے چنانچہ خیبر میں بھی آپ نے اپنی اس عادت کا مظاہرہ فرمایا یعنی رات کے وقت جب

ہم آپ کے ہمراہ خیبر پہنچے تو آپ نے صبح تک اہل خیبر کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ صبح کی آذان کا انتظار فرماتے رہے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ قلعہ خیبر کی طرف بڑھے تو ہم بھی آپ کے ہم پر آپ کے پیچھے پیچھے اس طرف بڑھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بالفل پیچھے ابی طلحہ تھے اور ان کے پیچھے ابی طلحہ کی طرح گھوڑے پر سوار وہ خود یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اہل خیبر نے آپ کو دیکھا تو وہ بولے: ”اوہو امحراً تالاً و لشکر لے کر ہمارے مقابلے کے لیے یہاں آئے ہیں۔“ یہ کہہ کر انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ہم ان سے مصالحت کرنے اور انہیں نیکی کا راستہ دکھانے یہاں آئے ہیں لیکن یہ لوگ تو ہم سے جنگ کے لیے گویا ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ (حدیث کا مفہومی ترجمہ)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

”اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ہمیں بھی اہل خیبر سے جنگ کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا: ”تم بھی آگے بڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم“۔

یہی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مسلم نے بھی پیش کی ہے۔ بخاری نے اس روایت کو پیش کرتے ہوئے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اہل خیبر گدھے کا گوشت بھون بھون کر کھا رہے تھے تو آپ نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ یہ گوشت کبھی نہ کھائیں کیونکہ یہ حرام ہے۔

بیہقی کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں آنحضرت ﷺ نے چند دوسرے غزوات کی طرح گدھے پر سواری کی تھی۔

ہمارے نزدیک بخاری و مسلم نے یہ روایت پیش کرتے ہوئے یہ بات نہیں بتائی بلکہ جیسا کہ مالک بن انس اور ابی طلحہ رضی اللہ عنہما کو گھوڑوں پر سوار ظاہر کیا گیا ہے تو جیسا کہ بخاری نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ بھی غزوہ خیبر میں گھوڑے ہی پر سوار تھے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ محاصرہ خیبر کے دوران میں آپ کسی وقت گدھے پر بھی سوار ہوئے ہوں جہاں تک گدھے کے گوشت کی حرمت کا سوال ہے اس پر ہم کتاب الاحکام میں گفتگو کریں گے۔

بخاری عبد اللہ بن مسلمہ اور حاتم کی زبانی یزید بن عبید اور سلمہ بن اکوع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ محاصرہ خیبر کے دوران میں چند روز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا جب کہ اسلامی علم آنحضرت ﷺ نے کسی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یکے بعد دیگرے دیئے تھے لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ پچھلے چند روز وہ آشوب چشم کی حد سے زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے۔

بہر کیف آنحضرت ﷺ نے اس روز فرمایا کہ:

”اب اسلامی علم اس شخص کو دیا جائے جو خدا اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی

اسے بے حد چاہتے ہیں۔“

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ:

”خیر کی فتح بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے نصیب میں لکھی ہے اس لیے قلعہ خیر ان شاء اللہ تعالیٰ آج اسی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔“

بخاری و مسلم بھی روایت چند دوسرے سوانوں سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قلعہ خیر کے محاصرے کے دوران میں آنحضرت ﷺ نے ایک رات ارشاد فرمایا کہ:

”کل صبح اسلامی علم اسے دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔“

اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ:

”ان شاء اللہ قلعہ خیر اسی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔“

اس کے بعد جیسا کہ صحیح مسلم میں بیہتی کے حوالے سے ان راویوں کی زبانی جو غزوہ خیر میں شریک تھے۔ بیان کیا گیا ہے اگلی صبح صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھئے آج رسول اللہ ﷺ علم کسے عنایت فرماتے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جسے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت نہ ہو لیکن صبح ہوتے ہی جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم کی سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی دونوں آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا جس کے بعد جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔

اس کے بعد آپ نے انہیں علم دیا اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ وہ قلعے کی دیوار کے نیچے جائیں اور وہاں رہنے والے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسے تسلیم کر لیں تو فہماور نہ قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور آگے بڑھ کر دیوار قلعہ کے پاس اپنا علم گاڑ کر بلند آواز سے دیوار پر پہرہ دینے والوں کو پکارا اور جب وہاں سے ایک یہودی نے پوچھا: ”تم کون ہو؟“ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: ”میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سن کر وہ یہودی بولا:

”ہم نے تو ریت میں یہ نہیں پڑھا کہ اس نام کا کوئی شخص اس قلعہ پر قبضہ حاصل کر سکے گا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔“

اس یہودی کے اس جواب پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے ساتھی مجاہدین کے ساتھ قلعہ پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ فتح ہو گیا۔

بیہتی ان متعدد راویوں کے حوالے سے جنہوں نے غزوہ خیر میں شرکت کی تھی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو علم دے کر خیر کے کسی قلعے کی تسخیر کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا اور وہ وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ بیہتی مذکورہ بالا حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو لوگ اس قلعے کی

تسخیر کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک مجاہد محمد بن مسلمہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ تاہم یہ خیبر میں یہودیوں سے پہلی جنگ تھی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کرتے ہوئے یہودیوں کے چھکے چھڑا دیئے تھے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو سکا تھا۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک دوسرے قلعے نام لوفح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا لیکن وہ بھی یہودیوں سے سخت جنگ کے باوجود وہاں سے ناکام لوٹے تھے کیونکہ وہاں کے ہر یہودی نے سردھڑکی بازی لگا دی تھی۔ اس کے بعد آنحضرت نے فرمایا تھا کہ آپ اگلے روز ایک ایسے شخص کو علم دیں گے جو خدا اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے بے حد چاہتے ہیں اور ان شاء اللہ وہ قلعہ فتح کر لے گا۔

ایک دوسری روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا اور آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں تو آپ نے انہیں بلا کر ان کی دونوں آنکھوں پر دست مبارک پھیر دیا جس سے ان کی تکلیف بالکل جاتی رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے انہیں علم دے کر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور صرف ان کے انکار پر ان سے جنگ کی جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل میں ایسا ہی کیا لیکن جب یہودیوں نے ہٹ دھرمی دکھائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ پر حملہ کیا اور رضائے الہی سے وہ یہودیوں کا خیبر میں سب سے بڑا قلعہ جس کا قلعہ دار مرحب تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کو جسے اپنی جسمانی طاقت کے علاوہ اپنی جنگی مہارت کا بڑا زعم تھا پہلے ہی وار میں قتل کر دیا تھا۔ مرحب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ عرب کے دستور کے مطابق مبارز طلبی پر ہوا اور یہ مبارز طلبی مرحب ہی کی جانب سے ہوئی تھی جو لوہے میں غرق اور سر پر یمنی خود رکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلے کے لیے قلعہ سے باہر نکل آیا تھا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے بڑے غرور سے کچھ رجزیہ اشعار پڑھ کر ان پر حملہ کیا تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی عرب کے دستور کے مطابق اس کے رجزیہ اشعار کا جواب دیتے ہوئے اس کے حملے کے بعد جوابی حملہ کیا تو مرحب ان کے پہلے ہی وار میں دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ پڑا۔

کہا جاتا ہے کہ مرحب کا یمنی خود مدینے لایا گیا تھا۔

حافظ الہز از بھی عباد بن یعقوب، عبد اللہ بن بکر، حکیم بن جبیر، سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے حوالے سے یہی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قلعہ کی تسخیر کے لیے علم دے کر روانہ فرمایا تھا اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور انہی کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہوا تھا۔

واقعی بیان کرتے ہیں کہ مرحب کی تلوار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن مسلمہ شہید کے بھائی محمد بن مسلمہ کو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرحب سے پہلے ایک یہودی کو قتل کیا تھا جس کے بعد مرحب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، عنایت فرما دی تھی اور اس کے ساتھ اس کا خود اور زرہ بھی انہی کو بخش دی تھی۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مرحب کے قتل کے بعد مرحب کا بھائی یا سر قلعہ سے باہر نکلا تھا اور اس نے مسلمانوں میں سے مبارز طلب کیا تھا تو ہشام کے بقول حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے تھے اور

صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا تھا کہ اسے ایسی مرحب لے بھائی یا سر کو میرا بیٹا (زبیر رضی اللہ عنہ) قتل کرے گا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا: ”ان شاء اللہ یہی اسے قتل کرے گا۔“ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہی نے یا سر کو قتل کیا تھا

یونس ابن اسحاق اور ان کے خاندان کے چند دوسرے لوگوں کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کے غلام ابی رافع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ:

”جب آنحضرت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دے کر قلعہ خیبر کی تسخیر کے لیے روانہ فرمایا تھا تو ہم آٹھ آدمی ان کے ساتھ تھے جن میں سے آٹھواں آدمی میں تھا۔“

ابی رافع مزید بیان کرتے ہیں کہ:

”جب ہم قلعہ کی دیوار کے قریب پہنچے تو کچھ اہل قلعہ ہمارے مقابلے کے لیے باہر نکل آئے اور ان سے ہماری دست بندست لڑائی ہونے لگی لیکن جب ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تو وہ ڈر کر سب کے سب قلعہ میں واپس چلے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا تو ہم آٹھوں آدمیوں نے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی لیکن ہم اس سے قاصر رہے۔“

یہ روایت مذکورہ بالا راوی کی لاعلمی کا ثبوت ہے جسے ابن اسحاق اور ابی رافع سے منسوب کیا گیا ہے کیونکہ جیسا کہ حافظ بیہقی نے حاکم کی طرح مطلب بن زیاد کے ذریعہ اور لیث بن ابی سلیم، ابی جعفر الباقرا اور جابر جیسے ثقہ راویوں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ قلعہ خیبر کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تنہا اکھاڑ دیا تھا جس کے بعد ان کے ساتھی اور دوسرے مجاہدین اسلام قلعے میں داخل ہو گئے تھے اور اس طرح قلعہ فتح ہو گیا تھا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو زمین پر ڈالا تھا تو وہ چالیس آدمیوں سے پوری قوت صرف کرنے کے باوجود نہ اٹھ سکا تھا۔ تاہم یہ روایت بھی ضعیف ہی معلوم ہوتی ہے اور جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان کہ وہ دروازہ ستر آدمیوں سے بھی نہ اٹھ سکا تھا۔ تاہم یہ روایت بھی ضعیف ہی معلوم ہوتی ہے اور جابر کا یہ بیان کہ وہ دروازہ ستر آدمیوں سے بھی نہ اٹھ سکا تھا بظاہر قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ (مؤلف)

بخاریؒ بیان کرتے ہیں کہ ان سے علی بن ابراہیم اور یزید بن عبید نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک روز سلمہ کی پنڈلی پر ایک

مندل زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا تھا: ”یہ آپ کی پنڈلی پر نشان کیسا ہے؟“ تو سلمہ نے جواب دیا تھا:

”یہ نشان اس زخم کا ہے جو میری پنڈلی پر غزوہ خیبر میں آیا تھا۔ وہ زخم بڑا گہرا تھا لیکن جب میں زخمی ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے میری پنڈلی کے اس شدید ترین زخم پر تین بار پھونک ماری تھی جس کے بعد وہ زخم فوراً مندل ہو گیا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے مجھے وہ زخم آیا ہی نہ تھا۔ تاہم اس کا یہ نشان میری پنڈلی پر آج تک باقی ہے۔“

بخاریؒ کہتے ہیں کہ ان سے ابو الیمان اور شعیب نے بیان کیا کہ انہیں سعید بن مسیب نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی جنہوں

نے غزوہ خیبر میں شرکت کی تھی بتایا کہ وہاں آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کے بارے میں جس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا

ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ اس پر نبض لوگوں کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ شخص مجاہدین اسلام کے دوس بدوئس خیبر کے یہودیوں سے جنگ کرتا ہوا زخمی ہو گیا تھا لیکن جب بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی تو انہی لوگوں نے اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو دیتے ہوئے عرض کیا: "یا رسول اللہ (ﷺ) آپ نے بالکل سچ فرمایا تھا۔" اس پر آپ نے فرمایا:

"کوئی غیر مومن جنت میں نہیں جائے گا۔ الایہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی فاجر و فاسق شخص سے بھی اشاعت دین کا کام لے لیتا ہے۔"

موسیٰ بن عقبہ زہری کے حوالے سے غزوہ خیبر کے واقعات کے ضمن میں خیبر کے کسی حبشی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خیبر کے ایک یہودی کا نوکر تھا اور اس کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہ بھیڑ بکریاں لے کر جنگل کی طرف جانے لگا تو اس نے اپنے مالک سے دریافت کیا کہ:

"یہ لوگ جنہوں نے یہاں سے کچھ دور پڑاؤ ڈال رکھا ہے کون لوگ ہیں؟"

یہودی بولا:

"یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو شخص ان کی قیادت کر رہا ہے اس کا نام محمد (ﷺ) ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا نبی ہے لیکن ہم اسے نبی نہیں مانتے بلکہ اپنا اور اپنے دین کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب یہ شخص محمد (ﷺ) اور اس کے ساتھی ہمیں اپنے دین میں شامل کرنے یا ہم پر غلبہ حاصل کرنے مدینے سے یہاں آئے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دین سچا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم پر کس طرح فتح پاتے ہیں۔"

موسیٰ بن عقبہ آگے کہتے ہیں کہ وہ حبشی جب اس یہودی کی بھیڑ بکریاں لے کر خیبر کی نزدیکی چراگاہ کی طرف جانے لگا تو وہ پہلے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا:

"میں خیبر کے ایک یہودی کا چرواہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ خود کو خدا کا نبی کہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کا دین کیا ہے؟"

اس حبشی کے اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا:

"میں کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا آخری نبی ہوں لیکن عرب ہی کی بعض قومیں نہ خدا کو ایک مانتے ہیں اور نہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں یہ یہودی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبان سے اپنا نبی کہتے ہیں لیکن ان کے اور خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتے بلکہ میرے خلاف اس لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ میں خدا کے آخری نبی کی حیثیت سے انہیں خدا کے احکام کا پابند بنانا چاہتا ہوں میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ پہلے انہیں سمجھاؤں اور اسلام میں داخل ہو کر خدا کی اطاعت کی دعوت دوں ورنہ جیسا کہ خدا کا حکم ہے ان سے جنگ کروں۔" (حدیث نبوی کا تشریحی ترجمہ)

اس حبشی نے آنحضرت ﷺ کی اس گفتگو سے متاثر ہو کر آپ سے دریافت کیا:

"اگر میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟"

اس کے بعد یہی ہی اسی قبیل کا ایک دوسرا واقعہ ابن جریج کی زبانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر الذکر کو مکرمہ بن خالد نے ابن ابی عمار اور شدا د ابن الہاد کے حوالے سے بتایا کہ ایک اعرابی نے کسی روز آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ میں داخل اسلام ہونا اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا تھا جس کے بعد وہ ہمیشہ آپ کی اتباع جان و دل سے کوشش کرتا رہا اور آپ نے اس کے بارے میں اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو خصوصی ہدایات دی تھیں پھر جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو اس نے اس میں بھی شرکت کی اور جتنا مال غنیمت اس وقت تک مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا آپ نے اس میں سے اسے بھی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے برابر حصہ دینے کی ہدایت فرمائی لیکن جب اسے اس کا وہ حصہ دیا جانے لگا تو وہ بولا: ”یہ کیا ہے؟“ جب اسے بتایا گیا کہ ”یہ تمہارے حصے کا مال غنیمت ہے“ تو اس نے اپنے تیر سے اپنے حلقوم کی طرف اشارہ کر کے کہا:

”جب اس جنگ کے دوران میں دشمن کا کوئی تیر یہاں پیوست ہوگا اور میں اس کے زخم سے فوت ہوں گا تو اس وقت میں اپنے پورے حق کا حق دار ہوں گے، یعنی جنت میں جاؤں گا۔“

یہی مذکورہ بالا حوالوں سے مزید بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ دوبارہ یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوا تو اتفاقاً کسی یہودی تیر انداز کا تیر اس کے حلقوم ہی میں آ کر پیوست ہوا اور وہ شہید ہو گیا۔ پھر جب اس کی لاش آنحضرت کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا:

”اس نے واقعی میرے ساتھ ہجرت کی تھی اور میری بیعت کر کے صدق دل سے مسلمان ہوا تھا اور آج تک ایمان کے اسی درجے پر قائم رہا جس کی تصدیق آج خود اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے۔“

اس ارشاد کے بعد آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس کے کفن کے لیے اپنی عبا عنایت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا:

”یا اللہ! تیرے اس بندے نے تیری راہ میں ہجرت کی تھی اور یہاں (تیری راہ ہی میں) شہید ہوا ہے جس کی میں گواہی دیتا ہوں۔“

یہ روایت نسائی نے بھی قریب قریب انہی الفاظ میں سوید بن نصر، عبد اللہ بن مبارک اور ابن جریج کے حوالے سے اپنے ہاں درج کی ہے۔



فصل:

خیبر کے قلعے

ابن اسحاق متعدد مستند حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے قلعوں میں سب سے پہلے قلعہ ناعم فتح ہوا لیکن اس میں محمود بن سلمہ شہید ہو گئے اور وہاں مال غنیمت میں بہت کم ملا جسے آنحضرت ﷺ نے بدستور سابق خمس نکال کر مجاہدین میں حصہ رسد تقسیم فرما دیا۔

ایک بات وہاں قابل ذکر یہ پیش آئی کہ جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہودی عموماً گدھوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور وہ بھی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں نے وہاں انہی کی طرح ان کا گوشت استعمال کیا لیکن جب اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو ہوئی تو آپ نے گدھے کے گوشت کو مسلمانوں کے لیے حرام ہی ٹھہرایا۔ لیکن بعض علماء و فقہاء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ گدھا چونکہ عموماً بار برداری کے کام آتا ہے اس لیے گھوڑے کی طرح اس کا گوشت کھانا بھی اقتصادی مصالح کے خلاف ہے اس لیے متروک ہی ہونا چاہیے تھا۔

بہر کیف صحیحین میں گدھے کے گوشت کی حرمت کے بارے میں جو حدیث حماد بن زید کی زبانی عمرو بن دینار محمد بن علی اور جابر کے حوالے سے روایت کی گئی ہے اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ:

”یوم خیبر میں آنحضرت ﷺ نے گدھے کے گوشت کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا تھا لیکن اگر وہ کہیں خیل درخیل یعنی بہت کثرت سے اور جنگلی ہوں تو اس کے گوشت کے استعمال کی (وہ بھی سخت ضرورت کی حالت میں) اجازت دے دی تھی“۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن نجیح نے مکحول کے حوالے سے بیان کیا کہ انہیں یعنی وہاں موجود مسلمانوں کو آنحضرت ﷺ نے غزوہ بدر کے دوران میں چار چیزوں کی ممانعت فرمائی تھی؛ ایک تو کسی حاملہ عورت کو زوجیت میں لینے کی دوسرے پالتو گدھے کا گوشت کھانے کی تیسرے کسی درندے کا گوشت کھانے اور چوتھے مال غنیمت کی تقسیم سے قبل اس کی فروخت کی۔ یہ حدیث حدیث مرسل ہے۔ (مؤلف)

غزوہ بدر کے دوران میں بہت سی چیزوں اور باتوں کی حرمت کے بارے میں احادیث نبوی کی روایات میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تاہم امام احمد کی پیش کردہ یہ روایت آج تک محفوظ و مستند مانی جاتی ہے کہ حضرت علی ابن انس سے بیان کیا:

”رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے دوران میں ہمیں کسی عورت سے نکاح کی بجائے متاع کرنے اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی“۔

بہر کیف بعض فقہاء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے متاع کی ممانعت خیبر کے مخصوص حالات کی بنیاد پر کی گئی تھی جب کہ کن اور (طویل) سفر کے دوران میں متاع کی اہانت درست ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہی بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم (مؤلف)

سہیل وغیرہ کے بیانات کے مطابق تین موقعوں کے لیے عورتوں سے مباشرت کی ممانعت کی گئی تھی ایک تو غزوہ خیبر کے دوران میں دوسرے عمرہ القضاء کے موقع پر اور تیسرے فتح مکہ کے موقع پر۔

دوسری روایات میں ان میں سے دو مواقع غزوہ تبوک اور حجۃ الوداع بیان کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

ابن اخطی بیان کرتے ہیں کہ جب مجاہدین اسلام نے خیبر کے کئی دوسرے قلعے فتح کیے تو انہیں وہاں سے مال غنیمت کچھ بھی نہیں ملا تھا جو آنحضرت تقسیم فرماتے لیکن آخر میں جب خیبر کا عظیم ترین قلعہ فتح ہوا جس کے محاصرے میں دس دن لگے تھے تو وہاں سے کثیر مال غنیمت کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء بھی بڑی مقدار میں ملی تھیں۔

یہ روایت الوداع دینے بھی پیش کی ہے۔



صفیہ بنت حنیٰ کا قصہ

بنی نضیر کے یہودی خیبر میں جمع ہو کر برابر آنحضرت ﷺ کے خلاف کسی نہ کسی سازش میں ملوث اور آپ کے پاس کے دوسرے قبائل کو بھی مدینے کے مہاجرین و انصار کے خلاف ابھارتے رہتے تھے اس لیے آپ کو لامحالہ ایک روز ان سے دونوں فیصلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر مدینے سے وہاں کا رخ کرنا پڑا۔

خیبر میں اس وقت حنیٰ بن اخطب اور ابی حقیق یہودیوں کے سب سے زیادہ صاحبان ثروت اور ان کے معزز ترین اشخاص سمجھے جاتے تھے اور وہی وہاں کے سیاہ سفید کے مالک تھے۔ اس وقت سے کچھ قبل صفیہ بنت حنیٰ سن بلوغ کو نہیں پہنچی تھیں لیکن وہیں تربیت پارہی تھیں۔ حنیٰ بن اخطب کا ارادہ تھا کہ انہیں ان کے کسی چچا زاد بھائی سے منسوب کر دیا جائے اور جب آنحضرت خیبر پہنچے تو وہ اس سے چند روز پہلے ہی اپنے ایک چچا زاد بھائی کی زوجیت میں آئی تھیں اور اسی دوران میں انہوں نے ایک روز خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کی خواب گاہ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ خواب جب انہوں نے اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے ان کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا:

”کیا تجھے یشرب (مدینہ) کا اشتیاق اور اس کے حکمران کے آغوش کی تمنا ہے؟“

اس کے بعد ہی سے صفیہ کا دل خود بخود آنحضرت ﷺ کی طرف کھینچنے لگا اور ان کے دل میں آپ کی غائبانہ محبت پیدا ہو گئی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب حنیٰ بن اخطب کا قلعہ مجاہدین اسلام نے فتح کیا تو ان کا شوہر مسلمانوں سے دست بدست لڑائی میں مارا گیا اور وہ مال غنیمت اور دوسری عورتوں کے ساتھ ایک کینز کے طور پر لشکر اسلام میں لائی گئیں۔

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ جب خیبر میں گرفتار شدہ عورتوں کو جمع کیا گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہا کو جن کے حسن و جمال کی خیبر میں پہلے ہی سے شہرت تھی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں آنحضرت ﷺ سے صفیہ رضی اللہ عنہا کو بھی مال غنیمت میں بطور کینز مانگ لیا اور آپ نے انہیں ان کے سپرد فرما دیا۔

یعقوب بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے جانے کے بعد کسی شخص نے آنحضرت ﷺ سے

عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) صفیہ بنت قریظہ و بنی نضیر کی سیدہ ہے اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ اسے اپنی کینز میں لے لیں۔ پھر جب کچھ دوسرے لوگوں کا بھی اصرار ہوا تو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ اگر وہ کچھ خیال نہ کریں تو کوئی اور کینز اپنے لیے پسند کر لیں اور صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی خدمت کے لیے رہنے دیں۔ چنانچہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی بخوشی آپ کے ارشاد کی تعمیل کر دی۔ اس کے بعد جیسا کہ ابوداؤد نے یعقوب بن ابراہیم اور

ابن علیہ کی زبانی عبدالعزیز بن صہیب اور ابن انس کے حوالے سے بیان کیا آحضرت ﷺ نے صفیہ بنت حنی ابن اخطب رضی اللہ عنہما کو ان کی مدت عدت گزرنے کے بعد ان کی مرضی معلوم کر کے اور انہیں آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔

ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ ان سے محمد بن خلاد باہلی، بہز بن اسد، حماد بن سلمہ اور ثابت نے ابن انس نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے دحیہ بکلی رضی اللہ عنہا کو صفیہ کی باقاعدہ قیمت ادا کر کے لیا تھا اور پھر انہیں آزاد کر کے انہیں اپنی زوجیت میں داخل کیا تھا اور اس طرح ان کے اس خواب کی انہیں تعبیر مل گئی تھی جو انہوں نے خیبر میں دیکھا تھا۔ یہ بات راویوں میں متنازع ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کبھی ام المومنین کہلائیں یا ہمیشہ آنحضرت ﷺ کی کنیر خاص کے طور پر مشہور ہیں۔



فصل:**آنحضرت ﷺ سے اہل فدک کی درخواست**

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ خیبر کے ایک قلعہ کے علاوہ جسے مسلمانوں نے بزور فتح کیا تھا دوسرے مختلف قلعوں کے محصورین نے جب بخوبی محسوس کر لیا کہ ان کے ان قلعوں کا محاصرہ اگر مسلمانوں نے مزید اسی سختی سے جاری رکھا تو ان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اگر ان کی جاں بخشی کر دی جائے تو وہ اپنے اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر ہتھیار ڈالنے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنا سارا مال و متاع بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔

مذکورہ بالا قلعوں کے علاوہ قلعہ فدک والوں نے بھی آنحضرت ﷺ کے سامنے یہی درخواست پیش کی لیکن چونکہ ان کے قبضے میں زرعی زمینوں کے ساتھ سرسبز و شاداب باغات بھی تھے اس لیے ان کے سامنے یہ شرط پیش کی گئی کہ وہ اپنی ان زمینوں اور باغات کی سالانہ آمدنی کا نصف حصہ مدینے بھیجا کریں گے جو انہوں نے بطیب خاطر قبول کر لی اس لیے ان کے قلعہ کا سب مال و اسباب جوں کا توں رہنے دیا گیا۔

فدک کے پڑوس میں ایک اور قلعہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کے باشندوں نے یہ شرط مان لی تو دونوں قلعوں میں ایک ایک مسلمان حاکم مقرر کر دیا گیا جو ان قلعہ والوں میں سے ہر ایک سے ان شرائط کی پابندی کرائے اور ان کے مالی انتظامات اپنے ہاتھ میں رکھے۔



فصل:

مہاجرین حبشہ کی واپسی

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے جن لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے حکم سے مکے سے حبشہ کو ہجرت کی تھی ان میں سے بعض نے آنحضرت ﷺ کی ہجرت مدینہ کے بعد مکے کی طرف مراجعت کے بعد مدینہ کو ہجرت کی تھی جن میں حضرت زینب بنت رسول ﷺ اور ان کے شوہر بھی تھے۔

بخاریؒ فرماتے ہیں کہ ان سے یکے بعد دیگرے محمد بن علاء، ابوسامہؓ، یزید بن عبداللہ اور عبداللہ بن ابی بردہ نے ابی بردہ اور ابی موسیٰ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب انہیں آنحضرت ﷺ کی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اطلاع ملی اس وقت وہ یمن میں تھے۔ چنانچہ پہلے وہ یمن سے حبشہ گئے اور وہاں سے نجاشی کے ذریعہ کشتیوں کا انتظام کر کے مکے واپس آنے کی بجائے براہ راست مدینہ کی طرف چل پڑے۔

ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے ہمراہ ان کی قوم کے لوگوں میں سے باون یا تیرہ آدمی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ یمن سے حبشہ گئے تھے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے تھے اور پھر وہاں سے سب مسلمانوں نے جمع ہو کر مدینہ کا رخ کیا تھا لیکن مدینہ پہنچ کر جب انہیں آنحضرت ﷺ کی وہاں سے خیبر کی طرف اطلاع ملی تو وہ بھی خیبر کی طرف روانہ ہوئے لیکن راستے میں ٹھہر گئے تھے جہاں انہیں فتح خیبر کی اطلاع ملی تھی۔

ابوموسیٰ مزید بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا اور ان کے ہمراہیوں کا کچھ فاتحین خیبر سے آنا سامنا ہوا تو وہ بولے کہ چونکہ انہوں نے مکے سے آنحضرت ﷺ کے فوراً بعد مدینہ کو ہجرت کی تھی اس لیے وہ مہاجرین حبشہ پر سبقت رکھتے تھے۔

ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسماء بنت عمیس بھی تھیں۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آیا وہ حبشی تھیں یا بحری؟ اس پر اسماء غضب ناک ہو کر بولیں:

”آپ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہ کر آرام سے کھاتے پیتے اور چین کرتے رہے جب کہ ہم حبشہ میں مصائب جھیلتے رہے اور سب کچھ ہم نے خدا اور اس کے رسول کے لیے کیا پھر بھی آپ لوگ خود کو اول المہاجرین خیال کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہم پر ترجیح دیتے ہو۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں جب تک رسول اللہ (ﷺ) سے یہ باتیں عرض نہ کر لوں گی کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی۔ البتہ میں کوئی بات بڑھا چڑھا کر آپ سے عرض نہیں کروں گی۔“

پھر جب آنحضرت ﷺ خیبر سے واپس پر وہاں تشریف لائے جہاں یہ مہاجرین حبشہ ٹھہرے ہوئے تھے تو اسماء نے آپ سے شکایت عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ (ﷺ) عمر (رضی اللہ عنہ) نے مجھے ایسا ایسا کہا تھا۔“

آنحضرت ﷺ نے اسماء سے دریافت فرمایا: "اور تم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟"

اسماء نے عرض کیا: "میں نے انہیں ایسا ایسا جواب دیا تھا۔"

اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"نہ عمر بنی ہذا کو تم لوگوں پر کوئی ترجیح ہے اور نہ تمہیں ان پر کوئی فضیلت ہے مہاجرین کی حیثیت سے تم سب لوگ برابر کا درجہ اور حق رکھتے ہو جب کہ تم لوگوں نے تو دوبار ہجرت کی ہے۔"

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جو مہاجرین حبشہ سے لوٹے تھے ان میں سب سے پہلے آنے والے جناب جعفر اور ان کے سولہ ساتھی تھے اور وہ سب خیبر بھی گئے تھے۔

ابن اسحاق نے ان لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں جو یہ ہیں:

جعفر بن ابوطالب ہاشمی اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، جعفر کے بیٹے عبداللہ جو حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، خالد بن سعید بن سعد بن امیہ بن عبد شمس اور ان کی بیوی امینہ^۱ ان کا بیٹا سعید اور امہ بنت خالد جو دونوں حبشہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، خالد کے بھائی عمرو بن سعید ابن العاص اور معصیب بن ابی فاطمہ رنیرہ۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان میں یعنی حبشہ سے واپس آنے والوں میں جو نام اضافہ کیے ہیں وہ یہ ہیں:

آل عتبہ بن ربیعہ کے حلیف عبداللہ ابن قیس، اسود بن نوفل بن خویلد بن اسد الاسدی، جہم بن قیس ابن عبد شریح العبدری جن کی بیوی ام حرمہ بنت عبدالاسود حبشہ میں وفات پا گئی تھیں۔ جہم کے بیٹے عمرو (جہم کی بیٹی خزیمہ حبشہ میں انتقال کر گئی تھیں) عامر بن ابی وقاص زہری، عتبہ بن مسعود جو جہم کے حلیف تھے اور ان کا تعلق بنی ہذیل سے تھا، حارث بن خالد بن صحر تیمی جن کی بیوی ریطہ بنت حارث حبشہ میں ہلاک ہو گئی تھیں، عثمان بن ربیعہ بن اہبان الحنفی، عجمہ بن جزء الزبیدی (بن سہم کے حلیف) معمر بن عبداللہ بن نصلہ العدوی، ابو حاطب بن عمرو بن عبد شمس مالک بن ربیعہ بن قیس بن عبد شمس العامریان، مالک اور ان کی بیوی عمرہ بنت السعدی اور حارث بن عبد شمس بن لقیط الفہری۔

ابن اسحاق نے اس سلسلے میں اپنی فہرست میں جو نام مدینے میں ان میں جیسا کہ بخاری کے حوالے سے پہلے بتایا جا چکا ہے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے علاوہ اشعرکین میں سے ان کے بھائی ابابردہ اور ان کے چچا ابانہ نیز ان کے دیگر عزیزوں کے نام بھی نہیں دیئے ہیں تاہم ابن اسحاق نے جو نام اپنی مذکورہ بالا فہرست میں دیئے ہیں وہ سب ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی کے بیان کردہ ہیں۔ (مؤلف)

ابن اسحاق نے ان مہاجرین کے علاوہ جو دوسرے لوگ غزوہ خیبر میں شریک نہیں تھے۔ لیکن مال غنیمت کے دعوے دار تھے ان پر بھی تفصیلی گفتگو کی ہے۔

① ابن ہشام نے یہی لکھا ہے لیکن اصابہ میں ان کا نام امیہ بنت خلف بن اسعد بتایا گیا ہے۔ اصابہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں امینہ اور حمینہ ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ (مؤلف)

زہر آلود بکری کے گوشت کا قصہ

بکری کے زہر آلود گوشت کے بارے میں عروہ کی زبانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے بخاری بیان کرتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن یوسف اور لیث نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ خیبر کے جملہ قلعوں کی فتح اور ان پر مجاہدین اسلام کے مکمل قبضے کے بعد وہاں کے یہودیوں کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا تو جیسا کہ امام احمد نے بھی بیان کیا ہے آپ نے ان کے چند دن رسیدہ معزز لوگوں کو بلا کر ان سے ان کے جد اعلیٰ کا نام دریافت فرمایا اور ان سے وہ نام سچ بتانے کے لیے کہا لیکن جو نام انہوں نے بتایا وہ غلط تھا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا:

”آپ لوگوں نے جو نام بتایا ہے وہ غلط ہے جب کہ صحیح نام یہ ہے۔ پھر آپ لوگوں نے جھوٹ بولا جب کہ آپ لوگوں کو صحیح نام معلوم تھا۔“

وہ بولے:

”ہمیں معلوم تو تھا لیکن ہم میں زیادہ مشہور وہی نام ہے جو ہم نے بتایا ہے۔“

اس کے بعد آپ نے ان سے دریافت فرمایا:

”دو زخمی کون ہوتے ہیں؟“

وہ بولے:

”پہلے ہم لوگوں میں جزا و سزا پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد بہت تھی لیکن اب وہ گھٹتے گھٹتے بہت معمولی رہ گئی ہے اور اس

میں بھی باہم اختلاف پایا جاتا ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”ہم اہل اسلام میں اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا نہ ابد تک پیدا ہوگا۔“

اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا:

”اچھا اب میں آپ لوگوں سے جو بات پوچھوں گا کیا آپ لوگ اس کے بارے میں مجھے ٹھیک ٹھیک بتائیں

گے؟“

وہ بولے:

”جی ابوالقاسم! ہم اس کا بالکل ٹھیک اور سچ جواب دیں گے۔“

آپؐ نے فرمایا:

”اچھا تو بتاؤ اس گوشت میں زہر تم میں سے کس نے ملایا ہے؟ یا اس گوشت کو زہر آلود کرنے میں تمہیں کس نے آمادہ کیا ہے؟“

آپؐ کے اس سوال کا انہوں نے یہ جواب دیا:

”یا ابا القاسم! سچ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے باہمی مشورے سے خود ایسا کیا ہے کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ اگر آپ (ﷺ) سچے نبی ہیں تو آپ (ﷺ) کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا ورنہ آپ (ﷺ) ہلاک ہو جائیں گے۔“

اس سلسلے میں بخاریؒ بھی عنوان ”جزیہ“ کے تحت عبداللہ بن یوسف کے حوالے سے اور مغازی کے بیان میں لیث اور عبداللہ بن یوسف دونوں کے حوالے سے اس واقعے کو یونہی بیان کرتے ہیں۔ البتہ بیہقی کہتے ہیں کہ انہیں ابو عبداللہ الحافظ ابو العباس العاصم نے بتایا اور ان سے سعید بن سلیمان اور عباد بن عوام نے سفیان بن حسین، زہری، سعید بن مسیب، ابی سلمہ بن عبدالرحمن اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بیان کیا کہ یہودی کی ایک عورت نے آنحضرت ﷺ خدمت میں بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت ہدیہ پیش کیا تھا لیکن آپؐ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسے کھانے سے روک دیا تھا اور اس عورت سے دریافت فرمایا تھا کہ اسے اس گوشت میں زہر ملانے کے لیے کس نے کہا تو اس نے جواب دیا تھا:

”میں نے اس گوشت میں زہر یہ دیکھنے کے لیے ملایا ہے کہ اگر آپ (ﷺ) سچے نبی ہیں تو اسے فوراً پہچان جائیں گے ورنہ (نعوذ باللہ) ہم لوگوں کا آپ (ﷺ) سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔“

بیہقی مذکورہ بالا حوالے دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپؐ نے اس عورت کے مندرجہ بالا جواب پر اس سے کوئی تعارض نہیں فرمایا تھا۔

بیہقی کے علاوہ ابوداؤد نے بھی ہارون بن عبداللہ اور سعید بن سلیمان کے حوالے سے اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ اسی حد تک ہے اور امام احمدؒ نے بھی یہی بیان کیا ہے البتہ امام احمد نے اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپؐ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس گوشت سے تھوڑا سا کھا بھی لیا تھا لیکن اس کے بعد بھی آپؐ نے اس عورت کو پھر بھی اس کا مندرجہ بالا جواب سن کر معاف فرمایا تھا۔ تاہم اس زہر آلود گوشت کا اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ جب آپؐ ایک بار کسی سفر پر تشریف لے گئے تو آپؐ کے پائے شریف اچانک سن ہو گئے تھے اور یہی اثر آپؐ کے ان صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی ہوا تھا جنہوں نے وہ گوشت تھوڑا بہت چکھا تھا۔ ان میں ابو ہند بھی شامل تھے۔

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ان سے وہب بن یقینہ اور خالد نے محمد بن عمرو اور ابی سلمہ کے حوالے سے بیان کیا کہ اس گوشت کے زہریلے اثر سے بشر ابن البراء بن معرور وقات پا گئے تھے۔

اس روایت میں آنحضرت ﷺ اور آپؐ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاؤں سن ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ (مؤلف)

البتہ بیہقی نے چند دوسرے مستند حوالوں سے جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں بیان کیا ہے کہ اس گوشت کے اثر سے

بشر بن البراء کے وفات پانہانے پر آنحضرت سے سب سے پہلے اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور قتل کر ہی گئی تھی۔
ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے مروان بن عثمان بن ابی سعید بن ابی مطلق نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کے دوران میں جس میں آپ نے وفات پائی بشر بن البراء بن معرور بن بہن سے جو ان دنوں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئی تھیں فرمایا تھا:

”یہ اسی گوشت کے زہر کا اثر ہے جو میں نے اور تمہارے بھائی نے خیبر میں کھایا تھا کاش میں نے تمہارے بھائی کو اس کے کھانے سے روک دیا ہوتا۔“

اس روایت میں حد سے زیادہ غرابت و تکبرت ہے۔ واللہ اعلم (مؤلف)



فصل:

وادئ قرئی کا محاصرہ

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے فراغت کے بعد وہاں سے واپس مدینے کی طرف تشریف لاتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے وادی قرئی میں قیام فرمایا تھا کیونکہ وہاں کے لوگوں کی سرکشی کے بارے میں آپ کو خیبر ہی میں اطلاع مل گئی تھی جس کی مزید تصدیق آپ کے وہاں پڑاؤ کرنے کے فوراً ہی بعد ہو گئی کیونکہ آپ کے ہمراہیوں میں سے مدغم کو کہیں قریب کی کمین گاہ سے ایک ایسا کاری تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وادی قرئی میں آنحضرت ﷺ نے تین روز قیام فرمایا تھا اور وہیں صفیہ رضی اللہ عنہا کی مدت عدت ختم ہوئی تھی جس کے بعد آپ نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا تھا۔

ہم وادی قرئی کی جنگ کی تفصیلات ان شاء اللہ کسی قدر آگے چل کر عنقریب بیان کریں گے تاہم جیسا کہ بیہقی نے بیان کیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ خیبر سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ بنی فزارہ آپ سے جنگ پر آمادہ ہیں اس لیے آپ کو ان کی سرکشی ختم کرنے کے لیے وادی قرئی میں قیام فرمانا پڑا تھا۔

بیہقی نے وادی قرئی کے ذکر کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے آنحضرت ﷺ کی زوجیت میں آنے کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہ تب ہی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں ام المؤمنین کہنے لگے تھے اور آیت حجاب کے نزول کے بعد جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پر پردے کی پابندی آنحضرت ﷺ نے لازم قرار دی تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا صرف آپ کی کنیز ہی نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ آپ کی زوجیت میں آ چکی ہیں۔

امام احمد غزوہ خیبر کے واقعات کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ ان سے یحییٰ بن سعید نے محمد بن یحییٰ بن حبان ابی عمرہ اور زید بن خالد جہنی کے حوالے سے بیان کیا کہ غزوہ خیبر میں ایک مجاہد انتہائی شجاعت کا ثبوت دیتے ہوئے شہید ہو گیا تھا لیکن جب اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو دی گئی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”اپنے ساتھی پر سلام بھیجو“ اور آپ نے مال غنیمت میں سے جب اس کے لیے بھی یعنی اس کے نام سے ایک قلیل حصہ الگ کروایا تو بعض لوگوں کو اس کے ساتھ اس خصوصی رعایت پر حیرت ہوئی تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا:

”اس نے راہ خدا میں شدت کی ہے۔“

ابن اسحاق اپنی کتاب سیرت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ کی شادی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس وقت جب آپ غزوہ خیبر سے واپسی پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے ایک حصے میں فروکش ہوئے تھے انہوں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ:

”صفیہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے خبردار رہنا مناسب ہوگا کیونکہ ان کا باپ اور شوہر غزوہ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔“

اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے اپنی حفاظت کے سلسلے میں ان کے جذبہ کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی تھی۔
بعض لوگوں نے غزوہ خیبر کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ماہ صفر کا واقعہ بتایا ہے جس پر کچھ شعراء نے اشعار بھی کہے تھے۔



فصل:**شہدائے خیبر**

دوسرے سیرت نگاروں کی طرح ابن اہلق بن یسار نے اپنی کتاب سیرت میں باب مغازی کے تحت غزوہ خیبر میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت کا ذکر کیا ہے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

مہاجرین کے ممتاز لوگوں میں بنی اُمیہ کے غلام ربیعہ بن اکثم بن سخرہ اسدی، ثقیف بن عمرو بنی اُمیہ کے حلیف رفاعہ بن مسروح، عبداللہ بن اہیب بن حکیم بن غیرہ اور ان کی بہن کے بیٹے۔

انصار میں سے بشر بن البراء بن معرور جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ بکری کا زہر آلود گوشت کھا کر شہید ہوئے، فضیل بن نعمان السلمیان، مسعود بن سعد بن قیس بن خالد بن عامر بن زریق، زرقی، محمود بن مسلمہ الاشہلی، ابو ضیاح حارثہ بن ثابت بن نعمان العمری، حارث بن حاطب، عمرو بن مرہ بن سراقہ، اوس الفاکد،^۱ انیف بن حبیب، ثابت ابن اثلثہ وطلحہ، عمارہ بن عقبہ، عامر بن اکوع، سلمہ بن عمرو بن اکوع جن کی شہادت کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اسود الراعی۔

ابن اہلق نے اس فہرست میں ابن شہاب کے بیان کردہ جن ناموں کا آخر میں اضافہ کیا ہے وہ بنی زہرہ کے مسعود بن ربیعہ اور انصار میں بنی عمرو بن عوف کے اوس بن قتادہ کے نام ہیں۔



۱ اصحاب میں یہی نام درج ہے کہ کہیں کہیں ان کا نام ابن فاکد اور ابن الفاکد بھی لکھا ہے جو اصل میں الفارض ہے۔ (مؤلف)

حجاج بن علاط الہبزی کا قصہ

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حجاج بن علاط الہبزی نے جو غزوہ خیبر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا اس کی فتح کے بعد آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) جب میں مکے سے چلا تھا تو اس وقت اپنی بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس کافی زر نقد چھوڑ آیا اور اس کے بطن سے جو میرا بیٹا معوض تھا وہ بھی وہیں رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے قریش مکہ کے ساتھ تجارت میں بھی بہت سارو پیہ لگا رکھا تھا اس کا منافع اور اصل نیز میرا کچھ تجارتی مال بھی ابھی تک انہی کے پاس ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں جا کر اپنی یہ سب چیزیں وہاں سے لے آؤں۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے اجازت لے کر حجاج بن علاط مکے روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر پہلے جیسا کہ اس نے بیان کیا اپنی بیوی کے پاس گیا جس نے اس کا سارا زر نقد اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس نے قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں سے مل کر کہا کہ وہ ان کے لیے بڑی خوش کن وحیرت انگیز خبر لایا ہے۔ انہوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا:

”وہ کیا خبر ہے؟“

حجاج بن علاط نے انہیں بتایا:

”محمد (ﷺ) نے ایک بڑا لشکر لے کر خیبر پر یہ حملہ کیا تھا لیکن وہاں شکست کھا کر اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ اہل خیبر کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ مجھے یہاں حنی بن اخطب اور ابن حقیق نے آپ لوگوں کے پاس یہ اطلاع دے کر بھیجا ہے کہ وہ محمد (ﷺ) اور ان کے گرفتار شدہ ساتھیوں کو لے کر یہاں آ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ان سے اپنے بچھنے سارے بدلے چکا سکیں۔“

: ابن اسحاق حجاج بن علاط کی زبانی مزید بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو آپس میں سودی لین دین اور تجارتی مال کا تبادلہ کیا کرتے تھے اور یہی کاروبار خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ حجاج کی زبانی مذکورہ بالا خبر سن کر حد سے زیادہ خوش ہوئے اور ان کا جو زر نقد اور تجارتی سامان جو ان کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا اس خوشی میں سب انہیں لوٹا دیا لیکن وہ اس خوش خبری کی ایک دوسرے کو مبارک دیتے پھر رہے تھے کہ حجاج ابو الفضل عباس بن عبدالمطلب کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا کہ اگر وہ کسی اور کو نہ بتائیں تو وہ ایک خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔

عباس بن عبدالمطلب نے رازداری کا وعدہ کر لیا تو حجاج نے انہیں بتایا:

”آپ کے بھتیجے رسول اللہ (ﷺ) نے خیبر کے یہودیوں کے سارے قلعے فتح کر لیے ہیں جس میں بے شمار یہودی قتل

معاذ اللہ (رضی اللہ عنہ) اور آپ کے صحابہ کرام کے ہاتھ بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا ہے۔ اس کے علاوہ صفیہ بنت حنیٰ ابن اخطب بھی بطیب خاطر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زوجیت میں آ گئی ہیں کیونکہ ابن حنیق کے علاوہ ان کے باپ اور شوہر دونوں غزوہ خیبر میں قتل ہو گئے تھے۔

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کو یہ خبر سنا کر حجاج ان سے بولے۔

”میں تین روز کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ بات میری بیوی کو معلوم ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان ہو گیا ہوں لیکن اگر یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہو گئی تو قریش مکہ مجھے قتل کر دیں گے اس لیے جیسا کہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے یہ بات تین روز تک انہیں نہ بتائیں تو میں آپ کا حد درجہ ممنون ہوں گا۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عباس بن عبدالمطلب کے علاوہ ۱۰۰ مسلمان بھی جنہوں نے خفیہ طور پر ان کے مکان میں پناہ لے رکھی تھی حجاج بن علاط کی زبانی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے عباس جو بظاہر قریش مکہ کے ساتھ تھے دل سے اپنے بھتیجے یعنی رسول اللہ ﷺ کی کامیابی کے خواہاں تھے۔ چنانچہ انہوں نے ”قول مردان جان دارو“ کا پورا ثبوت دیا اور پورے تین دن کے بعد جب یہ خبر حریم کعبہ میں قریش مکہ کو سنائی تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے لیکن اب قریش کا غم و غصہ سب بعد از وقت تھا۔

حافظ بیہقی نے حجاج بن علاط کی اس روایت کو کئی مستند حوالوں کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ حجاج کے بڑے کثیر المال افراد میں شمار ہوتے تھے اور ان کے لیے یہ بھی بڑے امتیاز کی بات تھی کہ ان کی شادی عبدالدار بن قصی کی بہن ام شیبہ سے ہوئی تھی۔ ارض بنی سلیم میں ان کی کانیں تھیں۔ ان پر قریش مکہ کو بڑا ناز تھا لیکن اب وہ ان کے جانی دشمن بن گئے تھے۔



فصل

آنحضرت ﷺ کا وادی قرئی سے گذرنا اس کا محاصرہ اور یہود سے

مصالحت

واقدی کہتے ہیں کہ ان سے عبدالزمن بن عبدالعزیز نے زہریٰ ابی سلمہ اور ابی ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب آخر الذکر دونوں حضرات آنحضرت ﷺ کے ہمراہ خیبر سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو رفاعہ بن زید بن وہب الجرامی نے آپ کی خدمت میں ایک حبشی غلام مدغم نامی نذر کیا جس نے آپ کی رکاب داری کی خدمت انجام دینا شروع کر دی لیکن جب یہ لوگ وادی قرئی میں پڑاؤ ڈال رہے تھے تو وہ حبشی غلام مدغم آپ کی سواری کے سامنے مستعد کھڑا تھا کہ اچانک کسی طرف سے ایک مہلک تیرا سے آ کر لگا جس سے مدغم فوراً ہی جاں بحق ہو گیا اور لوگ بولے:

”یہ نیک بخت کس قدر خوش قسمت تھا کہ آنحضرت ﷺ کی غلامی میں آتے ہی خلد آشیاں ہو گیا۔“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے وادی قرئی کے محاصرے کا حکم دے دیا اور اسلامی علم حباب بن منذر اور اپنا مخصوص علم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کے سپرد فرما کر انہیں یہودیوں کی اس بستی کی طرف دوسرے مجاہدین کے ساتھ بڑھنے کا حکم دیا لیکن انہیں یہ بھی ہدایت فرمادی کہ پہلے انہیں حق پسندی اختیار کر کے اسلام کی دعوت دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ہم ان کے زرو مال وغیرہ کو چھو نہیں گے بھی نہیں اور اپنے آدمی کے خون کا قصاص خدا کے سپرد کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو ان پر حملہ کر دیا جائے کیونکہ لڑائی کی ابتداء انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔

واقدی کہتے ہیں کہ جب مجاہدین اسلام یہودیوں کی اس بستی کی طرف بڑھے تو مذکورہ بالا دو پرچموں کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے دو مزید پرچم فردا فرماہل بن حنیف اور عباد بن بشر کے حوالے کر دیئے تھے۔

چنانچہ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر آنحضرت ﷺ کے حکم کے بموجب پہلے وادی قرئی کے یہودیوں کو دعوت اسلام دی لیکن اس کا موافق جواب دینے کے بجائے ادھر سے ایک آدمی نے نکل کر دستور عرب کے مطابق مسلمانوں سے مبارز طلب کیا تو ادھر سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا اور جب ادھر سے دوسرا آدمی نکل کر شیخی بگھارتا اور دون کی لیتا ہوا آگے آیا تو اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنا ناسموت کے گھاٹ اتار دیا۔

واقدی مذکورہ بالا حوالوں کے ذریعہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ان کے دس آدمی قتل ہو گئے تو انہوں نے یکبارگی مسلمانوں پر حملہ کر دیا جس کے جواب میں مجاہدین اسلام نے بھی ان کے ایک ایک فرد کو جس نے تلوار اٹھائی چن چن کر قتل کر دیا اور باقی کو قید کر لیا۔ وادی قرئی کے یہودیوں سے اس مقابلے میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

واقعی کے بقول وادی قرئی کے یہودیوں سے مسلمانوں کی یہ جنگ شام سے لے کر رات بھر اور اگلے روز طلوع آفتاب کے بعد تک جاری رہی اور مسلمانوں کو اس میں بھی مکمل فتح حاصل ہوئی۔ تاہم آنحضرت ﷺ نے وہاں کے یہود کی زرعی زمینیں اور کھجور کے باغات انہی کے حق میں چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ البتہ انہی میں سے ایک شخص سے حلف و نذرانی و متابعت لے کر اسے وہاں کا عامل مقرر فرما دیا۔ اس طرح وادی قرئی میں آنحضرت ﷺ کا قیام چار روز رہا۔

جب خیبر، فدک اور وادی قرئی کے یہودیوں کے انجام کی خبر تینا کے یہودیوں کو ملی تو انہوں نے آنحضرت (ﷺ) کی خدمت میں صلح کا پیغام بھیج کر جزیہ پر آپ سے مصالحت کر لی۔ اس طرح خیبر، فدک، وادی قرئی اور تینا کے یہودیوں سے جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس نے انہیں خدا کے فضل و کرم سے مالا مال کر دیا۔

چونکہ وادی قرئی اور تینا کے یہودیوں سے جزیہ پر مصالحت ہوئی تھی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب خیبر اور فدک کے یہودیوں کو ان کی مسلسل سرکشی اور چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا تو وادی قرئی اور تینا کے یہودیوں سے اس مصالحت کی بنا پر کچھ نہیں کہا گیا۔ دوسرے وادی قرئی کا علاقہ شام سے نزدیک تر ہونے کی وجہ سے شام میں اور نیا کا علاقہ مدینے سے نزدیک تر ہونے کی وجہ سے اس وقت حجاز میں شامل کر لیا گیا تھا۔



فصل:

فتح خیبر کے بعد یہودیوں سے شرائط

عیسائین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں لکھا ہے کہ فتح خیبر کے بعد آنحضرت ﷺ نے وہاں کے یہودیوں سے یہ اقرار فرمایا تھا کہ ان کی زرعی زمینوں اور کھجوروں کے باغات کی سالانہ آمدنی کا طے شدہ حصہ وہ مدینے بھیجا کریں گے اور اس کے حساب کتاب اور خیبر کے انتظامی امور کی نگرانی کے لیے آپ نے انہی کا ایک شخص وہاں مقرر فرمایا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ نے اس کام کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو وہاں اس لیے بھیجا تھا تا کہ وہ کھجوریں پکنے اور فصلیں کننے کے اوقات میں وہاں موجود رہیں اور ان کی آمدنیوں کا باقاعدہ حساب کر کے ان کی جانچ پڑتال کیا کریں۔

عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب جنگ موتہ میں شہادت پا گئے تو پھر ان کی جگہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے جبار بن صخر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان جملہ امور کا ذکر ہم ان شاء اللہ کتاب المزارعت اور کتاب الاحکام میں تفصیل سے کریں گے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن شہاب سے دریافت کیا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر کے یہودیوں کو ان کے کھجوروں کے باغات کیوں سپرد فرمادینے تھے جب کہ خیبر کو جدال و قتال کے بعد فتح کیا گیا تھا؟ اس کے بعد ابن اسحاق سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جب یہود خود اپنی مرضی سے خیبر چھوڑنے اور جلاوطن ہونے کے لیے تیار تھے تو آپ نے ان سے یہ معاہدہ کیوں فرمایا تھا۔

ابن شہاب کا جواب یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر کے باقی ماندہ یہودیوں کو طلب فرما کر ان سے فرمایا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کی املاک ضبط کر سکتے ہیں یا اسے کسی اور کے حوالے فرما سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ وہاں سے نہ جائیں تاہم ان کی زرعی زمینوں اور کھجوروں کے باغات سے جو آمدنی ہو اس کا نصف وہ مدینے بھیج دیا کریں۔ اس کے علاوہ جزیہ کی ایک رقم بھی وہ سالانہ مدینے بھیجا کریں جس کا انہوں نے وعدہ کر لیا تھا۔ ان تمام امور کے لیے پہلا انہی کا ایک آدمی مقرر کیا گیا تھا لیکن بعد میں اذلا اس کام کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا اور ان کے بعد جبار بن صخر رضی اللہ عنہ کا بطور عامل وہاں تقرر کیا گیا تھا۔

آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ وہی زبانی معاہدات جاری رکھے جو آپ کے زمانے میں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ عرصہ انہی معاہدات اور انتظامات کو براہ راست مرکز خلافت مدینے سے جاری رکھا لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی مرض الموت کے زمانے میں فرمایا تھا کہ ”جزیرۃ العرب میں دودین (بیک وقت) نہیں رہ سکتے“ اور اس کی تصدیق بھی ہوگی تو انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو کہلا بھیجا کہ:

”خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں خیبر سے جلاوطن کر دوں کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب میں دو دین ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بہر کیف اگر اس کے برعکس آنحضرت ﷺ اور آپ لوگوں کے مابین کوئی تحریری معاہدہ موجود ہو تو وہ پیش کیا جائے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے جواب میں خیبر کے یہودیوں کی طرف سے ایک تحریری معاہدہ پیش کیا گیا جس کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ وہ سال نہم ہجری میں تحریر کیا گیا۔ اس معاہدے میں تحریر تھا کہ خیبر کے یہودیوں کو اس سال سے نہ صرف جزیہ معاف کیا جاتا ہے بلکہ ان کی زرعی زمینوں اور کھجوروں کے باغات کا لگان بھی اس سال سے موقوف کیا گیا۔

جب اس معاہدے پر غور کیا گیا تو صاف معلوم ہو گیا کہ وہ معاہدہ جو خیبر کے یہودیوں نے پیش کیا تھا سراسر جعلی تھا۔ اس کے جعلی ہونے کا ثبوت تین باتوں سے ملا جس کی تردید ناممکن تھی۔

اول یہ کہ خیبر کے پیش کردہ معاہدے پر پہلی گواہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تھی جو غزوہ خیبر سے قبل وفات پا چکے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس معاہدے پر بطور گواہ معاویہ بن ابی سفیان کے دستخط تھے جو غزوہ خیبر تک اسلام ہی نہیں لائے تھے۔ تیسرے یہ کہ وہ معاہدہ مہینہ طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا تھا جو تصدیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بھی غلط تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے انخلاء کا فرمان جاری کر دیا۔

خیبر کے یہودیوں نے تیسری اور نویں صدی ہجری میں اس معاہدے کے ان کے پاس ہونے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ زیادتی اور ان کے فیصلے کے خلاف یہ کہہ کر شور مچایا کہ بعض مؤرخین نے اپنی کتابوں میں اس معاہدے کا ذکر لفظ ”شاید“ کے ساتھ کیا تھا لیکن جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا گیا وہ اس کا ثبوت پیش کرنے سے ہمیشہ قاصر رہے۔



سال ہفتم ہجری کی چند دیگر اسلامی مہمات

ماظہ بیہقی نے جیسا کہ صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں بھی درج کی گئی ہیں عمرۃ القضیہ کے علاوہ سال ہفتم ہجری کے مغازی کے ضمن میں فتح خیبر کے بعد چند دیگر اسلامی مہمات کا بھی ذکر کیا ہے جن کا ذکر مؤرخین مغازی اور اہل مغازی کے بیانات میں وضاحت کے ساتھ نہیں پایا جاتا بیہقی نے انہیں اپنی مؤقر کتاب ”الدلائل“ میں حسب ذیل ترتیب سے بیان کیا ہے۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بنی فزارہ کے خلاف مہم:

امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے یکے بعد دیگرے بہز، عکرمہ بن عمار، ایاس بن سلمہ اور خود امام موصوف کے والد نے بیان فرمایا کہ:

”ہم لوگ حضرت ابوبکر ابن ابی قافہ (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے حکم پر بنی فزارہ کے خلاف جنگ کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے۔“

اس کے بعد امام احمد ایاس بن سلمہ کی زبانی بیان فرماتے ہیں:

”جب ہم مدینے سے بنی فزارہ کی بستی کے نزدیک پہنچے تو راستے میں ان کا جو شخص بھی ہم سے جنگ پر آمادہ نظر آیا ہم نے اسے قتل کر دیا حتیٰ کہ ہم بنی فزارہ کے کنوئیں تک پہنچ گئے جہاں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ کا حکم دیا لیکن بنی فزارہ کے لوگ ہماری آمد کی خبر سنتے ہی پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ ہم نے اگلے روز صبح کی نماز کے بعد پہاڑ پر چڑھ کر ان کا تعاقب کیا اور جہاں جہاں وہ ملے انہیں ٹھکانے لگاتے گئے۔ آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال لیے اور ہم نے ان کے باقی ماندہ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ وہیں مجھے شکستہ کپڑوں میں عرب کی ایک حسین ترین لڑکی اور اس کی ماں بھاگتی نظر آئی تو میں نے اس لڑکی کو پکڑ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا لیکن انہوں نے وہ لڑکی مجھے ہی بخش دی۔“

ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں:

”جب ہم غزوہ بنی فزارہ سے فارغ ہو کر مدینے واپس پہنچے تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ تھی۔ اس وقت میں مدینے کے ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ ﷺ سامنے آ گئے۔ آپ نے میرے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر فرمایا: ابن سلمہ! ”یہ لڑکی تم ہمیں دے دو“ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس شکستہ لباس والی لڑکی کو کیوں طلب فرما رہے ہیں؟“

ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

”میرے اس سوال پر آنحضرت ﷺ نے سکوت فرمایا اور کچھ جواب دیئے بغیر، ہاں سے تشریف لے گئے لیکن اس کے بعد جب آپ نے دوبارہ پھر وہ لڑکی مجھ سے طلب فرمائی تو میں نے اس لیے کہ مجھے آپ کی خواہش کا احترام اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا اسے بلا عذر آپ کے سپرد کر دیا لیکن مجھے آپ کے بار بار اس ارشاد پر حیرت سرور ہوتی تھی۔“

آخر میں ابن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد جب ان مسلمان قیدیوں کے عوض جو اس وقت تک قریش مکہ کے پاس تھے وہی لڑکی بطور فدیہ کئے بھیجی گئی تو انہیں آنحضرت ﷺ کی اس پر اصرار طلب کا مفہوم معلوم ہوا اور ان کی حیرت ندامت میں تبدیل ہو گئی۔

یہ واقعہ مسلم و بیہقی نے بھی عکرمہ بن عمار کی زبانی بیان کیا ہے۔



حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدینے سے چارمیل دور تربت کی طرف ایک مہم پر روانگی

بیہقی واقدی کے ذریعہ اور کئی دیگر مستند حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تیس مجاہدین کا ایک عسکری زسالہ اور اس کے ساتھ راستہ بتانے کے لیے بنی ہلال کا ایک شخص اہل تربت کے سرکش لوگوں کی سرکوبی کے لیے جو مدینے سے چارمیل کے فاصلے پر بغاوت کے لیے جمع ہو رہے تھے روانہ فرمایا۔

یہ لوگ مدینے سے روانہ ہو کر رات کے وقت قیام اور دن کو خاموشی سے راستہ بدل بدل کر سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے معمولی سی جنگ کے بعد ان دشمنانِ خدا و اسلام کو زیر کیا اور جلد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر مدینے واپس آ گئے۔

بیہقی کہتے ہیں کہ مدینے واپسی پر کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا:

”اس معمولی سے دشمن کے ساتھ اس چند روزہ لڑائی سے کیا فائدہ ہوا؟“

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے سرکش ہوازن کی سرکوبی کا حکم دیا تھا جس کی میں نے تعمیل کر دی۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس مختصر جواب سے مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی تعمیل ارشاد سے انہیں جو فائدہ پہنچا تھا کیا وہ کچھ

کم تھا؟۔



یسیر بن رزام یہودی کے خلاف عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی مہم

نبیہتی ہی ابراہیم بن لہیعہ کی زبانی اور ابو الاسود عمروہ موسیٰ بن عقبہ اور زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو تیس سو سواروں کا ایک رسالہ دے کر جس میں خود عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے یسیر بن رزام یہودی کے خلاف جس کے بارے میں بغاوت کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں ہم پر روانہ فرمایا۔

یسیر بن رزام مذکورہ بالا اسلامی مجاہدین کے رسالے کی مدینے سے روانگی کی خبر پا کر خیبر کی طرف فرار ہوا لیکن جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب میں وہاں پہنچے تو انہوں نے اسے بلا کر اپنے سواروں کی صف کے سامنے کھڑا کیا اور اسے یہ بتا کر کہ جب خیبر کے یہودی مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں تو اس کی سرکشی اور ادھر ادھر فرار بے کار ہوگا اسے نرمی سے سمجھایا کہ وہ بھی بغیر لڑے بھڑے اطاعت قبول کر لے تو اس کی جان بچ جائے گی۔

یسیر نے اس وقت تو آئیں بائیں شائیں کر کے بات مال دی لیکن موقع پا کر خیبر سے بھی بھاگ نکلا اور اس کے ساتھی بھی رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ ہو لیے۔

جب یسیر خیبر سے جان بچا کر بھاگا تو اس کے بعد اس نے قرقرہ میں پناہ لینا چاہی جو خیبر سے چھ میل کے فاصلے پر واقع ہے لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی اسے اس طرح آسانی سے بخشنے والے نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسے قرقرہ میں بھی جا گھیرا لیکن اس نے اپنا اونٹ ان کی سواری کے قریب لاکر تلوار چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹ کر اس پر حملہ کر دیا۔ تاہم یسیر کے پیچھے ہٹ جانے سے ان کی تلوار اس کے گھٹنے پر پڑی اور اسے پاؤں سے الگ کرتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ اس طرح یسیر کو ذرا سا موقع ملا تو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا کٹڑی کا سخت اور مضبوط ڈنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر اتنے زور سے مارا کہ ان کا منہ شدید زخمی ہو گیا۔ لیکن ان کے ساتھیوں نے جو ان کے پس پشت اور دائیں بائیں اپنی اپنی سواریوں پر ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مستعد اور بے بیٹھے تھے آگے بڑھ کر یسیر کو فوراً قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں میں سے بھی کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑا۔

نبیہتی آخر میں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر زخم کے علاوہ اس ساری مہم میں ان کا کوئی ساتھی کام نہیں آیا بلکہ کسی کے خراش تک نہیں آئی اور جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس مہم میں سرخرو ہو کر مدینے واپس آئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان کے منہ کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا جس سے وہ زخم فوراً مندمل ہو گیا اور اس کے بعد ان کی وفات تک اس میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی آخری مہم

واقدی کی متعدد مستند حوالوں کے ساتھ روایت کے مطابق آنحضرت ﷺ نے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو تیس سو سواروں کا لشکر مسلمانوں کے قریب بنی مرہ کی سرکشی و بغاوت فرو کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا جہاں ان لوگوں سے ان کی بڑی زبردست جنگ ہوئی اور ان باغیوں کے کثیر تعداد میں افراد قتل ہونے کے علاوہ مسلمانوں کو بھی خاصا جانی نقصان پہنچا تھا لیکن بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں حد سے زیادہ شجاعت اور صبر و استقامت کا ثبوت دیا تھا۔

بنی مرہ کے ساتھ اس جنگ سے فارغ ہونے اور وہاں اسلامی اقتدار قائم کرنے کے بعد بشیر رضی اللہ عنہ فدک چلے گئے تھے اور انہوں نے وہاں کے ایک جزیرہ گزر ایہودی کے ہاں قیام کیا تھا اس کے بعد وہ مدینے واپس آ گئے تھے۔

واقدی کی مذکورہ بالا روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب بنی مرہ کی دوبارہ سرکشی کی اطلاع مدینے پہنچی تھی تو آنحضرت ﷺ نے ان کی سرکوبی کے لیے غالب بن عبد اللہ کو روانگی کا حکم دیا تھا اور ان کی مدد کے لیے متعدد دوسرے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس طرف روانہ فرمائے تھے جن میں اسامہ بن زید ابو مسعود البدری اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔

واقدی بیان کرتے ہیں کہ اب کے بار بنی مرہ کے ساتھ مرداس بن نہیک بھی جو ان کا حلیف تھا شامل ہو گیا تھا اور سب سے پہلے وہی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تھا لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے اسے اور کچھ کہنے کی مہلت نہ دی اور اس پر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس نے پہلے ہی وار میں ان کے قدموں میں گر کر دم توڑ دیا۔

جب دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مرداس کے وجود باری تعالیٰ اور اس کی توحید کا اقرار کر لینے کے بعد اسے قتل کرنا مناسب نہ تھا اور انہوں نے اس پر اظہار بھی کیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ خود بھی اپنی اس لغزش پر بہت شرمندہ ہوئے۔

واقدی بیان کرتے ہیں کہ جب اس واقعے کا ذکر مذکورہ بالا صحابہ نے مدینے میں واپسی کے بعد آنحضرت ﷺ سے کیا تو آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جب مرداس نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اسے قتل کیوں کیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”یا رسول اللہ! (ﷺ) اس نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا۔“

اس پر آپ نے کئی بار ان سے فرمایا کہ آیا وہ درحقیقت اس کلمہ کے اقرار کا صحیح مطلب سمجھتے تھے اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ کاش وہ (اسامہ رضی اللہ عنہ) اسی روز مسلمان ہوئے ہوتے۔

واقدی مزید بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مذکورہ بالا مہم پر غالب بن عبد اللہ کو روانہ فرماتے ہوئے انہیں بنی قریظہ کی سرکشی کی روک تھام کا بھی حکم دیا تھا اور وہ اس سے کامیاب ہوئے تھے۔

وہ مہم جس میں حکم بن جثامہ نے عامر بن اضبط کو قتل کر دیا تھا

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے یزید بن عبداللہ بن قسیط نے ابن عبداللہ بن ابی حدرد کے حوالے اور آخر الذکر کی زبانی بیان کیا کہ انہیں یعنی ابی حدرد کے والد کو آنحضرت ﷺ نے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جن میں ابو قتادہ الحارث بن ربیع اور حکم بن جثامہ بن قیس بھی شامل تھے اضم کی طرف روانہ کیا جہاں سے کچھ لوگوں کی سرکشی و بغاوت کی خبر ملی تھی لیکن جب یہ لوگ اضم میں داخل ہوئے تو انہیں عامر بن اضبط اشجعی کچھ لوگوں کے ساتھ ایک طرف جاتے ہوئے ملے۔ ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھی دودھ سے بھرے برتن، کھجوریں اور کچھ دوسرا سامان اٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔

ابی حدرد کے والد کا بیان ہے کہ عامر بن اضبط اشجعی انہیں اور ان کے ساتھی مجاہدین کو دیکھ کر ٹھہر گئے اور انہیں بڑے تپاک سے اسلامی طریقے سے سلام لیکن حکم بن جثامہ جیسا کہ انہوں نے بعد میں بیان کیا عامر بن اضبط کے اس طرز تپاک اور سلام کو دھوکا سمجھے اور انہوں نے بلا توقف اور کسی سوچ بچار کے بغیر میان سے تلوار نکال کر عامر کو قتل کر دیا اور جو سامان ان کے ساتھی لیے جا رہے تھے چھین لیا۔ جب اس واقعے کی خبر دی گئی تو مندرجہ ذیل آیت شریفہ آپ پر نازل ہوئی۔

ابی حدرد کے والد کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل آیت شریفہ کی شان نزول یہی واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے ذریعہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا..... الخ﴾

یہ روایت کم و بیش انہی الفاظ میں امام احمد نے بھی یعقوب ان کے والد محمد بن اسحاق یزید بن عبداللہ بن قسیط ققتاق بن عبداللہ بن ابی حدرد اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کی ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن جعفر نے زیاد بن ضمیرہ بن سعد الضمری سے سن کر بیان کیا اور بتایا کہ زیاد نے عروہ بن زبیر ان کے والد اور دادا سے سنا کہ آخر الذکر دونوں باپ بیٹے غزوہ حنین میں شریک تھے جب وہاں آنحضرت ﷺ نے نماز ظہر ایک درخت کے سائے میں ادا فرمائی اور پھر اسی کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ اسی وقت آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر عیینہ بن بدر نے جو عامر بن اضبط اشجعی کے قبیلے کے سردار تھے آپ سے عامر کا خون بہا طلب کیا۔ اس پر جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے حکم سے انہیں پچاس اونٹوں کی اسی وقت پیشکش کی اور ان سے کہا کہ پچاس اونٹ مدینے واپسی پر انہیں بھیج دیئے جائیں گے۔ اس پیشکش پر عیینہ بن بدر بولے:

”میں عامر کا خون بہا کبھی طلب نہ کرتا اگر اس کی بیوی کا انتہائی حزن و ملال کسی اور طرح دور کر سکتا۔“

اس کے بعد عامر بن اضبط کے قبیلے کے ایک کوتاہ قیامت شخص نے اٹھ کر کہا:

”مجھے عامر کے دعویٰ اسلام اور اس پر فخر کے سلسلے میں نہ آج کوئی شبہ ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔“

اس روایت میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ اسی وقت ایک اور کلمہ شمیم شخص نے جس کا نام اس کی حد سے زیادہ ۱۰۰ جامت کی وجہ سے اس کے سینے میں سامنا مشکل ہو رہا تھا تو ریاں چڑھا کر کہا:

”ہم عامر کا خون تم کو بھی معاف نہیں کریں گے“ یہ بات اس نے نمن بار کہا۔

بہر کیف جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا:

”اگر تم لوگوں کو پچاس اونٹ عامر کے خونہا کے طور پر ابھی دے دیئے جائیں اور پچاس مدینے سے وہاں واپسی پر بھیج

دیئے جائیں تو کیا وہ تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہیں؟“۔

آنحضرت ﷺ کی زبان سے یہ سن کر عامر کے اہل قبیلہ نے جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے ملحم بن جثامہ کو عامر کا

خون معاف کر دیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے سالم ابو العضر نے بیان کیا کہ عامر کے قبیلے والے اس کا خون بہا لینے پر راضی نہ تھے لیکن جب

انہیں اقرع بن حابس نے تخیلے میں لے جا کر کہا:

”کیا تم لوگ اللہ کے رسول سے عامر کا خون بہا طلب کر رہے ہو اور وہ دنیا بھی چاہتے ہیں تو تم مانتے نہیں جب کہ

آنحضرت ﷺ لوگوں میں اس طرح صلح صفائی کرانا چاہتے ہیں۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ رسول اللہ ﷺ تم سے

ناراض ہو کر تم پر لعنت بھیجیں اور اس کی وجہ سے خدا بھی تم سے ناراض ہو اور تم پر لعنت بھیجے؟ اس کے علاوہ کیا تم یہ پسند

کرو گے کہ بنی تمیم کے پچاس افراد یہ گواہی دیں کہ عامر درحقیقت کافر تھا“۔

ابن اسحاق مذکورہ بالا حوالے ہی سے کہتے ہیں کہ اقرع بن حابس کا آخری سوال سن کر عامر کے اہل قبیلہ بہت شیشائے اور

اس کا خون بہا لینے پر راضی ہو گئے۔

مشہور ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ملحم سے مذکورہ بالا ناخوش گوار واقعہ پر باز پرس فرمائی تو اس نے جواب دیا کہ اس

نے عامر کو قتل کرنے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی تھی لیکن اس کے انکار پر اسے قتل کرنا پڑا۔ تاہم ملحم اپنی وفات تک ہمیشہ

کرب میں مبتلا رہا اور جب اس کا انتقال ہوا اور اسے دفن کیا گیا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا اور جب ایسا کئی بار ہوا تو اسے

ایک پہاڑی گڑھے میں ڈال کر اس پر زنی پتھر رکھ دیئے گئے۔

جب آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ خاک نے خود کثیف ہونے کے باوجود اسے قبول نہیں

کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جسم خاک سے بھی اپنے شرکی وجہ سے زیادہ کثیف تھا۔

ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے ملحم کی تدفین کا واقعہ سن کر ارشاد فرمایا:

”خاک اگرچہ کثیف سے کثیف جسم کو قبول کر لیتی ہے لیکن ملحم کی لاش کو اس نے قبول نہیں کیا اور بار بار باہر پھینکی اس کی

وجہ اسے تم لوگوں کے لیے درس عبرت بنانا تھا۔ بہر حال مندرجہ بالا آ یہ شریفہ کی شان نزول اور اس کی تفسیر ہم ان شاء

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ”تفسیر“ میں پیش کریں گے۔“

عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی مہم

صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک انصاری عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں کچھ مجاہدین کا ایک عسکری دستہ دے کر انہیں ایک غزواتی مہم پر روانہ فرماتے وقت ان کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے سربراہ کی قطعاً حکم عدولی نہ کرے بلکہ اس کے ہر حکم کی فوراً تعمیل کی جائے لیکن راستے میں عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ ان کے ماتحت فوجی دستے کا ہر فرد من مانی کرنے پر تیار ہوا ہے۔

اس صورت حال پر غور کرنے کے بعد عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر وہی صورت حال قائم رہی تو جس غزواتی مہم پر آنحضرت ﷺ نے انہیں بھیجا ہے اس میں سرخروئی حاصل ہونے کی بجائے یقیناً ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

چنانچہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے یہ ترکیب نکالی کہ انہوں نے اپنے ماتحت فوجی دستے کو راستے میں ایک جگہ ٹھہرا کر اسے حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص ادھر ادھر سے سوکھی لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے۔ جب لکڑیاں لالا کر ایک جگہ جمع کر دی گئیں تو عبداللہ نے اپنے ماتحتوں کو دوسرا حکم یہ دیا کہ ان لکڑیوں کو آگ لگائی جائے۔ جب ان لکڑیوں سے شعلے اُٹھنے لگے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا حکم یہ تھا کہ ان کے اس فوجی دستے کا ہر شخص باری باری سے اس آگ میں داخل ہو۔

عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے اس حکم پر ان کے اس فوجی دستے کا ہر فرد ہچکچا کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا۔

یہ دیکھ کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ غصے سے بولے:

”اب تم ایک دوسرے کے منہ کیا دیکھ رہے ہو، کیا تمہیں رسول اللہ (ﷺ) نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گے؟“

عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فوجی دستے کے ہر فرد سے یہی سوال باری باری کیا اور جب اس نے ان کے اس سوال کا جواب سر جھکا کر اثبات میں دیا تو اس وقتے میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا صرف غصہ ہی فرو نہیں ہوا بلکہ وہ لکڑیاں بھی جل بجھ کر رکھ ہو گئیں اور یہ دیکھ کر عبداللہ بھی مسکرا کر خاموش ہو گئے۔

جب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ مذکورہ بالا مہم سر کرنے کے بعد واپس مدینے پہنچے اور آنحضرت ﷺ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے اس عسکری دستے کو مخاطب کر کے فرمایا:

”اگر تم لوگ عبداللہ کے اس آخری حکم پر اس بھڑکتی آگ میں داخل ہو بھی جاتے تو اپنے پیچھلے باغیانہ خیالات کی

بدولت سزا کے طور پر اس سے کبھی زندہ نہ نکل سکتے۔“ (حدیث نبوی کا تشریحی ترجمہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عمرۃ القضاء

سہیلی نے اس عمرۃ القضاء کو حدیبیہ کے تضا شدہ عمرہ کی پہلی تلافی کے طور پر بیان کیا ہے جس کے بعد دوسری اور مکمل تلافی آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے فتح مکہ کی صورت میں حاصل ہوئی۔

بہر کیف یہ عمرہ وہ ہے جس کے لیے قریش نے آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مکے میں داخلے کی یہ شرط رکھی تھی کہ ان میں سے کوئی شخص مسلح نہ ہو اور تین روز سے زیادہ وہاں قیام نہ کرے۔

یہ وہی عمرۃ مذکورہ ہے جس کے قضا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مندرجہ ذیل آیہ شریفہ میں آئندہ فتح مکہ کا مشورہ سنایا تھا:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ..... الخ﴾

اس آیہ شریفہ کی مفصل تفسیر ہم نے اپنی کتاب التفسیر میں پیش کی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے اس تسلی آمیز ارشاد پر بھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمیت بیت اللہ میں عنقریب داخل ہو کر اس کا طواف کریں گے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ (مؤلف)

یہ عمرہ رسول اللہ ﷺ کے اس رویائے صادقہ کی تعبیر تھا جو آپ نے طلوع سحر کی طرح ملاحظہ فرمایا تھا اور جس کا ذکر واقعہ حدیبیہ کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر سے مدینے میں واپس تشریف لا کر وہاں سات مہینے یعنی پورے ربیع الثانی سے لے کر جمادی الاول، جمادی الثانی یا جمادی الآخر جب شعبان، رمضان اور شوال تک وہاں قیام فرمایا اور اس دوران میں آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو مختلف غزواتی مہمات پر روانہ فرمایا اور اس کے بعد ماہ ذیقعدہ میں مشرکین کے صدر مقام مکے کی طرف روانگی کا قصد فرمایا جب قریش مکہ کے ساتھ آپ کے وہاں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے کا ایک باہمی معاہدے کی رو سے وقت آ گیا تھا۔

ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر سے واپسی اور چند غزواتی مہمات سے فارغ ہو کر ماہ ذیقعدہ میں عمرۃ القضاء کے لیے جسے ارشاد ربانی ”والحرمات قصاص“ الخ کے مطابق عمرۃ قصاص بھی کہا جاتا ہے مکے کا قصد فرمایا تھا اور اس دفعہ آپ نے مدینے کی نگرانی کے لیے عوف بن اضبط دہلی کو مقرر فرمایا تھا۔

ابن ہشام مزید بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ مکے میں داخل ہوئے تو ماہ ذیقعدہ سال ششم ہجری کا آخری دن

تھا لیکن چونکہ اس وقت ماہ محرم الحرام سال ہفتم ہجری کا چاند نظر آچکا تھا اس لیے تاریخی لحاظ سے مکے میں آپ کے داخلے کو سال ہفتم ہجری کا واقعہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مرۃ القضاء یا مرۃ قضا کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان سے ابن ہشام کے بیان کی تائید ہوتی ہے۔ معتمر بن سلیمان "مغازیہ" میں اپنے والد کے بیان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر ت واپسی اور چند غزواتی مہمات سے فراغت کے بعد (ان مہمات کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں) مدینے میں کچھ عرصہ قیام فرما کر لوگوں کو مکے کے سفر کی تیاری کا حکم دیا اور پھر آپ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس طرف روانہ ہو گئے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ قریش کے ساتھ معاہدے کی رو سے صلح حدیبیہ کے تیسرے سال مکے میں داخل ہوئے اور قطار در قطار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف جانے لگے تو قریش مکہ آپ کو اور انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے خصوصاً عمرہ کے لیے آپ کے اشتیاق اور جدوجہد کو دیکھ کر عرش عرش کرنے لگے۔

ابن اسحاق عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی مزید بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ دارالندوہ سے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو صفیں باندھ کر نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور مقام استیلام پر پہنچ کر حجر اسود کا تین بار طواف کیا جسے کچھ متعصب قریش نے آپ کا آخری عمرہ یا حجۃ الوداع سے تعبیر کیا تھا حالانکہ حجۃ الوداع اس کے بہت بعد کا واقعہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے رکنین کے درمیان اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو رمی کا حکم دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ کنکریاں پھینکنے میں قوت کا مظاہرہ کریں تاکہ قریش کو ان کی قوت کا اندازہ ہو جائے۔ ویسے قریش مکے میں آپ کی صف بندی اور نظم و ضبط کے مظاہرے ہی سے آپس میں کہنے لگے تھے کہ "یہ لوگ مکے پر مدینے کی اہمیت و فوقیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔"

مسلم ابی یحییٰ زہرانی اور حماد بن زید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور یہ واقعہ یہی ہے جو بھی حماد بن سلمہ کے حوالے سے نیز بخاری نے علی بن عبد اللہ سفیان، اسماعیل بن ابی خالد کے حوالے سے ابن ابی اوفیٰ کی زبانی بیان کیا ہے کہ اس عمرہ کے لیے مکے میں داخلے کے وقت آنحضرت ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو مشرکین کے نوجوانوں اور ان لوگوں سے بچا بچا چل رہے تھے جنہوں نے آپ کو ہجرت سے قبل ایذا رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور مکے میں داخلے سے لے کر بیت اللہ پہنچنے تک عبد اللہ بن رواحہ نے آپ کے اونٹ کی خطام تھام رکھی تھی۔ اس واقعے کی تائید عبد اللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی کی ہے۔

یونس بن بکیر نے ہشام بن سعد اور زید بن اسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس عمرہ کے موقع پر بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار رہتے ہوئے اور حجر اسود کا طواف پیادہ پا فرمایا تھا اور یہ کہ جب آپ اونٹ پر سوار رہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو اس وقت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آپ کے اونٹ کی رسی پکڑے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا دِیْنَ اِلَّا دِیْنُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُهٗ

خَلُوْبِنِی الْکِفَارِ عَنْ سَبِیْلِهٖ

پیشقدمی: اللہ کے نام سے جس کے دین کے سوا کوئی دین نہیں اس کے نام سے محمد جس کے رسول ہیں۔ اپنا نفاذ آپ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔“

موسیٰ بن عقبہ زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ صلح حدیبیہ کے مطابق ٹھیک تین سال بعد عمرہ القضاء کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے اور جب آپ ارکان عمرہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ کے جو نو جوان آپ کی سواری کے سامنے آجاتے تھے انہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے اونٹ کی رسی تھامے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ کے راستے سے ہٹنے کی بار بار ہدایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی نبوت کی شہادت پر مبنی اشعار پڑھتے جاتے تھے جن میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ آپ کا اس شان سے مکہ میں داخلہ آپ کی صداقت نبوت کا مدلل ثبوت ہے حالانکہ اس وقت نہ آپ مسلح تھے اور نہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے پاس کوئی ہتھیار تھا۔ تاہم مکہ کے مشرکین جو اپنی قوم کے معزز ترین لوگ سمجھے جاتے تھے آپ کو تیوریاں چڑھا چڑھا کر اور غصے ہی سے سہی بڑے رشک و حسد سے دیکھ رہے تھے اور وہی کیا بلکہ مکہ کے تمام بوڑھے بچے، مرد، عورتیں آنحضرت کو دیکھنے کے لیے جوق در جوق اُمدے چلے آ رہے تھے۔

آنحضرت ﷺ نے عمرہ سے فارغ ہو کر جعفر بن ابی طالب کو میمونہ بنت حارث العامریہ کے پاس ان کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے بھیجا جنہیں آپ نے جناب عباس رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں چھوڑا ہوا تھا اور جن سے بعد میں انہوں نے آپ کی شادی کی تھی۔

آنحضرت ﷺ نے مکہ میں تین شب و روز قیام فرمایا اور جب چوتھے روز صبح کے وقت آپ کو وہاں سے واپس مدینے روانہ ہونا تھا تو آپ کے پاس سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ آئے۔ آپ اس وقت انصار کی مجلس میں بیٹھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو میں مصروف تھے۔ حویطب بن عبد العزیٰ نے بیٹھتے ہی کہا:

”صلح نامے کی رو سے آپ کو مکہ میں تین روز قیام کرنا تھا اور اب آپ عمرہ سے بھی فارغ ہو چکے اور تین روز کی مدت بھی ختم ہو چکی۔ لہذا ہمیں آپ کی یہاں سے روانگی کا شدت سے انتظار ہے کیونکہ یہ سرزمین ہماری ہے اور ہم یہاں کسی اور کو زیادہ قیام کی اجازت نہیں دے سکتے۔“

حویطب بن عبد العزیٰ کی زبان سے یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ کہا:

”یہ سرزمین نہ تمہاری ماں کو وراثت میں ملی ہے نہ تمہارے باپ کو لہذا اس پر.....“

سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ابھی کچھ اور کہنے والے تھے لیکن آنحضرت ﷺ نے انہیں روک دیا اور اسی وقت بلا تاخیر مکہ سے واپس روانگی کا حکم دے دیا لیکن ساتھ ہی آپ نے سہیل اور حویطب کو مخاطب کر کے فرمایا:

”یہاں ایک عورت مجھ سے نکاح پر راضی ہے میں چاہتا تھا کہ اس سے یہیں شادی کر لوں جس کے بعد ہم اور آپ لوگ

ایک۔ ماتھ کھانے میں شریک ہوں۔“

لیکن ان دونوں نے یک زبان ہو کر کہا:

”م پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہاں سے آپ کی روانگی کا فوری طور پر شدت سے انتظار ہے۔“

چنانچہ آپؐ نے جناب عباس رضی اللہ عنہ کے مکان پر کسی کو بھیج کر ان سے کہا! بھیجا کہ اگر میمونہ مدینے جانا چاہیں تو فوراً آپ کی قیام گاہ پر آ جائیں۔ چنانچہ وہ جناب عباس رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر بلا توقف اس شخص کے ساتھ آپ کی قیام گاہ پر پہنچ گئیں۔

جب آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکے سے روانہ ہونے لگے تو آپؐ نے ابورافع کو حکم دیا کہ وہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا سامان جناب عباس رضی اللہ عنہ کے مکان سے لے آئیں اور انہیں ناتقے پر سوار کر کے آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں۔

رسول اللہ ﷺ نے مکے سے روانہ ہو کر پہلے سرف میں قیام فرمایا جہاں ابورافع بھی میمونہ رضی اللہ عنہا کے ناتقے کی مہارتھامے پہنچ گئے اور وہیں آپؐ نے میمونہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے کر انہیں حق مہر میں چار سو درہم ادا کر دیئے لیکن میمونہ رضی اللہ عنہا کی

قسمت میں ام المؤمنین کی حیثیت سے آپؐ کے ساتھ رہنا زیادہ عرصے تک نہیں تھا کیونکہ وہ کچھ عرصہ بعد ہی وفات پا گئیں۔

واقعی کا بیان ہے کہ مکے میں آنحضرت ﷺ کے دوران قیام میں متعدد مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔



میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی تزویج کا مسئلہ

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے آبان بن صالح اور عبداللہ بن ابی نجیح نے عطا و مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا کو مکے سے مدینے کی طرف واپس ہوتے ہوئے سفر کے دوران میں اپنی زوجیت میں لیا تو بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی اس وقت ناجائز تھی کیونکہ ان کے خیال میں میمونہ رضی اللہ عنہا اس وقت تک عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی منکوحہ تھیں لیکن ان کا یہ خیال غلط فہمی پر مبنی تھا اور ابن ہشام کے بیان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ میمونہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بہن دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میمونہ رضی اللہ عنہا چاہتی تھیں کہ پہلے ان کی بہن کی شادی ہو جائے اس لیے یہ مسئلہ اس وقت تک معلق رہا جب تک آنحضرت ﷺ کے تشریف لائے اور انہوں نے جناب عباس رضی اللہ عنہ کو جوان دونوں بہنوں کے محرم تھے میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام دیا جو انہوں نے میمونہ رضی اللہ عنہا کی رائے لینے کے بعد قبول کر لیا۔ اور اس طرح ان کی بہن سے پہلے آنحضرت ﷺ سے میمونہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ میمونہ رضی اللہ عنہا کو جناب عباس رضی اللہ عنہ کی منکوحہ سمجھ رہے تھے اس حقیقت سے ناواقف تھے۔

بخاری ایوب کی زبانی عکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہا آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آنے سے قبل کنواری تھیں اس لیے آپ کا ان سے نکاح کسی صورت سے ناجائز نہیں ٹھہرایا جاسکتا بلکہ از روئے شریعت قطعاً جائز تھا۔ تاہم ان کی وفات آنحضرت ﷺ کے دوران سفر سرف ہی میں ہو گئی تھی۔

بیہقی اور دارقطنی نے بھی ابو الاسود مطر الوراق، عکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہی بیان کیا ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ماہ محرم تک جب وہ رسول اللہ ﷺ کی زوجیت میں آئیں کنواری تھیں:

﴿وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ الخ﴾

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ مشرکین مکہ کے ساتھ اس صلح نامے کے مطابق جو حدیبیہ میں ہوا تھا مکے میں قضائے عمرہ سے فارغ ہو کر ماہ ذالحجہ میں مدینے واپس تشریف لائے تو فریضہ حج ادا نہ کرنے کے باوجود مطمئن تھے کیونکہ اس سے قبل صلح حدیبیہ کے موقع ہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بشارت مل چکی تھی:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الخ﴾

مندرجہ بالا آیت میں ”فَتَحَا قَرْيَبًا“ اور ”مِنْ دُونِ ذَلِكَ“ سے مراد صریحاً فتح خیبر ہے جو آنحضرت ﷺ کو صلح حدیبیہ کے بعد مستقبل قریب میں حاصل ہوئی۔

فصل:

سال ہفتم ہجری کی باقی ماندہ مہمات

بنی سلیم کی طرف ابن ابی العوجاء سلمیٰ کی مہم:

یہی نے بنی سلیم کے خلاف ابن ابی العوجاء کی مہم کا ذکر کرتے ہوئے اس کے سلسلے میں بطور سند واقدی، محمد بن عبداللہ بن مسلم اور زہری کے حوالے پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ عمرۃ القضیہ (جس کے بارے میں مشرکین مکہ سے بحث چھڑ گئی تھی) کی ادائیگی کے بعد ماہ ذی الحجہ سال ہفتم ہجری میں مدینے واپس آئے تو آپ نے بنی سلیم کے خلاف ابن ابی العوجاء کو پچاس مجاہدین کے ساتھ مہم پر روانہ فرمایا لیکن جب وہ بنی سلیم کے علاقے کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کثیر تعداد میں اپنی قوم کے جنگجو جمع کر کے ان کے مقابلے کی تیاری کر رکھی ہے۔

بہر کیف ابن ابی العوجاء جب وہاں پہنچے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کے حکم کے مطابق اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ان کی پوری بات سنے بغیر ان پر اور ان کے ساتھی مجاہدین پر تیر اندازی شروع کر دی۔ تاہم مجاہدین نے انہیں چاروں طرف سے محاصرے میں لے کر ان سے دست بردست سخت جنگ کی جس میں ان کے لوگ کثرت سے قتل ہوئے لیکن مجاہدین میں بھی شہداء کی تعداد کچھ کم نہ تھی بلکہ اس جنگ میں خود ابن ابی العوجاء سلمیٰ کے متعدد شدید زخم آئے اور وہ اسی حالت میں بشکل اپنے بچے کچھے ساتھیوں کے ساتھ سال ہفتم ہجری کے ماہ صفر کی پہلی تاریخ کو مدینے پہنچے۔ البتہ واقدی مدینے میں ان کی واپسی ماہ ذی الحجہ سال ہفتم ہجری ہی میں بیان کرتے ہیں۔

اسی سال یعنی سال ہفتم ہجری ہی میں آنحضرت ﷺ نے اپنی بیٹی زینب بنت علیؓ کے شوہر ابی العاص بن ربیع رضی اللہ عنہما کے حوالے کی تھی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

سال ہفتم ہجری کے دوران میں حاطب بن بختہ مقوقس کے پاس سے لوٹے تھے اور ان کے ساتھ ماریہ (قبطیہ) اور سیرین بھی تھے جو دونوں راستے ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔

واقدی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں منبر رسول ﷺ کی دوسری سیڑھی سال ہفتم ہجری ہی میں مکمل ہو گئی تھی لیکن آپ نے اس کا استعمال آغاز سال ہفتم ہجری میں فرمایا۔



سال ہشتم ہجری کے واقعات

عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم کا قبول اسلام:

عمرة القضا کے ذکر کے بعد سال پنجم ہجری سے تا سال ہشتم واقعات کا سلسلہ ملاتے ہوئے مضافات خیبر میں پانچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں ابورافع یہودی کے قتل کے ساتھ واقدی کی طرح حافظ نبہتی نے بھی عبد الحمید بن جعفر اور ان کے والد کے حوالے سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی زبانی ان کی زندگی میں آنحضرت ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ان کے قبول اسلام تک پیش آنے والے واقعات بیان کیے ہیں جنہیں ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”جب سے قریش میں محمد (ﷺ) نے اپنی نبوت کا اعلان کیا میں اسی وقت سے اسلام کا مخالف تھا اور داعی نبوت کے ساتھ میری روش ہمیشہ معاندانہ رہی۔ میں بدر اور احد میں بھی مشرکین قریش کے ساتھ تھا لیکن صلح حدیبیہ کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اگر چہ میری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن لوگوں پر میرا اثر کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ روز بروز میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر اب کے محمد (ﷺ) نے مکے کا رخ کیا تو وہ اس کے ساتھ طائف کو بھی روند ڈالیں گے اس لیے میں نے اس سے قبل مکے سے فرار ہی کو غنیمت جانا اور وہاں سے حبشہ چلے جانے کو وہ موقع بہترین سمجھا جہاں مجھے نجاشی سے امداد و مراعات کی کافی توقع تھی اور اسلام سے چھٹکارا پالینا بھی کچھ مشکل نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ مکے میں رہ کر اگر میں مسلمان بھی ہو جاؤں تو قریش مکہ تو ہرگز مسلمان نہ ہوں گے بلکہ انامیر سے جانی دشمن ہو جائیں گے اس لیے میں نے اپنے پہلے فیصلے ہی کو اپنے حق میں بہترین فیصلہ سمجھا اور حبشہ چلا گیا۔“

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنا یہ بیان جاری رکھتے ہوئے مزید کہتے ہیں:

”میں نے مکے سے حبشہ کی طرف روانگی سے قبل اپنی جان پہچان کے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے نہ صرف میری رائے کو صائب تسلیم کیا بلکہ میرے اس فیصلے کو بہترین فیصلہ مان کر کثیر تعداد میں میرے ہمراہ چلنے پر تیار ہو کر میرے ساتھ ہو لیے لیکن جب میں حبشہ پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے پہلے عمرو بن امیہ ضمری^۱ مجھ سے پہلے ہی رسول اللہ (ﷺ) کے خط کے ساتھ نجاشی کی خدمت میں باریاب ہو چکے ہیں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے نجاشی کو اپنے اس خط میں دعوت اسلام دی تھی۔“

۱ اصل کتاب میں یہی ہے لیکن ابن ہشام نے آنحضرت ﷺ کے اس قاصد کا نام جعفر بن ابی طالب بتایا ہے۔ (مؤلف)

”بہر کیف جب میں نجاشی کے دربار میں داخل ہوا اس وقت عمرو بن امیہ ضمری وہاں سے نکل رہے تھے۔ میں نے نجاشی کے سامنے پہنچ کر حسب دستور پہلے اسے سجدہ کیا اور پھر وہ تحائف جو میں اس کے لیے لایا تھا پیش کیے اور اس نے مجھے خوش آمدید کہا لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ ”ابھی جو شخص آپ کے دربار سے نکل کر گیا ہے وہ اس مدعی نبوت کا قاصد تھا جو ہم قریش مکہ کا بدترین دشمن ہے اور ہمیں کافر کہتا ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے تو نجاشی نے اپنی نشست سے اٹھ کر میرے منہ پر ایسا مکار سید کیا کہ میری ناک سے خون جاری ہو گیا اور میں سمجھا کہ میری ناک یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔“

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آگے چل کر کہتے ہیں:

”بہر حال جب میرے ہوش و حواس کچھ درست ہوئے تو میں نے نجاشی سے کہا: ”معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا وہ آپ کو ناگوار گزارا ہے۔“ اس کا جواب نجاشی نے یہ دیا کہ ”جس بزرگ ہستی کے قاصد کو تو مدعی نبوت کہتا ہے اور اس کے قاصد کو تو نے مجھ سے قتل کرنے کی درخواست کی ہے وہ خدا کا سچا نبی ہے اور جو کلام اس پر خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ وہی کلام اور ناموس اکبر ہے جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا۔“

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آگے چل کر بیان کرتے ہیں:

”نجاشی کی زبان سے یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گیا اور مجھے اپنی موت قریب نظر آنے لگی۔ تاہم میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا:

”جناب والا! میں معافی کا طلب گار ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔“

اس پر نجاشی نے کہا:

”تو نے درست سمجھا میں نے رسول اللہ (ﷺ) اور اسلام کے لیے ان کے قاصد کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کیونکہ رسول اللہ (ﷺ) نے مجھے اپنے نامہ مبارک میں اسی کی دعوت دی تھی۔“ نجاشی کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کے لیے بیعت کر لی۔ اس پر اس نے خوش ہو کر مجھے نیا لباس دیا جسے میں نے اپنے خون آلودہ کپڑے اتار کر اور وہیں غسل کر کے پہن لیا اور نجاشی کو سلام کر کے وہاں سے چلا آیا۔“

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”ظاہر ہے کہ اس کے بعد میرے پاس نجاشی سے کہنے کے لیے رہ ہی گیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کے دربار سے اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ میرے ساتھی میرے نئے اور زرق برق لباس کو دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوئے لیکن جب میں نے انہیں سارا حال سنایا تو وہ بھی دنگ رہ گئے۔ تاہم میرے سمجھانے سمجھانے پر اسلام قبول کرنے پر تیار ہو گئے۔“

عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما آگے بیان کرتے ہیں:

”میں نے حبشہ سے واپسی پر مکہ جانے کی بجائے سیدہ ہدینے کا رخ کیا لیکن جب کشتی سے ساحل سمندر پر اتر کر اونٹ پر بیٹھا اور ظہران پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں راستے سے بہت کراہت تھی۔ وہاں آگے اور اس کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا دو اونٹوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ جب میں اس خیمے کے نزدیک پہنچا تو اس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا: ”آپ یہاں کیسے آگئے اور یہاں سے اب کہاں کا قصد ہے؟“ وہ بولے: ”میں مدینے جا رہا ہوں اور تم؟“ میں نے کہا: ”میں بھی مدینے ہی جا رہا ہوں“ انہوں نے پوچھا: ”کیوں؟“ خالد چونکہ میرے پرانے دوست تھے اس لیے میں نے ان سے یہ راز پوشیدہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا اور اب رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر براہ راست بیعت کرنے مدینے جا رہا ہوں اس لیے میں نے انہیں اوّل سے آخر تک اپنی ساری داستان سنا دی۔“

عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما مزید بیان کرتے ہیں کہ ان کی زبان سے سارا قصہ سن کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہما ان سے لپٹ گئے اور انہیں بتایا کہ ویسے تو وہ بھی دل سے اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ ﷺ کی صداقت و نبوت پر ایمان لائے تھے لیکن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما کی طرح وہ بھی آنحضرت ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے اور آپ کے دست مبارک پر انہی کی طرح براہ راست بیعت کے لیے مدینے جا رہے تھے۔

عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما آگے بیان کرتے ہیں:

”خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما کی زبان سے یہ سن کر کہ وہ بھی میری طرح اسلام کی حقانیت کے قائل ہو چکے ہیں میری خوشی کی بھی کوئی حد نہ رہی اور پھر ہم دونوں ہم سفر ہو کر مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے ہیں تو ہم سیدھے وہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہمیں دیکھ کر پہلے تو آپ نے تبسم فرمایا اور پھر ہمارے مدینے آنے کا مقصد دریافت فرمایا جو ہم نے صاف صاف بیان کر دیا جسے سن کر آپ نے اظہار مسرت فرمایا۔“

عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما آگے کہتے ہیں:

”جب ہم دونوں اور ہمارے ساتھ آنے والے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما جنہیں میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینے کے راستے میں دیکھا تھا آنحضرت ﷺ کا اشارہ پا کر آپ کے سامنے مؤدب بیٹھ گئے تو سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہما نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما نے اور آخر میں میں نے ان الفاظ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ”میں اپنے پیچھے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اور آئندہ زندگی میں نیک عملی کا عہد کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے داخل اسلام ہوتا ہوں۔“ اس کے بعد میں نے خالد بن

ولید ابن عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما کی طرح زبان سے اقرار بھی کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ

عمر بن عاص رضی اللہ عنہما آخر میں کہتے ہیں:

”ہمارے قبول اسلام پر رسول اللہ ﷺ نے خوش ہو کر ہم تینوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اظہارِ مسرت کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اگرچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہما سے رنجیدہ اور آفراندہ کر ان کے معتب تھے لیکن ان کے داخل اسلام ہو جانے کے بعد وہ بھی ان سے بغلگیر ہو کر ملے۔“

واقعی نے کئی مستند حوالوں سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کی آنحضرت ﷺ سے ان کی شدید محبت کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد خلافت سے ملوکیت کی طرف اور امیر وقت سے ان کے ربط و ضبط کے باوجود ان کی وفات پر اکثر لوگوں نے اظہارِ افسوس کیا تھا۔



خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی اسلام کی طرف تدریجی رغبت

واقفی کہتے ہیں کہ ان سے یحییٰ بن مغیرہ بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام نے بیان کیا کہ ان کے والد نے خود خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی زبانی ان کی اسلام سے لگاؤ کی ابتدا اور اس کے بعد تدریجی رغبت کے بارے میں جو کچھ سن کر انہیں یعنی یحییٰ بن مغیرہ کو بتایا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی کے الفاظ میں یہ ہے:

”جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت فرمانا چاہی تو میرے دل میں نیکی ڈالی اور اسلام کا رجحان پیدا فرمایا۔ تاہم مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات کا فیضان تھا۔ بہر کیف اس کے اسباب یہ ہوئے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینے سے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حدیبیہ تشریف لائے تو میں بھی دوسرے مشرکین مکہ کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے عسفاں آیا اور وہاں آپ کی مجلس میں اعتراضات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا جو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ادا فرمائی۔ اور پھر حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا تو میرے لیے کچھ کہنے کو باقی ہی نہ رہا۔ پھر جب آپ اس صلح نامہ کے مطابق عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے لیے مکے میں جس انداز سے داخل ہوئے تو میں نے اس کے نظارے سے عمداً احتراز کیا اور میں یہودیوں یا نصرانیوں کے مذہب میں شمولیت کے بارے میں سوچنے لگا اور میرا دل چاہا کہ میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں لیکن اسی زمانے میں مجھے اپنے بھائی ولید ابن ولید کا خط ملا کیونکہ جب وہ مکے آپ کے ساتھ عمرۃ القضاء کے سلسلے میں آئے تو ان کے بلانے پر بھی میں ان سے وہاں اپنی غیر حاضری کی وجہ سے نکل سکا تھا۔“

میرے بھائی کا خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے مجھے لکھا تھا:

”مجھے اسلام سے تمہاری پہلو تہی پر تعجب ہے جب کہ تمہاری عقل میں مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ جب میں نے رسول اللہ ﷺ سے تمہارا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اب تک اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ اسلام سے تمہاری ناواقفیت کے علاوہ اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ ”خالد رضی اللہ عنہ اگر اسلام قبول کر لیں تو وہ ان کے لیے سراسر خیر و برکت کا باعث ہوگا۔“

خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتے ہیں:

”اپنے بھائی کا یہ خط پڑھ کر میرے دل میں اسلام کے لیے ایک کشش ہی پیدا ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ کی طرف میرا دل خود بخود کھینچنے لگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے آپ کا طرز ایسا مصلحانہ پایا جس میں صرف خیر ہی خیر تھی۔“

خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں:

”اس کے بعد میں نے ایک خواب جمی دیکھا کہ میں کسی جنگ و تارک جگہ میں ہوں لیکن پھر میں نے اس خواب ہی میں اپنے آپ کو ایک سرسبز و شاداب وسیع جگہ میں پایا۔ اس خواب سے میں فوری طور پر کوئی نتیجہ تو اخذ نہ کر سکا لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا قسم ارادہ کر لیا۔“

خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بیان کیا:

”مدینے میں حضور نبی کریم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت سے قبل میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنے خواب کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن جب اس کے بعد میں نے ان سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ بولے کہ اس خواب میں میں نے جو جنگ و تارک جگہ دیکھی تھی وہ کفر کا ظلمت کدہ تھا اور پھر جو وسیع اور سرسبز و شاداب جگہ دیکھی وہ فضائے اسلام تھی۔“

خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے آخر میں بتایا کہ انہوں نے مکے میں صفوان بن امیہ سے کہا تھا کہ وہ اگر آنحضرت ﷺ کی بیعت کر کے مشرف بہ اسلام ہو جائیں تو اس نے کہا تھا کہ اگر سارے قریش مکہ بھی مسلمان ہو جائیں تب بھی وہ اسلام قبول کرنے کا خیال تک دل میں نہیں لاسکتا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو انہیں خیال ہوا کہ چونکہ اس کا بھائی جنگ بدر میں قتل ہو گیا اس لیے اس کی اسلام کی اتنی شدید مخالفت قرین قیاس تھی لیکن جب انہوں نے یہی بات عکرمہ بن ابو جہل سے کہی تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ تاہم انہوں نے عکرمہ سے کہا کہ اس بات کا کسی دوسرے سے ذکر نہ کریں۔

اس کے بعد خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے مکے سے روانگی راستے میں عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات اور پھر تینوں کے مدینے پہنچ کر آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زبانی پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا زمانہ ماہ صفر سال ۱۰ شتم ہجری بتایا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ان میں اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی فرق اور امتیاز روا نہیں رکھا۔



شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کی ہوازن کے خلاف مہم

واقفی کہتے ہیں کہ ان سے ابن ابی سبرہ نے عبد اللہ بن ابی فروہ اور عمر بن حکم کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو چوبیس افراد پر مشتمل ایک عسکری رسالے کا سربراہ بنا کر ہوازن کی طرف روانہ فرمایا جہاں کچھ لوگوں نے جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی ٹھان لی تھی اور انہیں حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کی اصلاح یا سرکوبی کے بعد ہی واپس آئیں۔ چنانچہ جب شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے بارے میں بغاوت کی اطلاع مدینے میں آئی تھی وہ واقعی آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار اور وہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔

شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ باغیوں کو گھیر کر انہیں ہتھیار ڈالنے اور اسلام قبول کرنے کو کہیں لیکن اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہیں تو انہیں قتل کر دیں یا گرفتار کر لیں۔

واقفی مذکورہ بالا حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کی یہ مہم مکمل طور پر کامیاب رہی ان کے ہاتھ کثیر مال غنیمت آیا بہت سے باغی گرفتار ہوئے جن میں ان کی عورتیں بھی شامل تھیں۔

شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ نے حسب دستور خمس نکال کر باقی مال غنیمت اپنے ساتھیوں میں تقسیم کیا تو ان میں سے ہر ایک کے حصے میں دوسرے سامان کے علاوہ حصہ رسد بارہ بارہ اونٹ اور ایک ایک کینڑی آئی۔ ایک عورت جو باقی رہی اسے شجاع رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔

جب شجاع رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے واپس آئے تو سارے قیدی برضا و رغبت مسلمان ہو گئے تو آنحضرت ﷺ کے حکم سے ان کی عورتیں انہیں واپس کر دی گئیں لیکن جس لڑکی کو شجاع رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے مخصوص کیا تھا اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور انہی کی خدمت میں رہنے لگی۔

شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے سربراہ سے مال غنیمت کی تقسیم کا محاسبہ نہیں کیا کیونکہ آپ کو ان کی عادلانہ تقسیم پر مکمل اعتماد تھا۔



بنی قضاعہ کے خلاف کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مہم

واقعی کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن عبداللہ زہری نے بیان کیا کہ سال ہشتم ہجری میں آنحضرت ﷺ نے کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنی قضاعہ کے سرکش قبیلے کی ہستی ذات الملاح کی طرف پچیس سواروں کا ایک دستہ دے کر روانہ فرمایا تاکہ انہیں راہ راست پر لایا جائے۔ چنانچہ کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر نبی کریم ﷺ کے حکم کے مطابق پہلے اس سرکش قبیلے کے لوگوں کو دعوتِ اسلام دی اور ان کے انکار اور بغاوت پر ڈٹے رہنے کے بعد ان سے سخت جنگ کی اور ان کے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم اس قبیلے کے کافی لوگ میدان چھوڑ کر شام کی سرحد کی طرف بھاگ گئے۔

اس غزواتی مہم میں مسلمانوں میں سے ایک مجاہد شدید طور پر زخمی ہوا جسے کعب نے رات کے وقت اس کی ضروری مرہم پٹی کرانے کے بعد صبح ہوتے ہی اسے اس کے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں سے مدینے روانہ کر دیا تاکہ وہاں اس کا مکمل علاج اور تسلی بخش دیکھ بھال کی جائے۔

جب وہ زخمی مجاہد اور اس کا ساتھی مدینے پہنچے تو آنحضرت ﷺ نے اس زخمی مجاہد کو ایک ماہر معالج کے سپرد فرما کر اس کے ساتھی کو واپس ذات الملاح روانہ فرما دیا اور اس کے ہاتھ کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ شام کی سرحد تک باغیوں کا تعاقب کیا جائے اور انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے یا گرفتار کر کے مدینے لایا جائے۔



غزوة موتہ

غزوة موتہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی غزواتی مہم جس کے لیے آنحضرت ﷺ نے انہیں سرزمین شام کے علاقہ بلقاء کی طرف روانہ فرمایا تھا اور ان کی سرکردگی میں تین ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر بھیجا تھا۔

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عمرہ القضاء کے بعد جس کا ذکر پہلے آچکا ہے آنحضرت ﷺ نے مدینے میں سال ہشتم ہجری کے ماہ ذالحجہ سے لے کر جس میں مشرکین عرب حج و زیارت خانہ کعبہ کے لیے مکے میں جمع ہوئے تھے ماہ جمادی الاول تک قیام فرمانے کے بعد آخر الذکر مہینے کے دوران ہی میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں شام کی سرزمین موتہ کی طرف ایک بھاری لشکر روانہ فرمایا تھا جہاں سے اطلاع ملی تھی کہ وہاں دشمنان اسلام کثیر تعداد میں جمع ہو کر مسلم علاقوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے آنحضرت ﷺ کے حکم پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تین ہزار مجاہدین پر مشتمل مجاہدین کا ایک لشکر لے کر مدینے سے روانہ ہوئے اور انہوں نے رات کو قیام اور دن کے وقت تیزی سے سفر کرتے ہوئے موتہ ہی میں اپنا آخری پڑاؤ ڈالا تھا۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجاہدین کے اس لشکر کے لیے آنحضرت ﷺ کا حکم یہ تھا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دشمن کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جائیں تو ان کے بعد اس لشکر کی کمان جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کریں گے اور اگر خدا نخواستہ وہ بھی لڑائی میں کام آجائیں تو ان کے بعد اس لشکر کی کمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔

واقفی کہتے ہیں کہ ان سے ربیعہ بن عثمان نے عمرو بن حکم اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ جب آنحضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مذکورہ بالا لشکر موتہ کی طرف روانہ فرما رہے تھے تو اس وقت نعمان ابن فہص یہودی آپ کی خدمت میں اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حاضر تھا اور جب آپ نے اس لشکر کو یہ حکم دیا کہ اگر خدا نخواستہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو اس لشکر کی کمان جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کریں اور ان کے بھی شہید ہو جانے کی صورت میں اس لشکر کی سربراہی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کریں۔ پھر اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس لشکر کو اختیار ہے کہ وہ اسلامی مجاہدین میں سے جسے چاہیں اتفاق رائے سے اپنا سربراہ مقرر کر لیں تو نعمان ابن فہص یہودی نے آپ سے عرض کیا:

”بنی اسرائیل کے انبیاء اپنے حواریوں کو بالکل اسی طرح احکام دیا کرتے تھے اور آپ کے بارے میں اب تک جو کچھ کم و بیش میں نے سنا ہے اس کے مطابق اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس مہم سے ناکام ہو کر واپس نہیں لوٹیں گے بلکہ آپ کے حکم کی متابعت میں انبیاء بنی اسرائیل کے تبعین کی طرح دشمن کا حتی الامکان مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دے کر آپ کی نبوت کی صداقت کا ثبوت دیں گے۔“

واقفی کہتے ہیں کہ نعمان ابن فہص یہودی کی یہ بات سن کر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بولے:

”میں ان شاء اللہ اس مہم میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا اور اگر قضائے الہی سے شہید ہو گیا تو میری شہادت رسول اللہ

ﷺ کی صداقت نبوت کی دلیل ہوگی۔“

یہ روایت بیہقی نے بھی بیان کی ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب اس لشکر کے مدینے سے موتہ کی طرف روانگی کا مقررہ وقت ہوا تو آنحضرت ﷺ کے علاوہ تمام صحابہ ﷺ آپ کے مذکورہ بالا تینوں امرائے لشکر کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے اور انہیں سلام و دعا کے بعد رخصت کیا لیکن جب عبد اللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں سے رخصت ہونے لگا تو خود رو پڑے۔ جب ان لوگوں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے:

”مجھے نہ دنیا سے محبت ہے اور نہ تم لوگوں کو جن سے میرے قریبی تعلقات ہیں چھوڑنے کا غم ہے بلکہ مجھے اس وقت وہ آیت قرآنی یاد آگئی جو میں نے رسول اللہ ﷺ کو تلاوت فرماتے ہوئے سنی ہے اور جس میں آگ کا ذکر ہے۔“

لوگوں کے دریافت کرنے پر عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ آیت سنائی جو یہ ہے:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ آلٌ وَإِرْثًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾

عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے یہ آیت سن کر وہ لوگ بولے:

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہی تمہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے پاس لائے گا۔“

عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی اپنے لیے دعا کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے بولے:

”میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کے سامنے سرخرو ہو کر جاؤں۔“ (اشعار کا ترجمہ)

جب عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رخصت ہونے کے لیے آنحضرت ﷺ کی طرف مودب ہو کر بڑھے تو آپ سے انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اس کے سامنے سرخرو اور نیک نام ہو کر جانے کی دعا فرمانے کی التجا کی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس لشکر کو الوداع کہنے کے لیے آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینے کے باہر تک تشریف لے گئے اور اس کے حق میں دعائے خیر فرما کر اسے رخصت کیا۔

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ جب ہرقل کو اس اسلامی لشکر کے موتہ کے نزدیک پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو وہ روم سے اپنی ایک لاکھ فوج کو ساتھ لے کر بلقاء کی طرف برق رفتاری سے چل کر وہاں پہنچا اور شام کی فوجی چھاؤنیوں سے بھی ایک لاکھ مزید فوج جمع کر کے مسلمانوں کے سامنے آ کر ڈٹ گیا۔ اس کی فوج میں ایک بڑا مشاق جنگجو اور ماہر حرب و ضرب جرنیل تھا جسے لوگ عموماً مالک بن رافلہ کے نام سے پکارتے تھے۔

جب عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بلقاء میں ہرقل کی آمد اور اس کی اس کثیر التعداد فوج کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے معاون امرائے لشکر اور دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا کہ آیا کوئی تیز رفتار سوار مدینے بھیج کر اس صورت حال کی آنحضرت ﷺ کو اطلاع کرا کے آپ سے کمک طلب کی جائے لیکن ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں تو انہیں دشمن کی کثرت تعداد اور اپنی قلت تعداد کی فکر نہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر اس نے اپنے فضل و کرم سے ان کے اس تعداد کے لحاظ سے قلیل لشکر کو ہرقل کے اس بھاری لشکر کے مقابلے میں فتح سے ہمہ تنار کیا تو اس

کا شکر بجالائیں گے اور اگر ان کی قسمت میں شہادت لکھی ہے تو ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور دوسری کون سی نعمت ہو سکتی ہے جس کا انہیں اشتیاق ہوگا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما کو خبر ہوئی کہ ہرقل اپنے دو لاکھ افراد پر مشتمل بھاری لشکر کے ساتھ شہر بلقاء کے ایک نزدیکی گاؤں تک جسے شارف کہا جاتا تھا پہنچ چکا تو وہ بھی اپنے تین ہزار افراد پر مشتمل اسلامی لشکر کو لے کر موت پہنچ گئے اور اسے وہاں اس طرح صف آرا کیا کہ اس کے میمنہ پر بنی نذرہ کے ایک شخص قطبہ میں قادیہ کو رکھا اور میسرہ انصار کے ایک شخص عبایہ بن مالک کے سپرد کیا۔

واقدی کہتے ہیں کہ انہیں ربیعہ بن عثمان نے المقبری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا کہ آخر الذکر یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے اس سے قبل اتنی زرق برق پوشاکیں پہنے اور اتنے چمکیلے ہتھیاروں سے لیس اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہرقل کے اس لشکر کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ ان کی حیرت کا اندازہ کرتے ہوئے ثابت بن ارقم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا:

”آپ نے دشمن کا اتنا بڑا لشکر اس سے قبل کبھی دیکھا ہے؟“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے جواب دیا:

”میں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی جب مشرکین مکہ کا ہمارے مقابلے میں کہیں بڑا لشکر وہاں آیا تھا لیکن اتنا بڑا لشکر ہمارے ساتھ بھی پہلے کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے اگر تم بدر میں ہمارے ساتھ ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم اہل اسلام نے دشمن کی کثرت تعداد کی کبھی پرواہ نہیں کی۔“

یہ روایت بیہقی نے بھی کم و بیش انہی الفاظ میں اور انہی حوالوں سے پیش کی ہے۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ موت میں جب اسلامی لشکر کا ہرقل کے اس لاکھوں افراد پر مشتمل لشکر سے مقابلہ ہوا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما نے دشمن سے لڑائی میں انتہائی شجاعت کا ثبوت دیا۔ وہ کئی بار اپنے لشکر کے قلب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ علم لے کر نکلے اور دشمن کی صفوں پر صفیں چیرتے چلے گئے لیکن آخر کار ہرقل کے آزمودہ کار نیزہ بازوں کے ایک بڑے گروہ میں گھر کر شہید ہو گئے تو ان کا علم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے سنبھالا اور انہوں نے بھی بڑی بہادری کے جوہر دکھائے لیکن تھوڑی دیر میں وہ بھی شہید ہو گئے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ موتہ سے قبل کسی مسلمان کو کسی لڑائی میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے زیادہ زخمی کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ شہادت سے قبل کئی بار شدید زخمی ہو کر سواری سے گرے لیکن پھر کھڑے ہو کر اسی بہادری کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے لگتے تھے اور اسی بہادری کا انداز میں رجز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔

ابوداؤد نے اپنے ہاں ابن اسحاق کے حوالے سے موتہ کی جنگ میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے انداز جنگ کے بارے میں یہی روایت پیش کی ہے لیکن ان کے رجز یہ اشعار نقل نہیں کیے۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ جنگ موتہ میں جیسا کہ ان سے کئی ثقہ اہل علم نے بیان کیا، علم پہلے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے داہنے ہاتھ میں تھا۔ جب وہ کٹ گیا تو انہوں نے اسے اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا اور دوسرا ہاتھ کٹ جانے کے بعد انہوں نے اسے دونوں بازو ملا کر سنبھالا تا آنکہ وہ شہید ہو گئے۔

ابن ہشام کئی حوالوں سے بتاتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی علم بنی عبکان کے بھائی ثابت بن اقرم رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر بلند آواز سے کہا تھا:

”مسلمانو! اب تم رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق اتفاق رائے سے جسے چاہو اپنا سردار بنا کر یہ علم اسے دے دو۔“

اس کے جواب میں لشکر اسلام نے بالاتفاق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سردار بنا کر اسلامی علم انہیں دے دیا تھا۔ اس وقت تک خالد ابن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ نے کسی اسلامی لشکر کی کمان نہیں کی تھی اس لیے وہ ہچکچا رہے تھے لیکن مسلمانوں کے اصرار پر انہیں یہ خدمت قبول کرنا پڑی تھی اور پھر انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے اس قلیل لشکر کو ہر قل کے اس انتہائی کثیر التعداد لشکر کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار کیا تھا۔

متعدد ثقہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جنگ موتہ میں پہلے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اور آخر میں مسلمانوں کے بے حد اصرار پر خالد ابن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کی کمان سنبھالی تھی اور اپنے قلیل التعداد لشکر کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قل کے کثیر التعداد لشکر کو شکست فاش دی تھی۔

ابن اسحاق متعدد مستند حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ موتہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے زیر کمان اسلامی لشکر مدینے واپس پہنچا تو مسلمان اس وقت آنحضرت ﷺ کی قیادت میں نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے نماز جمعہ سے فراغت کے بعد مسلمانوں سے جنگ موتہ کے کوائف دریافت فرمائے اور جب آپ کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی شہادت کا حال سن کر آپ نے ان دونوں کے حق میں بھی دعائے مغفرت فرمائی۔ پھر جب آپ کو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی بے مثال بہادری اور اسلام کے لیے سرفروشی کی حد تک جان بازی کا حال سنا کر ان کے ہاتھوں جنگ موتہ میں دشمن کی حد سے زیادہ کثرت کے باوجود فتح کا مژدہ سنایا گیا تو آپ ﷺ نے انہیں ”سیف من سیوف اللہ“ کہہ کر مخاطب فرمایا اور فتح موتہ کی مبارک دی تھی اور پھر انہیں سیف اللہ کے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا جو تاریخ اسلام میں آج تک درج چلا آتا ہے۔

خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے غزوہ موتہ کے بعد بھی ہر جنگ میں رومی و شامی افواج کے پھلے چھڑائے تھے بلکہ اکثر ان کا صفایا کر دیا تھا۔ عراق میں بھی ان کی فتوحات کچھ کم نہ تھیں۔ نصرانی دنیا ان کے نام سے ایک مدت تک لرزہ بر اندام رہی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

فصل:

موتہ میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اندوہناک قتل پر آنحضرت ﷺ کا

اظہارِ ملال

ابن اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ موتہ میں جس روز جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اسی روز آنحضرت ﷺ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کو بلا کر اپنی گود میں بٹھایا، ان کی پیشانی اور آنکھوں پر بوسے دیئے جب کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے دریافت کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) کیا جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں موتہ سے کوئی ایسی ویسی خبر آئی ہے جس نے آپ کو اشکبار کر دیا ہے۔“

تو آپ نے فرمایا کہ:

”ہاں جعفر آج وہاں شہید ہو گئے لیکن شہادت سے قبل جن اندوہناک حالات سے وہ دوچار ہوئے وہ بڑی غم انگیز ہے۔“

غزوہ موتہ میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تفصیلات پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ جو حدیث نبوی اس بارے میں متعدد ثقہ راویوں کے حوالے سے جو روایات کتب احادیث میں درج کی گئی ہیں ان سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مذکورہ اندوہناک صورت حال سے گزر کر شہادت پر آنحضرت ﷺ کے اظہارِ ملال کا بین ثبوت ملتا ہے۔ انہی احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعد شہادت جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بریدہ بازوؤں کے ساتھ داخل بہشت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے انہیں پرندوں کی طرح دو بازو عطا فرمادیئے جن کے ذریعہ وہ حسبِ خواہش جنت میں ہر طرف پرندوں ہی کی طرح اڑنے لگے۔

جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام کے آخر میں لفظ طیار کے اضافے کا سبب یہی حدیث نبوی ہے۔

اس سلسلے میں ابن اسحاق ایک اور روایت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے ام عیسیٰ خزاعیہ ام جعفر بنت محمد بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور محمد بن جعفر کی دادی اسماء بنت عمیس کے حوالے سے بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے پاس لایا جائے اور جب انہیں آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ انہیں اپنی گود میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔

ابن اسحاق ایک اور روایت میں محمد بن جعفر بن زبیر کی زبانی عروہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب مجاہدین اسلام کا لشکر غزوہ موتہ میں فتح یابی کے بعد واپس ہو کر مدینے کے نزدیک پہنچا تو آنحضرت ﷺ اس کے استقبال کے لیے اپنے صحابہ شریفین کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ ان وقت واری پنا تشریف فرما تھے اور اب سے آگے تھے جب آپ کو دوسرے امرائے لشکر کی شہادت کے ساتھ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بڑی اندوہناک صورت حال سے دوچار ہو کر شہادت کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بچوں کو سنبھالیں جو اپنے باپ کی شہادت کی خبر سن کر بے تاب ہو کر رونے لگے تھے اور پھر فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد اللہ کو آپ کے پاس لایا جائے اور جب انہیں آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور ان کے ساتھ خود بھی آپ دیدہ ہو گئے۔

ظاہر ہے کہ جس بے بسی و بے چارگی کی حالت میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی اس پر آپ کا اظہار ملال بالکل فطری تھا۔ آپ نے اپنے اہل بیت کو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بچوں کی ہمیشہ خبر گیری کا حکم بھی دیا تھا۔

غزوہ موتہ میں خالد بن ولید مخزومی کی بہادری، جانبازی اور فتنیابی کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں اس پر مبارکباد دینے کے بعد ان کے حق میں دعائے خیر فرما کر انہیں سیف اللہ کے خطاب سے سرفراز فرمایا لیکن بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ کو ہرقل کے بھاری اور کثیر التعداد لشکر کے مقابلے میں بعض مجاہدین کے میدان چھوڑ دینے کی اطلاع دینے کے بعد انہیں ”فرار“ کہا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ”جنگلی درندوں میں گھر کر اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے ان کے سامنے سے بھاگ نکلے تو اسے ”فرار“ نہیں کہا جاتا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ: ”وہی لوگ ان شاء اللہ آئندہ کرار ثابت ہوں گے۔“



فصل:

امرائے لشکر اسلام زید، جعفر اور عبد اللہ رضی اللہ عنہم کے فضائل

امرائے لشکر اسلام جنہوں نے غزوہ موتہ میں شہادت پائی یعنی زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کے خاندانی شجرات اور فضائل جو کتب تواریخ میں متعدد مستند حوالوں کے ساتھ درج کیے گئے ہیں حسب ذیل ہیں:

① زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: زید بن حارثہ بن شراہیل بن کعب بن عبد العزیٰ بن امراء القیس بن نعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زید اللات بن رفیدہ بن ثور بن کلب بن وبرہ بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ کلبی قضاعی۔

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جن کا خاندانی شجرہ اوپر درج کیا گیا آنحضرت ﷺ کے غلام تھے۔ ان کے آپ کی غلامی میں آنے کی تفصیلات یہ ہیں:

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے اہل خاندان کو کچھ ظالم و جابر لوگوں کے ایک گروہ نے لوٹ کر قلاش کر دیا تھا اور زید رضی اللہ عنہ کو غلام بنا لیا تھا جس کے بعد زید رضی اللہ عنہ کو حکیم بن حزام نے ان سے خرید کر حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں آنحضرت ﷺ نے خرید کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں دیا تھا۔ یہ قبل نبوت کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد زید رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بہ حیثیت غلام وہ رتبہ حاصل ہوا کہ باید و شاید۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان کی ایسی تربیت فرمائی جس کی مثال نہیں مل سکتی اور انہوں نے بھی آپ کی خدمت گزاری میں دن رات ایک کر دیئے آنحضرت ﷺ ان سے اس درجہ محبت کرتے تھے کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے۔

زید رضی اللہ عنہ غلاموں میں مسلمان ہونے والے پہلے شخص تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے: مثلاً

① ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ﴾

② ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

③ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾

④ ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ الخ﴾

مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مذکورہ بالا سب آیات میں زید رضی اللہ عنہ ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور انعم اللہ علیہ سے مراد

زید رضی اللہ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔

ہم نے ان باتوں کا تفصیلی ذکر اپنی تفسیر قرآن میں کیا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ دکھانا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوا

صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کا ذکر (اس طرح) قرآن پاک میں نام کے ساتھ نہیں آیا۔

اللہ تعالیٰ نے زید بنی ہاشم کو اسلام کی ہدایت فرمائی، انہیں اپنے رسول کی تربیت سے نوازا اور انہیں ام ایمن جیسی زوجہ بخشیں جن کے بطن سے اسامہ بن زید بنی ہاشم پیدا ہوئے جنہیں ”حب بن حب“ بھی کہا جاتا تھا۔

اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے زید بنی ہاشم سے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش بنی ہاشم شادی کی تھی اور انہیں بعد ہجرت مہاجرین میں سے حضرت حمزہ بنی ہاشم کا بھائی بنایا تھا۔

زید بن حارثہ بنی ہاشم کے بے شمار فضائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ موتہ کے لیے جو مہم روانہ فرمائی تھی اس کی سربراہی اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب بنی ہاشم کے بجائے انہی کے سپرد کی تھی۔

حسان بن ثابت نے زید بن حارثہ اور عبد اللہ بن رواحہ بنی ہاشم کی مدح میں متعدد اشعار کہے ہیں:

② جعفر بن ابی طالب بنی ہاشم: جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم جیسا کہ سب جانتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ اپنے بھائی علیؑ سے عمر میں دس سال بڑے تھے اور ان کے بھائی عقیلؑ عمر بنی ہاشم میں ان سے دس سال بڑے تھے جب کہ طالب عمر میں عقیل بنی ہاشم سے بھی دس سال بڑے تھے۔

جعفر بنی ہاشم کا شمار قدیم ترین مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ حبشہ کی طرف ان کی ہجرت مشہور واقعہ ہے جو ان کے اوصاف حمیدہ میں شمار کیا جاتا ہے جس کا ذکر مکے سے مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کے ضمن میں پہلے کیا جا چکا ہے۔ جب وہ حبشہ سے واپس ہو کر خیبر میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا:

”میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر سے دوبارہ ملنے کی۔“

یہ فرما کر آپ نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ عمرۃ القضیہ سے فراغت کے بعد مکے سے واپس ہوئے آپ نے فرمایا تھا:

”جعفر خلق وخلق دونوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں۔“

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے جعفر بنی ہاشم آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔

جب آنحضرت ﷺ نے غزوہ موتہ کے لیے زید بن حارثہ بنی ہاشم کی سرکردگی میں اسلامی لشکر روانہ فرمایا تھا تو اس وقت اس لشکر کو نماز پڑھانے کے لیے جعفر بن ابی طالب بنی ہاشم ہی کو زید بن حارثہ بنی ہاشم کی نیابت سونپی تھی۔

غزوہ موتہ میں شہادت کے بعد ان کے جسم پر نوے سے زیادہ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخم لگے تھے جو سب کے سب سامنے کی طرف تھے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ بنی ہاشم کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب بنی ہاشم ہی نے اسلامی علم سنبھالا تھا۔ جب رومیوں سے لڑائی میں ان کا داہنا ہاتھ جس میں انہوں نے علم پکڑ رکھا تھا کٹ گیا تو انہوں نے علم اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا تھا اور بائیں ہاتھ کے کٹ جانے کے بعد انہوں دونوں بازو جوڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر سنبھال لیا اور اس پر گرفت اس وقت تک نہیں چھوڑی جب تک کسی موذی رومی نے ان کے جسم کو دو ٹکڑے نہ کر دیا۔

جب ان کے قتل کی خبر آنحضرت ﷺ کو ہوئی تو آپ نے انہیں شہیدوں کی صف اول میں ٹھہرایا تھا وہ حدیث نبوی بھی پہلے پیش کی جا چکی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ان کے بریدہ بازؤوں کی جگہ پرندوں کی ٹرن دو بازو مٹھا فرمائے جن سے اب وہ جنت میں جہاں پائیں اڑتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دو بازوؤں ہی کی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے انہیں ذوالجناحین فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کے آخر میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے لفظ طیار کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔

بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عمر جب جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے تو انہیں ہمیشہ ابن ذوالجناحین ہی کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ تاہم یہ بات بعض راویوں نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کی ہے لیکن درحقیقت اس سلسلے میں وہی بات صحیح ہے جو صحیح بخاری میں درج ہے۔

حافظ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ ان سے یکے بعد دیگرے علی بن حجر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے العلاء بن عبدالرحمن اور ان کے والد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بیان کیا کہ:

”میں نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے دیکھا ہے۔“

اس سے قبل ترمذی نے ایک حدیث کے ضمن میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے وقت تینتیس سال کے تھے لیکن ابن اثیر نے اپنی کتاب ”غابہ“ میں ان کی شہادت کے وقت عمر اکتالیس سال بتائی ہے تاہم یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ اس بارے میں مختلف الخیال ہیں۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے بھائی علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں دس سال بڑے تھے اس لحاظ اور حساب سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عمر ان کی شہادت کے وقت اکتالیس سال ہوتی ہے کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی جس کے بعد جیسا کہ مشہور ہے وہ مکے میں تیرہ سال رہے اور جب انہوں نے مکے سے ہجرت کی اس وقت ان کی عمر اس حساب سے اکیس سال تھی۔ اور چونکہ غزوہ موتہ ہجرت کے آٹھویں سال وقوع پذیر ہوا تو اکیس سال میں آٹھ سال اضافے کے بعد اس وقت خود علی رضی اللہ عنہ کی عمر اکتیس سال تھی اور چونکہ جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان سے عمر میں دس سال بڑے تھے۔ لہذا اس حساب سے ان کی عمر شہادت کے وقت ٹھیک اکتالیس سال ٹھہرتی ہے۔ (مؤلف)

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے غزوہ موتہ میں ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو طیار کہا جانے لگا تھا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بڑا دردناک و پراثر مثنوی لکھی۔

③ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ: عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بن ثعلبہ بن امری القیس بن عمرو بن امری القیس الاکبر بن مالک بن الاغر بن ثعلبہ بن کعب بن الخزرج بن حارث بن الخزرج ابو محمد عموماً ابن رواحہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ابو عمرو والانصاری الخزرجی بھی کہتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ماموں اور عمرہ بنت رواحہ کے بھائی تھے۔ ان

کا شمار بھی قدیم ترین اسلام و ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے۔ وہ بیعت عقبہ میں شریک اور بنی حارثہ بن خزرج کے نقیبوں میں سے تھے انہوں نے بدر و احد غزوہ خندق حدیبیہ اور غزوہ خیبر میں بھی شرکت کی تھی اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے وہی تھے جو عمرۃ الفتناء کی ادائیگی کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے کئے میں داخلے کے وقت آپ کی سواری کی باگ یار کا بٹھا رہے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور پکار پکار کر کہتے جاتے تھے:

”اے اولادِ مشرکین! ایک طرف ہٹ کر رسول اللہ ﷺ کے لیے راستہ خالی کر دو۔“

وہ اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی مدح، توحید خداوندی اور آپ کی نبوت کا اعلان بھی بصورت اشعار فی البدیہہ کرتے جاتے تھے۔

ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی غزوہ موتہ میں اپنے دو ساتھی امراء لشکر اسلامی یعنی زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد اسلامی علم بلند کیے، مجاہدین اسلام کے حوصلے بڑھاتے اور کثیر التعداد تربیت یافتہ رومی لشکر کے مقابلے میں پرستار ان حق کی مثالی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے جس کا اعلان خود رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ صرف داخل جنت ہو کر زندگی میں آپ سے جدا ہوئے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے انہیں مدینے سے غزوہ موتہ کے لیے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا:

”جاؤ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔“

ہشام ابن عروہ کہتے ہیں:

”چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کے وقت تک ثابت قدم رکھا جس کے بعد وہ داخل جنت ہو گئے۔“

حماد بن زید ثابت اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی میں حاضرین سے مخاطب تھے۔ اسی دوران میں آپ نے ان لوگوں سے جو کھڑے ہوئے تھے فرمایا: ”بیٹھ جاؤ“ تو وہ لوگ فوراً بیٹھ گئے لیکن اس کے ساتھ ہی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی جو مسجد سے الگ ایک جگہ کھڑے آپ کا خطبہ سن رہے تھے بیٹھ گئے۔ جب دوسرے لوگوں نے جو مسجد سے باہر ابن رواحہ کے ساتھ کھڑے آنحضرت ﷺ کا خطبہ سن رہے تھے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے مزید نوازے اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کا جو جذبہ اور اس کی باتیں سننے کا جو

اشتیاق ان کے دل میں ہے اسے اور بڑھائے۔“

عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ کئی دیگر مشہور شعراء نے عرب نے مرثیے کہے

ہیں۔



شہدائے موتہ کے اسماء گرامی

غزوہ موتہ میں شہید ہونے والے مہاجرین میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علاوہ تین غلام زید بن حارثہ کلبی، مسعود بن اسود بن حارثہ بن نضله العدوی اور وہب بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہم یعنی کل چار افراد تھے اور انصار میں سے عبداللہ بن رواحہ، عباد بن قیس الخزرجیان، حارث بن نعمان بن اساف، بن نضله تجاری، سراقہ ابن عمرو بن عطیہ بن خنسا المازنی رضی اللہ عنہم یعنی یہ بھی چار ہی افراد تھے۔ اس طرح مہاجرین و انصار دونوں کو ملا کر شہدائے موتہ کی مجموعی تعداد آٹھ تھی۔ البتہ ابن ہشام ابن شہاب زہری کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ شہدائے موتہ میں عمرو بن زید بن عوف بن مبذول المازنیان کے دو بیٹے جو آپس میں علاقائی بھائی تھے اور سعد بن حارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبہ بن مالک انصسی کے دو بیٹے بھی شامل تھے۔

اگر ابن ہشام کی زبانی ابن شہاب زہری کی بیان کردہ یہ بات درست تسلیم کر لی جائے تب بھی شہدائے موتہ کی مجموعی تعداد بارہ افراد سے تجاوز نہیں کرتی اور یہ کچھ کم اور معمولی بات نہیں ہے کہ ایک لاکھ رومی اور ایک لاکھ عرب کی نصرانی فوج یعنی دشمن کی دو لاکھ افراد پر مشتمل ہر طرح کے اسلحہ جنگ سے لیس افواج کا مقابلہ صرف تین ہزار اسلامی مجاہدین نے جم کر کیا اور اس میں اپنے صرف بارہ آدمی کھوئے جب کہ انہوں نے دشمن کی فوج میں نہ صرف کشتوں کے پستے لگائے بلکہ اس پر فتح بھی حاصل کی۔

غزوہ موتہ میں شریک مجاہدین میں سے صرف ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بیان یہ ہے کہ اس روز ان کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی تھیں جن سے یکے بعد دیگرے انہوں نے جتنے زیادہ سے زیادہ مشرک و قتل کر سکتے تھے کیے تھے اور آخر میں ان کے ہاتھ میں ایک یمنی تلوار کا صرف قبضہ رہ گیا تھا اور انہوں نے اسی سے لاتعداد باطل پرستوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اسلام و قرآن کا دفاع کیا تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اس بیان کے علاوہ مجموعی طور پر غزوہ موتہ میں شریک اور راہ خدا میں لڑنے والے مجاہدین اسلام کے جذبہ ایمانی اور ان کے حق میں نصرت خداوندی کا ثبوت مندرجہ ذیل آیت قرآنی میں موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي فَتْنَةِ الْيَهُودِ تَقَاتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الخ﴾



ملوکِ عالم کے نام آنحضرت ﷺ کے خطوط

واقدی کے بقول ملوکِ عالم کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی مراسلت کا آغاز سال ششم ہجری میں ہو گیا تھا جب کہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی ابتداء سال ہشتم ہجری میں ہوئی تھی۔ البتہ اس بارے میں ان دونوں میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا آغاز صلح حدیبیہ یا غزوہ موتہ کے بعد ہوا تھا۔

بہر کیف جہاں تک اس سلسلے کا آغاز صلح حدیبیہ کے بعد ہونے کا سوال ہے تو اس کا ثبوت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے ایک مصدقہ بیان سے ملتا ہے جو درج ذیل ہے۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”ہمارا تعلق تاجروں کی قوم سے تھا اور ہم اکثر شام کی طرف تجارتی قافلے لے کر جایا کرتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کی مکے سے ہجرت اور آپ کے ساتھ ہماری لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد ہمارا یہ کاروبار تقریباً ختم ہو گیا تھا لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب ہم اہل مکہ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو ہم نے یہ تجارتی سلسلہ پھر شروع کیا کیونکہ مجھے اہل مکہ نے مجبور کیا کہ میں اب کے ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جاؤں تاکہ پچھلے دونوں کی کچھ تلافی ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ایک تجارتی قافلہ ترتیب دیا جس میں مکے کے قریب قریب ہر عورت و مرد کا کچھ نہ کچھ تجارتی مال شامل تھا۔“

ابوسفیان رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتے ہیں:

”میں یہ قافلہ لے کر اس کے سربراہ کی حیثیت سے شام کی طرف سفر کر رہا تھا تو فلسطین کے علاقے غزہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ روم کا شہنشاہ ہرقل یروشلم کی زیارت اور وہاں نصرانیوں کے عظیم کلیسا کے لیے تحائف لے کر بیت المقدس آیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسے یہ وہم ہو گیا ہے کہ اس کے شامی مقبوضات پر اطراف کے کچھ بااقتدار لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں جب اس نے اپنے دانشور مصاحبین سے مشورہ کیا تو وہ بولے کہ ایسے لوگ صرف یہودی ہو سکتے ہیں اس لیے انہیں جین جین کر قتل کر دیا جائے۔“

ابوسفیان رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتے ہیں:

”مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہرقل نے اپنے مشیروں کی یہ بات سن کر ان سے پوچھا: ”تم لوگ قریش کی حربی قوت اور ان کے مقابلے میں مدینے میں جو ایک نئی قوت ابھر رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟“ اس سوال کا جواب ہرقل کے مشیروں نے یہ دیا کہ قوم قریش اور مدینے کی نئی قوت تو باہم مذہبی مناقشات میں الجھی ہوئی ہیں اس لیے ان کی طرف سے خطرے کی کوئی بات نہیں لیکن ہرقل نے انہیں مدینے کی اس نئی اسلامی قوت کی طرف توجہ دلائی جو اس وقت تک

مشرکین مکہ اور خیبر وغیرہ کے یہودیوں کو پے در پے شکست دیتی چلی آ رہی تھی تو ہرقل کے مشیر بھی سوچ میں پڑ گئے لیکن انہوں نے اسے فوراً یہ بتایا کہ قریش مکہ کا ایک معزز شخص ایک بڑا تجارتی قافلہ لیے شام کی طرف جا رہا ہے جو اس نئی اجہرتی ہوئی اسلامی قوت کے بارے میں صحیح معلومات بہم پہنچا سکتا ہے۔

ابوسفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہرقل نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو صائب سمجھ کر مجھے طلب کیا اور ابتدائی تعارف کے بعد مجھ سے جو سوالات کیے اور میں نے ان کے جو جوابات دیئے وہ یہ ہیں:

ہرقل: ”میں نے سنا ہے کہ تمہاری قوم کے ایک شخص محمد (ﷺ) نامی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدا کا رسول ہے۔ کیا یہ درست ہے؟“

ابوسفیان: ”جی ہاں یہ درست ہے۔“

ہرقل: ”کیا محمد (ﷺ) تمہاری قوم کے کسی بہت مالدار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟“

ابوسفیان: ”وہ مالی حیثیت کے لحاظ سے ایک اوسط درجے کے ہاشمی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔“

ہرقل: ”کیا ان کے پیرو سب کے سب صاحب ثروت اشخاص ہیں؟“

ابوسفیان: ”وہ قریباً سب نادار، مفلس، مسکین اور مفلوک الحال لوگ ہیں۔“

ہرقل: ”کیا تمہاری قوم میں اس سے پہلے بھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟“

ابوسفیان: ”جی نہیں۔“

ابوسفیان آگے بیان کرتے ہیں:

میرے یہ جو اب بات سن کر ہرقل بولا:

”تم نے میرے پہلے سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ تمہاری قوم کے جس شخص نے تمہارے بقول نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہاری قوم کے ایک اوسط درجے کی حیثیت کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے لیکن شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اب تک جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان سب کا تعلق اوسط درجے کے معمولی قبیلوں سے تھا۔“

تم نے میرے دوسرے سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ تمہاری قوم میں پیدا ہونے والے اس بقول خود نبی کے قریباً سارے پیرو نادار، مفلس، مسکین اور مفلوک الحال لوگ ہیں تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے تمام انبیاء کے تمام پیرو ایسے ہی لوگ تھے کیونکہ انہیں دنیا کا نہیں عاقبت کا خیال تھا۔ میرے تیسرے اور آخری سوال کا جواب تم نے یہ دیا ہے کہ اس شخص سے قبل تمہاری قوم کے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور تم ابتداء میں یہ بتا چکے ہو کہ محمد (ﷺ) کا تعلق تمہاری قوم سے ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خدا کے رسول ہیں تو سن لو کہ انجیل میں بشارت موجود ہے کہ خدا کا آخری نبی اور رسول عرب کی سرزمین پر پیدا ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا تم نے اپنی قوم کے اس مدعی نبوت کا نام محمد بتایا ہے تو یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری زبان میں احمد اور محمد مترادف الفاظ ہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہر نبی کا انداز جنگ یہی رہا ہے۔ جو تمہارے

بقول اس مدعی نبوت کا ہے۔‘

ابوسفیان آخر میں کہتے ہیں کہ:

”ہرقل کی یہ باتیں بن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اس کے پاس سے واپس آ کر اپنے قافلے کو فوراً وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے زہری نے بیان کیا کہ انہیں ایک نصرانی راسقف نے بتایا کہ اسی زمانے میں دجیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ ہرقل کے پاس رسول اللہ ﷺ کا خط لے کر پہنچے تھے جس میں لکھا تھا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے عظیم ہرقل کے نام۔ جس نے ہدایت کا پاس کیا اس پر سلام۔ اما بعد! اسلام قبول کرو اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ دو مرتبہ دے گا اور اگر تم نے انکار کیا تو اس کی ذمہ داری بھی تمہیں دوہری اٹھانا ہوگی۔“

اسی اسقف نے زہری کو مزید بتایا کہ ہرقل نے رسول اللہ ﷺ کے اس خط کو آخر تک پڑھو کر اپنے پاس محفوظ کر لیا اور پھر ایک رومی عالم کو جو عبرانی زبان سے واقف تھا لکھا کہ:

”جس نبی کی انجیل میں بشارت دی گئی تھی اس کا عرب میں ظہور ہو گیا ہے اور ہم اسی وقت کے منتظر تھے لہذا ہمیں اس کی اتباع پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔“

اس کے بعد اس نے اپنی سلطنت کے امراء کو اپنے دربار میں بلا کر سمجھایا کہ

”ہم نصرانیوں پر اس نبی کی اتباع لازم ہے جس کی انجیل میں بشارت دی گئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اس بزرگ ہستی کا مکتوب گرامی آیا ہے جس میں اس نبی مکرم (ﷺ) نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے۔ میرا مصمم ارادہ ہے کہ میں اس دعوت کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ مجھے امید ہے کہ تم سب لوگ بھی اس سلسلے میں میری پیروی کرو گے۔“

ہرقل کی زبان سے یہ گفتگو سن کر درباری امراء دنگ رہ گئے اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے اس کے اس ارادے کی شدید مخالفت نہ کی ہو بلکہ اس نے دیکھا کہ ان کے اشارے پر دربار کے تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے کٹر مذہبی درباری اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس نے فوراً ہنس کر کہا:

”خداوند کا شکر ہے کہ تم اس کڑی آزمائش میں پورے اترے مجھے تمہاری مذہبی پختگی کا پورا پورا یقین تھا لیکن میں صرف تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ تمہیں اس سخت امتحان میں کامیابی مبارک ہو۔“

ہرقل کی زبان سے یہ کلمات سن کر اس کے دربار کے تمام بند دروازے کھلوا دیے گئے اور اس کا ہر درباری اس کے سامنے حسب دستور سر بسجود ہو گیا جس پر ہرقل نے اطمینان کا سانس لیا۔

بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ حمص میں پیش آیا تھا جہاں ہرقل نے خود اپنے درباریوں پر دربار کے دروازے

بیکراے اور اس وقت تک نہیں کھلے تھے جب تک انہوں نے اس کی اتباع کا اقرار نہیں کیا تھا اور سر بسجود نہیں ہو گئے تھے۔

”بخاری نے ابوسفیان اور ہرقل کی ملاقات کا واقعہ جس کی ابن اسحاق نے بھی تصدیق کی ہے بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ابوسفیان ہرقل کے دربار سے ناراض ہو کر چلا آیا تھا کیونکہ اس نے نہ صرف آنحضرت ﷺ کی نبوت کی تصدیق کی تھی بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ دین اسلام بت پرستی پر جلد غالب آ جائے گا۔“

یہ روایت غریب ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بیان میں ان دونوں میں سے کسی کی کوئی ذاتی مصلحت نہیں تھی۔ واللہ

اعلم (مؤلف)

ابن جریر اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں ابن حمید سلمہ اور محمد بن اسحاق نے بعض اہل علم کے حوالے سے بتایا کہ جب دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا مکتوب جس میں آپ نے اسے دعوتِ اسلام دی تھی لے کر ہرقل کے پاس پہنچے تو اس نے اسے پڑھ کر ان سے کہا کہ:

”میں جانتا ہوں کہ تمہارے نبی نبی مرسل ہیں لیکن میں روم کے عوام سے خائف ہوں اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ خط اسقف کے پاس لے جائیں کیونکہ اس کا رومیوں پر مجھ سے زیادہ اثر ہے اور وہ مجھ سے زیادہ اس کی بات مانتے ہیں۔“

چنانچہ دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ آپ کا وہ مکتوب لے کر اسقف اعظم کے پاس گئے تو اس نے بھی آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر انہیں ساتھ لے کر روم کے بڑے کلیسا میں گیا اور وہاں لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ:

”اے روم والو! یہ اللہ کے نبی کا قاصد ان کا مکتوب لے کر آیا ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (ﷺ) اس کے رسول ہیں جن کی بشارت انجیل میں دی گئی ہے اور ان کا نام احمد بتایا گیا ہے۔“

اسقف کی یہ بات سن کر جملہ حاضرین نے ایک شخص کے سوا اس کی تائید کی جس کے بعد اس مخالفت کرنے والے کو زد و کوب کر کے قتل کر دیا گیا۔

جب دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ نے ہرقل کے پاس آ کر اسے وہ واقعہ سنایا تو وہ بولا:

”دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ رومیوں پر مجھ سے زیادہ اثر اسقف کا ہے، ہم بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں عام رومیوں سے اپنی جان کا خوف رہتا ہے۔“

جب اسقف نے قیصر روم ہرقل سے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا تو اس نے اسے بھی وہی جواب دیا جو دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ طبرانی نے بھی اس بارے میں یہی روایت پیش کی ہے لیکن اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اسقف اس وقت شام میں تھا اور جب اس نے ہاں رومیوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ان سے کہا کہ پھر

وہ مسلمانوں کو جزیہ دینے کے لیے رضامند ہو جائیں۔ اس پر وہ بولے:

”ہم عربوں سے ملک، سلطنت اور دولت و حشمت کس بات میں کم ہیں جو ہم ان کی تابعداری کریں۔“

ان کا یہ جواب سن کر اسقف بولا:

”پھر تم سرزمین سوریه مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“

سرزمین سوریه سے اسقف کی مراد فلسطین، اردن، دمشق، حمص بلکہ ساری سرزمین شام تھی لیکن جب روم کو وہ نصرانی جو اس وقت وہاں صاحب اقتدار تھے اس کی بات ماننے پر رضامند نہ ہوئے تو وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر الوداع کہتا ہوا قسطنطنیہ چلا گیا۔ واللہ اعلم

شام کے عربی النسل نصرانی بادشاہ کے نام

آنحضرت ﷺ کا مکتوب

ابن اہلق بیان کرتے ہیں کہ ہرقل کے بعد آنحضرت ﷺ نے بنی اسد بن خزیمہ کے بھائی شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فرما کر شام منذر ابن حارث بن ابی شمر غسانی کو اس قسم کا ایک خط لکھا جس میں اسے محاسن اسلام بتا کر دعوتِ اسلام دیتے ہوئے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک اس کے قبضے میں رہے گا۔

ابن اہلق کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا وہ مکتوب گرامی اسے پڑھ کر سنایا گیا تو منذر بن حارث بولا:

”مجھ سے میرا ملک کون چھین سکتا ہے اگر کسی نے اس کی کوشش کی تو میں اس کو خبر لینے کے لیے اس کے ملک پر چڑھ

دوڑوں گا۔“



شاہِ فارس کے نام آنحضرت ﷺ کا مکتوب

بخاریؒ لیٹ کا بیان یونسؒ زہریؒ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ اور ابن عباسؓ نے حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو شاہِ فارس کسریٰ کے نام خط دے کر ایران روانہ فرمایا اور اسے حکم دیا کہ:

”اگر فرمانروائے فارس تمہیں بحرین کی طرف دھکا دے تو تم بھی اسے بحرین کی طرف دھکا دے دینا۔“

یعنی اگر وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو وہ بھی اس پر لعنت بھیج کر خاموشی سے واپس چلا آئے۔ جب اس شخص نے آپ کا مکتوب گرامی ایران پہنچ کر کسریٰ کو دیا تو اس نے اسے پڑھ کر پھاڑ ڈالا اور بولا:

”میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، کیا (نعوذ باللہ) اس نے ہمیں بھی عرب سمجھا ہے؟“

جب آپ کے اس قاصد نے واپس آ کر آپ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا:

”سب پھاڑنے والے پھاڑ دیئے جائیں گے۔“

یعنی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایران و اہل ایران کے حق میں گویا آپ کی بددعا اور پیغمبرانہ پیشگوئی تھی۔

عبد اللہ بن وہبؒ یونسؒ اور زہریؒ کے حوالے دے کر کہتے ہیں کہ آخر الذکر کو عبد الرحمن بن عبد القاری نے بتایا کہ جس روز آنحضرت ﷺ کو آپ کے قاصد نے ایران میں آپ کے مکتوب گرامی کے ساتھ کسریٰ کے طرز عمل کا واقعہ سنایا اسی روز آپ نے مسجد میں حاضرین کو منبر سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”میں آپ لوگوں میں سے بعض کو عجمی بادشاہوں کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے اس طرح اختلاف نہ کریں جیسے بنی اسرائیل نے عیسیٰ بن مریمؑ سے کیا تھا۔“

آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے یہ سن کر مہاجرین ایک زبان ہو کر بولے:

”یا رسول اللہ (ﷺ) ہم آپ کی رائے عالی سے تابہ ابد سر مو اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں جہاں چاہیں بھیج دیجئے۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے (ان مہاجرین کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی اور شجاعؓ کو کسریٰ کی طرف (اپنا دوسرا مکتوب دے کر) روانہ فرما دیا۔ جب آپ کے یہ قاصد ایران پہنچے تو کسریٰ نے اپنے ایوان دربار کو مزید آراستہ کرنے کا حکم

① ہمارے اصل مآخذ میں یہی لکھا ہے لیکن ابن ہشام کے مطابق آنحضرت ﷺ نے شجاع بن وہب کو شام کے حکمران حارث بن شمر غسانی کے پاس بھیجا تھا اور ایک آخری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انیس جلد بن ابیہم غسانی کے پاس بھیجا تھا۔ (مؤلف)

دیا اور وہاں امراء و عظمائے ایران کو طلب کیا۔ اس کے بعد آپ کے قاصد شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو دربار میں باریابی کی اجازت دی۔

جب شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو کسریٰ نے حکم دیا کہ آنحضرت ﷺ کا مکتوب ان سے لیا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ:

”مجھے رسول اللہ (ﷺ) نے حکم دیا ہے کہ میں ان کا یہ مکتوب گرامی جناب والا کے ہاتھ میں بذات خود دوں۔“

کسریٰ نے شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو انہیں قریب بلایا اور ان کے ہاتھ سے آنحضرت ﷺ کا مکتوب گرامی لے کر اپنے درباری کاتب کو جس کا تعلق حیرہ سے تھا طلب کیا اور اسے وہ خط دے کر پڑھنے کا حکم دیا۔ آنحضرت ﷺ کے مکتوب گرامی کی تحریر کی ابتدا یہ تھی:

”محمد بن عبد اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے فارس کے عظیم کسریٰ کے نام۔“

لیکن کسریٰ نے آنحضرت ﷺ کے اپنے تعارف کی اس انداز میں ابتداء سنتے ہی باقی خط پڑھوائے بغیر غضب ناک ہو کر مذکورہ بالا کاتب کے ہاتھ سے آپ کا مکتوب گرامی لے کر پھاڑ ڈالا اور شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کے دربار سے نکل جائیں۔

شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار سے باہر آ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوچنے لگے کہ واپسی کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ آنحضرت ﷺ کے مکتوب گرامی کے ساتھ کسریٰ کے اس طرز عمل کی اطلاع جلد از جلد دی جاسکے۔ لیکن فوراً ہی کوئی حتمی فیصلہ کر کے گھوڑے کو ایک طرف سرپٹ ڈال دیا۔

ادھر کسریٰ نے شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کے چہرے سے ان کے غصے کا اندازہ لگا کر انہیں واپس بلانے کے لیے کوئی آدمی دوڑایا اور کاتب کو حکم دیا کہ وہ آنحضرت ﷺ کا مکتوب گرامی جوڑ کر اس کا باقی حصہ اے پڑھ کر سنائے۔ کسریٰ کے بھیجے ہوئے شخص نے کافی دور تک شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو واپس لانے کے لیے دونوں راستوں پر یکے بعد دیگرے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ اس وقت تک حیرہ سے بھی کہیں آگے نکل آئے تھے۔

جب شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ نے مدینے پہنچ کر آنحضرت ﷺ کو آپ کے مکتوب گرامی کے ساتھ کسریٰ کے طرز عمل کا واقعہ سنایا یعنی اس نے آپ کا خط لے کر اس کے افتتاحی الفاظ سن کر اسے پھاڑ دیا تھا تو آپ نے فرمایا:

”کسریٰ نے اپنے ہاتھوں اپنا ملک پارہ پارہ کر دیا ہے۔“

ابن جریر کہتے ہیں کہ ان سے احمد بن حمید سلمہ اور ابن اسحاق نے زید بن ابی حبیب کے حوالے سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنا مکتوب گرامی دے کر کسریٰ کے پاس عبد اللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم کو بھیجا تھا اور آپ کے اس مکتوب گرامی کی افتتاحی سطور یہ تھیں:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ (ﷺ) کی طرف سے فارس کے عظیم کسریٰ کے نام سلام اس پر جس نے ہدایت

کی اتباع کی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں (کیونکہ) میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ساری زندہ انسانی برادری کو خدا کے غضب سے ڈرانا اور اس کی طرف سے کافروں کے سامنے قول حق پیش کرنا ہے تم چاہو تو یہ دعوت حق قبول کر لو عدم قبول کی صورت میں ایران کے تمام بھوسیوں کا کٹناہ تمہارے سر ہوگا۔“

جب آنحضرت ﷺ کا یہ مکتوب گرامی کسریٰ کو پورا پڑھ کر سنایا گیا تو وہ غصے سے بولا:

”یہ خط اس شخص نے مجھے لکھنے کی جسارت کی جو (نعوذ باللہ) خود میرا غلام ہے۔“

ابن جریر کہتے ہیں کہ کسریٰ نے یہ کہہ کر بازام کو جو یمن میں اس کا نائب تھا ایک خط لکھوایا اور اسے حکم دیا کہ وہ جلد سے جلد اپنے دو آدمی آنحضرت ﷺ کے پاس بھیجے اور انہیں لکھے کہ وہ ان آدمیوں کے ساتھ کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہوں۔

مازام نے کسریٰ کا یہ خط ملتے ہی اسے اپنے کاتب و محاسب کے ہاتھ جس کا نام قہرمانہ تھا آنحضرت ﷺ کے پاس روانہ کر دیا۔ مازام نے قہرمانہ کے ہمراہ فارس کا ایک اور شخص خرخرہ نامی بھی کر دیا اور ان دونوں کو آپ کے نام ایک خط بھی دیا جس میں لکھا تھا کہ کسریٰ کے حکم کی فوری تعمیل کی جائے۔

ابن جریر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب مازام کے بھیجے ہوئے یہ دونوں آدمی طائف پہنچے اور انہوں نے وہاں کسی سے آنحضرت ﷺ کا پتہ پوچھا تو اس نے انہیں بتایا کہ آپ کا قیام مدینے میں ہے لیکن جب اس شخص نے ان سے ان کے جاز میں آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے اسے ساری بات بتادی جسے سن کر طائف کا وہ شخص بہت خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ اب انہیں اور قریش مکہ کو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آنحضرت ﷺ کو کسریٰ نے قابو کر لیا ہے اور انہیں (نعوذ باللہ) مزادینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا یعنی جو کام اس وقت تک قریش نہ کر سکے وہ کام اب کسریٰ جیسا باجروت ایرانی بادشاہ کر دکھائے گا۔

بہر کیف جب مازام حاکم یمن کے فرستادہ دونوں شخص مدینے پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے فارس کے دوسرے شخص ابازویہ نے آپ کو کسریٰ اور مازام کے خطوط دے کر آپ سے زبانی کہا کہ:

”ملک الملوک کسریٰ شہنشاہ ایران نے مازام حاکم یمن کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ کے پاس دو آدمی بھیج کر آپ کو شہنشاہ ایران کا حکم سنائیں بلکہ آپ کو خود لے کر شہنشاہ کی خدمت میں حاضر کریں۔ چنانچہ آپ مازام کے حکم کے مطابق پہلے ہمارے ساتھ فوراً یمن چلے تاکہ وہاں سے آپ کو ایران میں شہنشاہ کی خدمت میں حاضر کیا جائے۔“

اس کے بعد ابازویہ نے آپ سے مزید کہا:

”آپ کے لیے شہنشاہ کے حکم کی تعمیل ہی بہتر ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ نہ صرف آپ کو ہلاک کر دیں گے بلکہ آپ کے سارے ملک کو بھی تباہ و برباد کرنا لیں گے۔“

ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ جب مازام حاکم یمن کے فرستادہ یہ دو آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ کو ان کی یہ ٹمکیں ناگوار گزریں اور آپ نے ابازویہ بنی سے جس نے آپ سے سلسلہ کلام شروع کیا تھا فرمایا:

”مجھے تیری اور تیرے ساتھی کی یہ شکل و صورت دیکھ کر انسو ہوا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ایسی وضع رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟“

بازویہ نے جواب دیا:

”یہ حکم ہمیں ہمارے مالک نے دیا ہے۔“

ظاہر ہے کہ اس کی مراد کسریٰ سے تھی۔ بازویہ کا جواب سن کر آپ نے فرمایا:

”مگر ہمارے مالک نے تو ہمیں داڑھی رکھنے اور مونچھیں کم کرنے کا حکم دیا ہے۔“

بہر کیف اس کے بعد آپ نے بازویہ اور اس کے ساتھی قہرمانہ سے کہا کہ وہ دونوں اگلے روز آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ فرما سکیں۔ آپ سے یہ سن کر وہ دونوں آپ سے اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے لیکن اسی روز آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے فلاں رات کو فلاں شہر میں قتل کر کے ایران کے تخت اور سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔

ابن جریر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر ملنے کے بعد آنحضرت ﷺ نہ خود ہی مازام کے فرستادہ دونوں آدمیوں کو بلا کر انہیں یہ خبر سنائی تو وہ حیرت سے بولے:

”آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے سمجھ بھی رہے ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

”جو اطلاع میں نے تمہیں دی ہے وہ بالکل درست ہے اور میں اسے خوب جانتا اور سمجھتا ہوں۔ بہر حال اب تمہیں

چاہیے کہ یہاں سے فوراً یمن واپس جاؤ اور وہاں مازام کو یہ اطلاع دے دو۔“

آپ نے انہیں کچھ زرقند بھی دیا تھا۔

بازویہ اور اس کا ساتھی قہرمانہ دونوں آپ سے مذکورہ بالا خبر سن کر پہلے حواس باختہ ہو چکے تھے چنانچہ آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسی روز واپس یمن چلے گئے۔

بازویہ نے یمن پہنچ کر جب مازام کو مذکورہ بالا خبر سنائی تو وہ بھی حیران رہ گیا لیکن ابازویہ نے اسے مشورہ دیا کہ جب تک ایران سے اس خبر کی تصدیق نہ ہو جائے اس کی اطلاع یمن میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔

مازام نے کہا:

”ایسا ہی ہوگا لیکن اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس شخص کے مجھ صادق ہونے میں کلام نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ خبر غلط ہوئی تو ہم پھر

اسے دیکھ لیں گے۔“

جیسا کہ ابن جریر نے لکھا ہے اس کے چند روز بعد ہی مازام کو شیروہ نے خط لکھا کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے کیونکہ اس نے ایرانیوں پر ظلم و تعدی اور ایران کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے آگے شیروہ نے مازام کو لکھا کہ جس طرح وہ اس کے باپ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار رہا ہے رہے تو اسے پہلے کی طرح یمن کا حاکم رہنے دیا جائے گا اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہے۔

شیروہ کی طرف سے یہ خط ملنے کے بعد مازام نے اباذویہ سے کہا:

جس شخص نے تمہیں یہ خبر سنائی تھی وہ یقیناً نبی مرسل ہے کیونکہ انبیاء کے سوا دوسروں سے پہلے ایسی اہم خبریں کسی کو نہیں ہوتیں۔

ابن جریر کہتے ہیں کہ چونکہ مازام کو آنحضرت ﷺ کے سچا نبی ہونے کا یقین کامل ہو چکا تھا اس لیے وہ نہ صرف خود مسلمان ہو گیا بلکہ اس کی تلقین پر یمن میں جتنے ایرانی باشندے تھے سب نے اسلام قبول کر لیا۔

بیہتی کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے کسریٰ کی ہلاکت کے بارے میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا:

”کسریٰ پر نعت ہو کہ وہ ایران کے بعد عرب کو بھی تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔“

پھر جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ شیروہ نے اپنے بعد اپنی بیٹی کو ایران پر حکومت کے لیے نامزد کیا ہے تو آپ نے فرمایا:

”جس قوم کی حکمران کوئی عورت ہوگی وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتی۔“

بیہتی کا بیان ہے کہ کسریٰ سے کسی شخص نے اس کے محل سے باہر اس عصا کی طرف اشارہ کر کے جسے وہ عموماً سہارے کے لیے لے کر چلا کرتا تھا کہا تھا کہ اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس کا وہ عصا ٹوٹ جائے گا لیکن اس نے جواب دیا تھا کہ: ”میرا یہ عصا کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے فوراً بعد جب کسریٰ اپنے خلوت خانے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں وہی شخص موجود ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس کا عصا ٹوٹ جائے گا۔ اس پر اس نے پھر وہی جواب دیا کہ اس کا وہ عصا ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ پھر کسریٰ نے اپنے حاجب کو بلا کر پوچھا: یہاں اس شخص کو داخل ہونے کی کس نے اجازت دی ہے؟“ کسریٰ کے حاجب نے حیران ہو کر جواب دیا: ”اعلیٰ حضرت! یہاں تو کوئی نہیں ہے۔“ یہ سن کر کسریٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کسریٰ نے اس عجیب و غریب واقعے کو وہم سمجھ کر بھلانا چاہا لیکن بھلانہ سکا اور اس کے چند روز بعد ہی اس کے بیٹے شیروہ نے اسے قتل کر دیا۔

بیہتی مزید بیان کرتے ہیں کہ کسریٰ کے قتل کی خبر عرب میں مشہور ہونے سے قبل سب سے پہلے سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ نے سن کر آنحضرت ﷺ کو سنائی تھی تو آپ نے اس پر حیرت کا اظہار نہیں فرمایا تھا لیکن بعد میں لوگ عموماً کہتے تھے کہ:

”کسریٰ نے آنحضرت ﷺ کے مکتوب گرامی کی توہین کی تھی اس لیے کسریٰ رہا نہ اس کا ملک اس کی اولاد کے قبضے میں

رہا لیکن اس کے مقابلے میں قیصر روم نے چونکہ آپ کے مکتوب کا نہ صرف احترام کیا تھا بلکہ اسے مشک میں بسا کر محفوظ کر

لیا تھا اس لیے اس کا ملک علیٰ حال اب تک باقی ہے۔“

آ نحضرت ﷺ کا خط مقوقس کے نام

آ نحضرت ﷺ نے چوتھا خط مقوقس حاکم اسکندریہ کو ارسال فرمایا تھا جس کا نام جرتح بن مینا قبطی تھا۔ یونس بن کبیر ابن اخلق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان سے یعنی ابن اخلق سے زہری نے عبداللہ بن القاری کے حوالے سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے مقوقس صاحب اسکندریہ کے نام جو خط بھیجا تھا اسے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے حکم سے لے کر گئے تھے اور جب وہ آپ کا وہ مکتوب گرامی لے کر اسکندریہ پہنچے تھے تو مقوقس نے انہیں بڑے عزت و احترام سے ٹھہرایا تھا اور آپ کا وہ مکتوب گرامی موصول ہونے پر انتہائی اظہار مسرت کرتے ہوئے جوابا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا تھا نیز آپ کی خدمت میں تحائف کے طور پر قیمتی سرج کی مرصع عبادقا کے علاوہ دو کنیریں بھی بھیجی تھیں جن میں سے آپ نے ایک جو بعد میں ام ابراہیم کہلائیں اپنی خدمت میں لے لی تھیں اور دوسری محمد بن قیس العبیدی رضی اللہ عنہم کو عطا فرمادی تھی۔

یہی ہی نے مقوقس کے نام آنحضرت ﷺ کے مکتوب گرامی کے بارے میں متعدد مستند حوالوں کے ساتھ خود حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہم کا جو اپنا بیان پیش کیا ہے وہ درج ذیل ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے اسکندریہ کے حکمران مقوقس کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا تو اس نے مجھے اپنے خاص محل میں ٹھہرایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ پھر اس نے اپنے مشیروں کو طلب کیا اور مجھ سے پوچھا: ”جن کا تم خط لائے ہو کیا وہ خدا کے نبی ہیں جیسا کہ انہوں نے اس خط میں لکھا ہے؟“ میں نے جواب دیا: ”وہ خدا کے نبی بھی ہیں اور اس کے رسول بھی۔“

اس نے کہا:

”اگر وہ خدا کے رسول ہیں تو اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے بجائے اپنا شہر اور اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسرے شہر اور دوسرے لوگوں میں کیوں چلے گئے ہیں؟“

میں نے جواب دیا: ”حضرت عیسیٰ خدا کے رسول تھے یا نہیں؟“

وہ بولا: ”یقیناً تھے۔“

میں نے کہا:

”تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کی قوم نے انہیں کتنا ستایا تھا بلکہ اپنے نزدیک سولی تک دے دی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ

نے انہیں آسمان دنیا پر اٹھالیا تھا۔“

میرا یہ جواب سن کر مقوقس بولا:

”تم واقعی حکیم ہو اور تمہارے نبی بھی معدن حکمت اور واقعی سچے نبی ہیں۔“

حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہما آگے بیان کرتے ہیں کہ:

”اس نقتلو کے بعد مقوقس نے میری خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور جب مجھے رخصت کیا تو رسول اللہ ﷺ کے لیے تحائف کے طور پر قیمتی ملبوسات کے علاوہ تین کنیریں بھی بھیجی تھیں جن میں سے ایک آپ کے بیٹے ان کے بطن سے بعد میں ولادت پانے والے ابراہیم کی ماں ام ابراہیم ماریہ رضی اللہ عنہما تھیں اور دوسری سیرین تھیں جو آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما کو بخش دی تھیں جن کے بطن سے عبدالرحمن بن حسان رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے تھے۔“

حقیقت یہ ہے کہ مقوقس نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بعد اظہار احترامات جو ہدایا بھیجے تھے ان میں تین کنیریں تھیں جن میں سے ایک ماریہ قبطیہ نامی کنیر کو آپ نے اپنی خدمت میں لے لیا تھا جن کے بطن سے ابن رسول اللہ ابراہیم پیدا ہوئے تو وہ ام ابراہیم کہلائیں۔ اس کے علاوہ مقوقس نے آپ کے لیے بطور ہدایا ایک سفید قام مادہ نخر، ایک جوڑی سیاہ مزین و منقش چرمی موزے اور ایک حبشی غلام بھیجا تھا جس کا نام مابور تھا۔ یہ غلام مصری دستور کے مطابق خسی کر دیا گیا تھا اور اس لیے آنحضرت ﷺ اسے ام ابراہیم ماریہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آنے جانے کی اجازت دے دی تھی لیکن اس کے بارے میں لاعلمی کی وجہ سے لوگوں میں غلط افواہیں پھیلنے لگیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی لیکن انہیں حقیقت حال کا علم ہوا تو آپ سے معافی چاہی اور دوسرے لوگ بھی اس حقیقت سے واقفیت کے بعد حد ورجہ نادماند ہوئے۔ (مؤلف)



غزوة ذات السلاسل

حافظ بیہقی کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے قبل آنحضرت ﷺ کو خبر ملی تھی کہ شام کی سرحد پر بنی ملی اور بنی قضاہ کے علاقے میں کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو کر پھر آپ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہیں تو آپ نے اس علاقے کے ان لوگوں کی اصلاح اور بصورت دیگر سرکوبی کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مجاہدین کے ایک رسالے کا سربراہ بنا کر ذات السلاسل کی طرف روانہ فرمایا لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ان فتنہ پرداز اور سرکش لوگوں کی تعداد ان کے عسکری رسالے سے کئی گنا ہے تو انہوں نے ایک مجاہد کو فوراً آنحضرت ﷺ کی خدمت میں مکہ کی درخواست کے ساتھ بھیج دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ درخواست پہنچنے پر آپ نے ایک دوسرا فوجی رسالہ جس میں ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) بھی شامل تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں جو مہارین میں سے تھے ان کی مدد کے لیے روانہ فرما دیا۔

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ بنی ملی کی طرف عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قبیلہ العاص بن وائل کے رشتے سے ان کے ماموؤں پر مشتمل تھا۔ بہر کیف جب مذکورہ بالا مکہ وہاں پہنچی تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بولے کہ باغیوں کے مقابلے میں پہلے اور دوسرے دونوں رسالوں کی کمان وہ کریں گے لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اصولاً ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ جو رسالہ بطور مکہ آنحضرت ﷺ نے ان کی سرکردگی میں بھیجا ہے اس کے علاوہ پہلے رسالے کی سربراہی بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ تاہم اختلافی مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہوئے جب ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) نے ان دونوں کو مزید بحث سے روکا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو فطری طور پر نرم و شگفتہ مزاج تھے اس بات پر راضی ہو گئے اور دونوں رسالوں کی سربراہی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سپرد ہو گئی۔

اس کے بعد جب باغیوں نے مجاہدین کے ان دونوں رسالوں سے مقابلے کی کوشش کی تو تعداد میں ان کی مجموعی تعداد سے بھی کئی گنا ہونے کے باوجود ان سے شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ لیکن مجاہدین کے ہاتھ تھوڑے سے اونٹوں کے سوا مال غنیمت میں کچھ نہ لگا اور ان میں سے بھی دس اونٹ ان کے رات کے کھانے میں کام آ گئے۔

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شب کو جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا سخت سردی تھی جس کی وجہ سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حتم ہو گئے لیکن پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تیمم کر کے صبح کی نماز ادا کی۔ تاہم ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے قلت آب کی وجہ سے غسل نہیں کیا تھا اور جتنا پانی مل سکا اس سے ستر پاک کر کے تیمم کر لیا تھا لیکن ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے غسل کے بجائے تیمم پر اکتفا کیا تھا لیکن غسل ستر سے جو پانی بیچ گیا تھا اس سے وضو کر لیا تھا۔

ایک آخری روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دافر مقدار میں پانی دستیاب ہونے کے باوجود صبح

کی نماز سے قبل غسل نہیں کیا تھا اور جب اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو ہوئی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا:
 ”عمر و! کیا تم نے غسل کے لیے پانی دستیاب ہونے کے باوجود بغیر غسل کیے بنیسی حالت میں نماز پڑھی تھی؟“۔

آپ کے اس سوال کا جواب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ دیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) چونکہ وہاں صبح کے وقت بھی شدید سردی تھی اس لیے مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو گئی اور میں نے غسل
 کی جگہ تیم اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ ویسے چونکہ میں نے قرآنی آیت:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

”یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔“

سنی ہوئی تھی اس لیے میں اپنی جگہ مطمئن ہو گیا تھا۔“

کہا جاتا ہے کہ آنحضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ آخری دلیل سننے کے بعد ہنس کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کسی
 روایت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر انہیں سرزنش کی تھی یا نہیں۔



ساحل بحر کی طرف غزواتی مہم

چونکہ فتح مکہ سے قبل آنحضرت ﷺ کو مکہ کے درمیان ساحل بحر کے نزدیکی راستے میں مشرکین کی طرف سے شورش و بد امنی پھیلانے کی اطلاع ملی تھی اس لیے آپ نے اس طرف ایک غزواتی مہم پر مجاہدین اسلام کو روانہ فرمایا۔ امام مالکؒ و ہب بن کیسان اور جابر بن عبد اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ساحل سمندر کے نزدیک علاقے میں ابو عبیدہ بن جراح بن عبد اللہ کی سرکردگی میں تین سو مجاہدین پر مشتمل ایک عسکری رسالہ روانہ فرمایا جس میں جابر بن عبد اللہ کے بقول وہ خود بھی شامل تھے۔

جابر بن عبد اللہ مزید کہتے ہیں:

”ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ ہمارا زادراہ سوائے کچھ کھجوروں کے ختم ہو گیا اور زادراہ کی اس سخت قلت کے پیش نظر سارے رسالے کو فردا فردا تھوڑی تھوڑی کھجوریں بانٹ دیں لیکن آگے چل کر ان کی مقدار بھی صرف اتنی رہ گئی کہ ہر شخص صرف ایک کھجور یومیہ پر گزارہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بہر کیف جب ہم ساحل سمندر تک اسی طرح صبر و شکر کے ساتھ صرف ایک ایک کھجور فی کس یومیہ اور پانی پر گزارہ کرتے ہوئے پہنچ گئے تو وہاں ہمیں مچھلیاں مل گئیں جن پر ہم نے اٹھارہ روز بسر کیے۔“

جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے جیش کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بن عبد اللہ کی سرکردگی میں جوان کے امیر جیش تھے ان اضلاع کی طرف مڑے جدھر سے قریش مکہ کے قافلے مدینہ کا سیدھا راستہ چھوڑ کر یعنی اس سے بچ کر شام جاتے تھے اور راستے میں جو مشرکین کی بستیاں پڑتی وہاں ٹھہرتے ہوئے اور وہاں کے باشندوں کو مسلمانوں کے خلاف شور و شر اور بغاوت پر آمادہ کر کے آگے بڑھتے تھے تو انہیں نہ قریش کا کوئی قافلہ ملا اور نہ کوئی راہ گیر اور راستہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا تو وہ مچھلیاں بھی جن پر انہوں نے اٹھارہ روز گزارے تھے ختم ہو گئیں تو درختوں کے پتے (خبط) دھو دھو کر کھانے پڑے جس کی وجہ سے اس جیش کا نام ”جیش الخبط“ پڑ گیا تھا۔ جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ:

”اس مصیبت سے گھبرا کر ہم نے دوبارہ ساحل سمندر کا رخ کیا تو وہاں پہنچ کر ہمیں مچھلیاں تو نہ ملیں لیکن ہم نے دیکھا کہ سمندری موجدوں نے ایک عظیم الجثہ بحری جانور کو ساحل پر لایا ہے۔ اس جانور کو دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی مگر جب ہم نے دیکھا کہ وہ مردہ ہے تو ہمارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔“

جابر بن عبد اللہ مزید بیان کرتے ہیں کہ ان کے اس جیش کے تمام ساتھی اس جانور کو یکے بعد دیگرے دیکھنے کے بعد مڑ کر امیر جیش ابو عبیدہ بن جراح بن عبد اللہ کا حسرت سے منہ دیکھنے لگے تو بولے:

”آنحضرت ﷺ کو میں نے کہتے سنا ہے کہ ”انہضی راجی لیلات میں جان بچانے کے لیے مرے جانور کا گوشت کھا لینا جائز ہے“ لہذا تم اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہو۔“

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

”ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بتایا تو ہم لوگوں نے اس عظیم الجثہ سمندری جانور کا گوشت آپس میں بانٹ لیا لیکن ہم تین سو افراد کو اس میں سے ایک ایک بوٹی بھی مشکل سے ملی۔“

جابر رضی اللہ عنہ آخر میں کہتے ہیں کہ جب ان کا وہ ہمیشہ واپس مدینے پہنچا تو آنحضرت ﷺ نے اس صورت حالات پر جس سے اسے اس مہم کے دوران میں سابقہ پڑا تھا اظہارِ افسوس فرماتے ہوئے اس کے صبر و استقامت پر اسے کلماتِ تحسین و آفرین سے نوازا اور اس مردہ جانور کے گوشت کو بھی ان حالات میں اس کے لیے جائز قرار دیا۔

بعض راویوں نے اس مہم اور ان واقعات کا ذکر صلح حدیبیہ سے پہلے کے واقعات کے ساتھ اور سالِ ششم ہجری کے واقعات کے ضمن میں کیا ہے لیکن یہ روایات سن ہجری کے تعین کی حد تک محلِ نظر ہیں کیونکہ ان روایات میں نجاشی کی وفات کا ذکر بھی کیا گیا ہے جسے آنحضرت ﷺ نے ”ایک صالح شخص کی وفات“ فرمایا تھا، لیکن نجاشی کی وفات کا ذکر دوسرے مستند راویوں نے بلا استثناء سالِ ہشتم ہجری کے واقعات کے ساتھ کیا ہے۔ واللہ اعلم (مؤلف)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فتح مکہ

غزوہ و فتح مکہ سال ہشتم ہجری ماہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ شریفہ میں جو اس سے قبل نازل ہوئی اور سورہ فتح میں فرمایا جو اس کے بعد نازل ہوئی۔ وہ آیت اور سورہ درج ذیل ہیں:

﴿لَا يَسْتَوِيٰ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰى﴾

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

ابن اسحاق غزوہ مکہ اور اس میں آنحضرت ﷺ کی فتح عظمیٰ کے بارے میں اس کی بنیادی وجوہات پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں ان شرائط کی شمولیت کے باوجود کہ اگر اس مدت صلح کے سہ سالہ دور میں اگر کوئی مسلمان قریش مکہ کے پاس واپس چلا جائے گا تو قریش اسے مدینے بھیجنے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے بلکہ اس کے برعکس اگر قریش مکہ کا کوئی شخص اسلام قبول کرے یا اسلام قبول کیے بغیر اگر مدینے چلا جائے گا تو آنحضرت ﷺ اسے واپس مکے بھیج دیں گے اور قریش مکہ اور اہل مدینہ یعنی مسلمانوں کے مابین اس مدت صلح کے دوران میں امن و امان کی ذمہ داری فریقین پر ہوگی اور قریش مکہ کی اس ہٹ دھرمی پر مبنی شرائط کو بھی آنحضرت ﷺ کی طرف سے قبول کر لینے کے باوصف قریش مکہ کی طرف سے اس دوران میں بھی چھیڑ چھاڑا فتنہ پردازی و شرانگیزی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ جب کہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے مکے کے شام جانے والے قافلوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کا مسلمانوں کو قطعاً کوئی حکم نہیں دیا بلکہ مذکورہ بالا صلح نامے کی پوری پابندی کا خیال رکھا گیا لیکن جب مدینے کے قرب و جوار اور مکے اور شام کے راستے میں آباد قبائل میں جن میں سے کچھ مسلمانوں کے طرف دار اور کچھ قریش مکہ کے طرف دار تھے قریش کے طرف دار قبائل کی طرف سے خواہ مخواہ جھگڑے کھڑے کیے گئے بلکہ قریش کی طرف سے اپنے طرفداروں کو ابھارا کر مسلمانوں کے طرف دار قبائل کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی حتیٰ کہ مسلمانوں کے طرف دار قبائل کے کئی افراد بے سبب قتل کر دیئے گئے تو آنحضرت ﷺ کو اس طرف بطور خاص توجہ فرمانا پڑی جس کی پہلی کڑی وہ مہم تھی جو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بنی ہلی اور ان کے ساتھ ہو جانے والے کچھ بنی قضاہ و بنی دہل کی سرکوبی کے لیے سواہلی اضلاع کی طرف روانہ فرمائی اور جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔

قریش کے مذکورہ بالا سب عداوتی اقدامات کی روک تھام کے لیے آنحضرت ﷺ کے اولین اقدام کی خبر سے قریش

مکہ میں کھلبلی پڑ گئی اور ابوسفیان صلح نامہ حدیبیہ کی مدت میں توسیع کے لیے گفتگو کی خاطر بھاگ بھاگ مدینے آیا لیکن خود قریش مکہ کی طرف سے اس کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر وہ آپ سے اس سلسلے میں براہ راست گفتگو کی جسارت نہ کر سکا۔ اس نے اس سلسلے میں پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مدد کی درخواست کی انہوں نے اس کا اجر بننے سے معذرت کرتے ہوئے کہا:

”تم قریش کے سردار ہو اپنی قوم کے کسی معزز مسلمان مہاجر سے اس سلسلے میں مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟“

اس کے بعد جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا تو وہ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا لیکن وہ اس وقت اپنے مکان میں موجود نہ تھے۔ اس نے جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ وہ اپنے والد گرامی سے اس کی سفارش کر دیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتیں۔ ان کے اس جواب پر اس نے ان کے بیٹوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہی اس کی سفارش اپنے نانا سے کر دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا:

”یہ بچے بھلا ایسے معاملات میں کیا کر سکتے ہیں جب کہ وہ انہیں سمجھ بھی نہیں سکتے۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس دوران میں جبریل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کو بنی کعب پر قریش کے مظالم کی اطلاع دے چکے تھے اور انہوں نے اس مظلوم قبیلے پر قریش اور ان کے طرف دار قبائل کے ڈھائے ہوئے مظالم کی داستان کچھ ایسے رقت آمیز انداز میں بیان کی کہ آپ قریش کے خلاف جنہوں نے صلح نامہ حدیبیہ کی مقررہ مدت کے اختتام سے پہلے ہی مذکورہ بالا ظالمانہ اقدامات میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی تھی خود بھی کوئی سخت اقدام اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے قبل ابوسفیان مکے واپس جا کر وہاں مشرکین کو مدینے میں اپنی ناکامی کی اطلاع دے چکا تھا۔

مشہور ہے کہ ابوسفیان مدینے میں اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ملنے بھی گیا تھا، لیکن جب وہ ان کے حجرے میں اس فرش پر بیٹھنے لگا جس پر آنحضرت ﷺ تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو وہ بولیں:

”آپ اس فرش پر نہ بیٹھیں کیونکہ یہ رسول اللہ (ﷺ) کے بیٹھنے کا پاک فرش ہے جب کہ آپ مشرک اور نجس ہیں۔“

ممکن تھا کہ ابوسفیان اپنی بیٹی سے کہتا کہ وہ آنحضرت ﷺ سے صلح نامہ حدیبیہ کی مدت میں توسیع کے لیے اس کی سفارش کریں لیکن ان کے اس طرز عمل سے دل برداشتہ ہو کر ان سے کچھ کہے بغیر ہی ان کے حجرے سے کھڑے کھڑے لوٹ آیا۔ تاہم وہ جرأت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہی گیا تو آپ نے فرمایا:

”یہ تم ہو جو قریش کے صلح نامہ حدیبیہ کی خود تمام تر خلاف ورزیوں کے باوجود اس کی مدت میں توسیع کے خواہش مند ہو؟“۔ (حدیث نبوی کا تشریحی ترجمہ)

ابوسفیان کے مدینے سے چلے جانے کے بعد آنحضرت ﷺ نے صلح حدیبیہ کی مدت کے اختتام سے پہلے ہی قریش مکہ کی طرف سے اس کی خلاف ورزی اور بنی کعب وغیرہ پر ان کے مظالم کے پیش نظر اور انہیں ایک آخری اور عبرت آموز سبق دینے کے لیے مہاجرین و انصار اور اپنے طرف دار قبائل پر مشتمل ایک بڑے لشکر کی تیاری اور مکے کی طرف روانگی کا حکم دیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا یہ حکم سن کر آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) کیا آپ کے اہل قریش مکہ کے مابین تین سال کی مدت کے لیے صلح ہاں نہیں ہے؟“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کیا تمہیں اس صلح نامے کی مدت کے اختتام سے قبل قریش نے ہی لعب ہر بے سبب جو مظالم توڑے ہیں ان کی خبر نہیں ہے؟“

بہر حال آنحضرت ﷺ نے مذکورہ بالا لشکر کو مکے کی طرف روانہ فرماتے ہوئے یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی کہ اسے خشکی کے راستے بھیجنے کی بجائے بحری راستے سے روانہ فرمایا تاکہ نواح مکہ میں اس کے پہنچنے سے قبل قریش مکہ کو اس کی آمد کی خبر نہ ہو سکے۔

حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا قصہ:

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن جعفر نے عروہ بن زبیر وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب مذکورہ بالا لشکر آنحضرت ﷺ کے حکم سے مکے کی طرف روانگی کے لیے تیاریوں میں مصروف تھا تو اس دوران میں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر ایک خط میں لکھ کر وہ خط ایک عورت کو دیا تاکہ وہ اسے جلد سے جلد قریش مکہ کو پہنچا دے۔ محمد بن جعفر کے خیال میں اس عورت کا تعلق مزینہ سے تھا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام سارہ تھا اور وہ بنی عبدالمطلب میں سے کسی کی کنیز تھی۔ اس نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپا لیا تھا۔

بہر کیف اس واقعے کی خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کو کر دی اور یہ خبر ہوتے ہی آپ نے حضرت علی اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو اس عورت کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔

محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ ان دونوں نے اس عورت کو راستے ہی میں جالیا اور اسے سواری سے اتار کر اس سے کہا کہ وہ خط ان کے حوالے کر دے۔ پہلے تو وہ اس خط کی اپنے پاس موجودگی سے انکار کرتی رہی لیکن جب حضرت علی اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے اسے تلاشی کی دھمکی دی تو اس نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا تحریر کردہ مذکورہ بالا اپنے بالوں سے نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔

محمد بن جعفر مزید بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے حاطب رضی اللہ عنہ سے اس خط کے بارے میں باز پرس کی تو وہ شرمندہ ہو کر بولے کہ چونکہ ان کا ایک بیٹا اور کچھ دوسرے اہل و عیال کے میں تھے اور انہیں مسلمانوں کے کئے پر حملہ آور ہونے کی صورت میں ان کی طرف سے اندیشہ تھا اس لیے ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔

حاطب رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سننے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے اجازت طلب کی تاکہ وہ حاطب رضی اللہ عنہ کی گردن اڑا دیں لیکن آپ نے ارشاد باری تعالیٰ: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ﴾ سناتے ہوئے فرمایا:

”عمر رضی اللہ عنہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے آئندہ سرزد ہونے والی بھی ہر خطا معاف فرمادی ہے اور تم جاننے ہو کہ حاطب اہل بدر میں سے ہیں۔“

حاطب رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر پانی پانی ہو گئے اور آپ سے دست بستہ معافی کے طالب ہوئے تو آپ نے بغیر کسی سرزنش کے انہیں معاف فرمادیا کہ رحمت عالم کی یہی سبت تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے

مندرجہ ذیل آیہ شریفہ میں حاطب غرضیہ کے اس ارتکابِ عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ اور مسلمانوں کو ایسی باتوں کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ... الخ ﴾

ابن اسحاق نے اس حصے کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔

کئی بیان کرتے ہیں کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خط میں قریش مکہ کو لکھا تھا کہ:

”رسول اللہ (ﷺ) تمہاری طرف بڑی رات کے برابر یعنی ایک عظیم لشکر لے کر سیلاب کی طرح آنے والے ہیں۔

میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ تمہارا بھی تمہارے مقابلے کے لیے تشریف لاتے تب بھی تمہاری شکست یقینی ہوتی

کیونکہ اللہ تعالیٰ (تمہارے مقابلے میں) آپ کی مدد کا وعدہ فرما چکا ہے جسے وہ یقیناً پورا فرمائے گا۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابن سلام کے علاوہ جنہوں نے اپنی تفسیر میں اس قصے کو بیان کیا ہے بخاری نے بھی اس واقعے کو مسلم

کی سند کے ساتھ پیش کیا ہے۔



فصل

آنحضرت ﷺ کی مدینے سے مکے کی طرف روانگی

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن مسلم بن شہاب زہری نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ اس دفعہ جب آنحضرت ﷺ نے مکے کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا تو مدینے میں اپنی نیابت کے لیے کلثوم بن حصین بن عتبہ بن خلف غفاری کا تقرر فرمایا آپ مدینے سے دسویں رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے بعد روانہ ہوئے اور کدید و عسفان کے درمیان انج پہنچ کر روزہ افطار فرمایا۔ پھر اگلی صبح نماز کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر ظہران سے آگے اپنے دس ہزار مسلمانوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔

عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے زیرِ کمان بارہ ہزار مسلمانوں پر مشتمل لشکر تھا جس میں زہری اور موسیٰ بن عقبہ کے بقول بنی سلیم کے مسلمانوں نے مل کر اور اضافہ کر دیا تھا لیکن بعض دوسرے لوگوں کا بیان یہ ہے کہ آپ کے دس ہزار مسلمانوں پر مشتمل اصل لشکر میں بنی سلیم اور بنی مزینہ کے مسلمانوں کے علاوہ راستے میں جتنے قبائل کی بستیاں پڑی تھیں۔ ان کے کچھ نہ کچھ مسلمان شامل ہو گئے تھے اس لیے اس اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد بارہ ہزار تک جا پہنچی تھی۔ ویسے کسی فرد واحد نے اس سفر میں آنحضرت ﷺ کی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ اس لشکر میں اکثر مہاجرین و انصار کا کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق تھا۔ بخاری نے بھی محمود عبدالرزاق، معمر اور زہری کے حوالے سے یہی بیان کیا ہے۔

بیہقی کہتے ہیں کہ ان سے عاصم بن علی نے لیث بن سعد، عقیل اور زہری کے حوالوں سے آنحضرت ﷺ کی مدینے سے روانگی کے بارے میں جو کچھ بیان کیا اور خود زہری نے عبید اللہ بن عبد اللہ کی زبانی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے اس بارے میں جو کچھ سنا اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ آپ مدینے سے ماہ شعبان میں روانہ ہوئے تھے اور ماہ رمضان راستے میں آیا تھا بلکہ جیسا کہ سعید بن مسیب بتاتے ہیں آپ نے مدینے سے روانہ ہو کر کدید و عسفان کے درمیان ایک کنوئیں پر پہنچ کر روزہ افطار فرمایا تھا جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مدینے سے ماہ رمضان ہی میں روانہ ہوئے تھے۔

بخاری علی بن عبد اللہ اور جریر کی زبانی منصور، مجاہد، طاؤس اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ماہ رمضان میں مدینے سے روانہ ہوئے تھے اور عسفان میں روزہ افطار فرمایا تھا جس کے بعد مکے پہنچنے تک سفر کے دوران میں کبھی روزہ رکھا تھا اور کبھی قضا فرمادیا تھا۔ اس سے لوگوں کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ سفر کے دوران میں شرعاً روزہ قضا کیا جاسکتا ہے۔ خود ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی کہتے ہیں کہ مدینے سے مکے پہنچنے تک سفر کے دوران میں آنحضرت ﷺ کبھی روزہ رکھتے تھے اور کبھی قضا فرمادیتے تھے اور اس طرح آپ کے لشکر والوں میں سے کچھ لوگ اس سفر میں کبھی روزہ رکھتے تھے اور کبھی قضا کرتے تھے لیکن جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ کے کچھ لوگ صبح روزہ داروں نے بھی روزہ قضا کر دیا تھا۔

فصل:

عباس بن عبدالمطلب، ابی سفیان بن حارث بن عبدالمطلب اور ام المؤمنین ام سلمہ کے

بھائی عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ مخزومی رضی اللہ عنہم کا قبول اسلام اور مکے کے

راستے میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عباس بن عبدالمطلب اور ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب اپنے اہل و عیال سمیت مکے سے روانہ ہو کر مکہ اور مدینہ کے راستے میں کسی جگہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جب کہ ابن ہشام کا بیان یہ ہے کہ وہ بھٹہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ کا قیام اس سے قبل مکہ میں تھا اور دوسرے بنی عبدالمطلب کی طرح وہ بھی عرب کے گوشے گوشے سے آنے والے خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے بلا معاوضہ آب رسانی کا کام کیا کرتے تھے اس لیے وہ آپ کے چچا ہونے کے علاوہ ابن شہاب بقول زہری ویسے بھی آپ کی پسندیدہ شخصیت تھے۔

ابن اسحاق ایک دوسری جگہ بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے علاوہ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب اور عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ اور مدینہ ہی کے راستے میں ”بنین العقاب“ نامی قبے میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ مکے چلنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ سے عباس بن عبدالمطلب اور ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہہ کر کہ وہ آپ کے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں ان کی اس خواہش کو قبول کرنے کی سفارش کی تھی لیکن آپ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ انہیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جب ان لوگوں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ مکے والے تو آپ کی طرف ان کا جھکاؤ دیکھ کر اب انہیں واپس قبول نہیں کریں گے لہذا ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب انہی اطراف میں بھٹکتے بھٹکتے بھوکے پیاسے مرجائیں گے تو آپ نے ان پر ترس کھا کر انہیں اپنے ساتھ مکے چلنے کی اجازت دے دی تھی جس کے بعد ان سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے پچھلے اعمال پر ندامت اور اسلام میں شمولیت پر مسرت کا اظہار بڑے قابل تعریف اشعار میں کیا ہے جو اکثر کتب تاریخ میں ملتے ہیں۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ قبول اسلام کے بعد جب ابوسفیان رضی اللہ عنہ اس سے پہلے آنحضرت ﷺ کی ایذا رسانی کو یاد کر کے ایک روز خدا سے اپنے اعمال پر توبہ اور آپ کے سامنے اظہار ندامت کر رہے تھے تو آپ ان کے سینے پر ایک زوردار ہاتھ جما کر بولے:

”تم بھی تو پہلے بارے سینے پر اس طرح کے ہاتھ کیا کرتے تھے“۔ (مقبول تریں)

فصل:

ظہران سے آگے بیرون مکہ آنحضرت ﷺ کا آخری پڑاؤ

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے آنحضرت ﷺ کی عسکری تدبیر کے عین مطابق ظہران سے گزرنے کے بالکل سامنے پہنچنے تک مشرکین مکہ کو آپ کے وہاں پہنچنے کی مطلق خبر نہ ہو سکی۔ حالانکہ ان کے جاسوس کے اور مدینے کے درمیان عام راستے کے علاوہ بھی ہر راستے کی خبر رکھتے تھے۔ اس لیے یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی اسے قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ انہیں وہاں بھی آپ یا آپ کے لشکر کا کوئی فرد نظر ہی نہ آسکا۔

بہر کیف کچھ چرواہوں یا ان گوالوں کے ذریعہ جو اہل مکہ کو بیرون مکہ سے دودھ فراہم کیا کرتے تھے مشرکین مکہ کو آنحضرت ﷺ اور آپ کے اتنے بھاری لشکر کی مکے کے اس قدر نزدیک آ جانے کی خبر ملی تو وہ ہٹا گئے اور انہوں نے اس کی تصدیق کے لیے ابوسفیان بن حارث بدیل بن ورقاء اور حکیم بن حزام کو مکے سے روانہ کیا اور وہ ادھر ادھر ٹوہ لگاتے پھر رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نظر میں آ گئے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت آنحضرت ﷺ کی سواری کے سفید خچر پر آپ کی اجازت بلکہ حکم سے سوار تھے اپنے ساتھیوں کو ملا کر ان تینوں بلکہ ان کے ساتھیوں کے گرد بھی انہیں گرفتار کرنے کے لیے گھیرا ڈالا تو ابوسفیان خود ہی دوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور ان سے بولے: ”اھا! عباس میرے بھائی تم؟ تم یہاں کہاں؟“۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”تمہیں کیا معلوم نہیں کہ میں بدیل بن ورقاء اور حکیم ابن حزام تینوں مسلمان ہو چکے ہیں؟“۔ ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا: ”اچھا! اور یہ سفید خچر کس کا ہے جس پر تم سوار ہو؟“ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے: ”یہ رسول اللہ (ﷺ) کا خچر ہے اور آپ نے مجھے یہ دے کر تم جیسے مشرکین کے جاسوسوں کا سراغ لگانے اور گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔“

اتنا کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ابوسفیان اور ان کے سب ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے چلے۔

آنحضرت ﷺ نے عسکری حسن تدبیر کے لحاظ سے اپنے لشکر کو ظہران کے عام راستے یا گزرگاہ وادی کباث سے لے کر مکے کے سامنے کی وادی تک اس طرح چہار جانب پھیل کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تھا کہ وہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کم و بیش بارہ ہزار افراد پر مشتمل ہونے کے بجائے اپنی اصل تعداد سے کئی گنا نظر آتا تھا۔ اس وقت آپ اپنی اس عسکری تدبیر کی کامیابی کے علاوہ مشرکین کو خبر ہوئے بغیر اپنے اس لشکر کے ساتھ وہاں تک پہنچ جانے پر مسرور نظر آ رہے تھے۔ اس لیے آپ کے کچھ صحابہ صحابہ نے آپ سے دریافت کیا۔

”یا رسول اللہ (ﷺ) آپ اس وقت بہت سرور نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو ان کامیابی کے علاوہ یہاں مال غنیمت کے وہ انبار بھی نظر آ رہے جو فتح مکہ کے بعد ہم اہل ایمان کی دسترس میں آنے والے ہیں؟“

آنحضرت ﷺ نے جواب فرمایا:

”ہاں لیکن یہ مال غنیمت نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بلکہ میری نظر میں یہ سرزمین ہے جو ظلمتِ انسانی ناپاکی سے نکل کر ان شاء اللہ پاک ترین ہونے والی ہے“۔ (تشریحی ترجمہ)

آنحضرت ﷺ کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے پیش نظر دنیاوی مال و دولت کے بجائے آپ کے بقول صرف وہ سرزمین تھی جو فتح مکہ کے بعد خدا کے فضل و کرم سے اہل اسلام کی ملکیت میں آ کر فیضانِ اسلام سے مشرف ہونے والی تھی اور یہی اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہونے کی حیثیت سے آپ کا مشن تھا یعنی دوسرے نذورات کے علاوہ غزوة مکہ اور فتح مکہ سے آپ کا مقصد و حید صرف اسلام کی اشاعت اور اس کا فروغ تھا۔

جب آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ، ابوسفیانؓ، بدیل اور حکیم ابن حزامؓ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لیے جا رہے تھے تو ان کا گزر مدینے کے مہاجرین و انصار مدینہ کے علاوہ ان مختلف قبائل کے کیمپوں سے ہوا جن کے امتیازی نشانات ان پر لہر رہے تھے اور ان کے کیمپوں کے سامنے ان کے چولہے روشن تھے۔ ابوسفیان نے بنی قضاہ کے کیمپ کے قریب ٹھہر کر حضرت عباسؓ سے پوچھا: ”یہ کیمپ کس قبیلے کا ہے؟“۔ حضرت عباسؓ نے جواب دیا: ”تم کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس قبیلے کے کیمپ کے سب سے بڑے خیمے پر اس قبیلے کا امتیازی نشان نظر آ رہا ہے؟“۔ ابوسفیان نے کہا: ”یہ کیمپ تو بہت بڑا ہے جب کہ اس قبیلے کے نوجوانوں کی تعداد تو اتنی نہیں ہے“۔

حضرت عباسؓ نے بولے:

”اس قبیلے کا ہر فرد جن میں اس کے جوان بوڑھے اور نابالغ بچے تک شامل ہیں جوشِ جہاد میں دوسرے مسلمانوں کے دوش بدوش مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے یہاں آ گیا ہے“۔

اسی طرح ابوسفیان جب حضرت عباسؓ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے کافی بڑے سبز خیمے کی طرف جا رہے تھے تو ہر قبیلے کے کیمپ سے اپنے دونوں مذکورہ بالا ساتھیوں کے ساتھ حضرت عباسؓ کی نگرانی میں گزرنے اور اس کی حیرت ناک تنظیم اور نظم و ضبط کو دیکھ کر اس پر انگشت بدنداں ہوتے ہوئے چند مخصوص خیموں کے پاس پہنچے تو پہلے خیمے کے سامنے ٹھہر کر بولے: ”یہ خیمہ کس کا ہے؟“ حضرت عباسؓ نے جواب دیا: ”یہ خیمہ عمر بن خطابؓ کا ہے“ اور اس سے اگلے خیمے کے بارے میں ابوسفیان کے اسی سوال پر انہوں نے جواب دیا: ”یہ خیمہ ابوبکر ابن قافہؓ کا ہے“۔

حضرت عباسؓ کے ساتھ ابوسفیان اور ان کے مذکورہ بالا دونوں ساتھیوں کو گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر کئی صحابہؓ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب یہ سب لوگ آنحضرت ﷺ کے بڑے سبز خیمے کے سامنے وہاں جو مجلس مشاورت کے لیے منعقد ہوئی تھی، پہنچے تو ان کے سامنے حضرت عباسؓ نے ان وقت حضرات ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ بھی موجود تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان کی شکل دیکھتے ہی آنحضرت ﷺ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ اجازت دیجیے تاکہ میں ان سب کی خصوصاً آپ کے اور خدا کے علاوہ اسلام کے پاس سب سے بڑے دشمن اسلام کی گردن مار دوں یہ وہی ہے جس نے ہجرت سے قبل آپ کو ایذا رسانی میں کوئی کوشش نہیں چھوڑی بلکہ یہ تو آپ کو قتل تک کرانے میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلیظ و غضب کا یہ عالم دیکھ کر رحمت عالم نے جو اس وقت بھی سارے عرب میں اسلام کا درخشاں مستقبل صاف ملاحظہ فرما رہے تھے انہیں صبر کی تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”عمر! تمہیں معلوم نہیں کہ جس شخص کو تم آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہہ رہے ہو کسی دن اسلام کا بہت زیادہ حامی اور مدد و معاون ثابت ہوگا۔“

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے مزاج شناس اور ہر حالت میں تابع فرمان تھے دم بخود رہ گئے۔ ابوسفیان نے نبی کریم ﷺ کا اپنے ایک جانی دشمن کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر کہا:

أَشْهَدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدَانِ مُحَمَّدًا لِرَسُولِ اللَّهِ.

اور یہ کہہ کر تصدیق قلب کے اظہار کے لیے آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کر لی جس کے بعد ابوسفیان کے دونوں ساتھیوں بدیل بن ورقاء اور حکیم ابن حزام نے بھی بلا تامل اسلام قبول کر لیا بلکہ ان تینوں کے علاوہ دیگر گرفتار شدگان بھی مسلمان ہو گئے۔

یہی متعدّد مستند حوالوں کے علاوہ آخر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابوسفیان اور ان کے مذکورہ بالا ساتھیوں کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ سب اسی رات کو مسلمان ہو گئے تھے۔

آنحضرت ﷺ کی صلہ رحمی کا صرف یہی کمال نہیں تھا کہ آپ نے ابوسفیان کے پچھلے اعمال اور ان کی حد سے زیادہ دشمنی اور آپ سے اظہار عناد سے درگزر فرماتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا تھا بلکہ جب اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم فتح مکہ کے دن کو یوم انتقام کہہ رہے تھے آپ نے اسے بیت اللہ کی آزادی اور عظمت و حرمت کا دن فرما کر یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اس روز ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گیا اس کے دروازے میں داخل ہو جائے گا اور اس سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا وہ بھی مامون و مصنون ہوگا۔

بخاریؒ حسب معمول متعدّد مستند حوالوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ایک رات قبل مشرکین مکہ نے تو ابوسفیانؒ حکیم ابن حزام اور بدیل بن ورقاء کو اسلامی لشکر کی سراغ رسانی کے لیے بھیجا تھا لیکن انہیں یہ خبر ملی کہ یہ لوگ نہ صرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں گرفتار بلکہ مسلمان بھی ہو گئے تو وہ حد درجہ سراسیمہ ہو گئے تھے۔



آنحضرت ﷺ کا مکہ میں داخلہ

صحیحین (صحیح مسلم و صحیح بخاری) میں زہری و انس کے حوالے سے امام مالک کا یہ بیان درج کیا گیا ہے کہ غزوہ فتح مکہ کے روز نبی آنحضرت ﷺ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور مشرکین لڑنے کے لیے آپ کے مقابل آئے تو اس وقت آپ کے سر مبارک پر خود اور اس کے نیچے سیاہ عمامہ شریف تھا جس کا شملہ آپ کے دوش مبارک پر ایک طرف پڑا ہوا تھا تاہم آپ نے اس وقت احرام باندھا ہوا نہیں تھا۔

اسی روایت میں ہے کہ اس وقت مجاہدین اسلام میں سے کسی نے آپ سے دریافت کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ اگر مشرکین ہم سے لڑتے لڑتے بھاگ کر جب ہم ان کے تعاقب میں ہوں بیت اللہ شریف کے زیر سایہ چلے جائیں تو ہم کیا کریں؟“۔

آپ نے فرمایا: ”انہیں قتل کر دو“۔ یہ سوال یقیناً اس لیے کیا گیا تھا کہ حکم شریعت کے مطابق بیت اللہ میں بلکہ اس کے گرد و پیش بھی کسی جانور تک کو مارنا حرام تھا اور ہے لیکن آپ کا یہ ارشاد گرامی بھی اسی حکم شریعت کے عین مطابق تھا جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر دشمنان اسلام وہاں مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں تو انہیں قتل کرنا ناجائز نہیں ہے۔ مسلم و ترمذی کے حوالے سے اہل سنت کے فقہی ائمہ اربعہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اعظم امام ابوحنیفہ نے مندرجہ بالا حدیث نبوی کی روشنی میں یہی بیان کیا ہے۔

ویسے متعدد ثقہ راویوں کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے روز مشرکین مکہ میں سے جس شخص نے بھی آنحضرت ﷺ سے ہمکلام ہونا چاہا تو آپ نے اسے انتہائی نرمی سے جواب دیا۔ جب مجاہدین میں سے کسی نے مشرکین مکہ کے بارے میں یہ کہنا چاہا کہ انہوں نے ماضی میں آپ پر کتنے مصائب اور ظلم توڑے تھے تو آپ نے اسے سختی سے روک کر فرمایا:

”اسی مکہ کی عورتوں میں سے ایک عورت کے شکم سے میری ولادت ہوئی ہے“۔

اس حدیث نبوی سے ظاہر ہوتا ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فتح مکہ کے روز بھی جو مشرکین کے مقابلے میں آپ کی عظیم الشان فتح اور ان کی شرمناک شکست فاش کا دن تھا آپ نے اپنے کسی ساتھی کو انہیں بے سبب قتل کرنے بلکہ سختی سے پیش آنے تک کی اجازت نہیں دی تھی جب تک ان کا کوئی اقدام معاندانہ و جنگجویانہ نہ ہو جب کہ روم کے حکمران نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہاں بنی اسرائیل کو ذلیل اور شرمناک انداز میں سر بسجود ہونے کا حکم دیا تھا۔

متعدد اہل علم نے مکہ میں آنحضرت ﷺ کے باوقار داخلے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آپ وہاں کے بالائی حصے سے شہر میں داخل ہوئے تھے جب کہ تیمتی نے متعدد دیگر حوالوں کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی آپ کے عسکری ملبوسات سیاہ

تمائے اور سواران کی تعیلات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپؐ کے نشی حصے سے وہاں داخل ہونے تھے اور مکے کے بالائی حصے سے وہاں داخل ہونے والے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔

مشہور ہے کہ فتح مکہ کے روز آنحضرت ﷺ وہاں کے مشرک مردوں سے زیادہ خواتین کے ساتھ نرمی و اخلاق سے پیش آئے تھے۔ حسان ابن ثابت نے اپنے اشعار میں فتح مکہ کے ساتھ آپؐ کے اس حسن اخلاق کا بھی ذکر کیا ہے۔

جب مکے کی خواتین جوق در جوق آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے لگیں تو آپؐ نے متمسم ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”انہیں اس عزت و احترام سے میرے پاس آنے دو جس کا ذکر حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔“

جب آنحضرت ﷺ حریم کعبہ میں تشریف فرما تھے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو

آپؐ نے فرمایا:

”ان بزرگ کو ان کے گھر ہی میں رہنے دیتے تاکہ میں خود ان کے پاس آتا۔“

اس کے بعد آپؐ نے انہیں احترام کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا اور ان کے سر کے سفید جھک بالوں پر شفقت سے دست مبارک پھیر کر فرمایا: ”یہ سفید بال ان کا امتیازی نشان ہیں۔“ اس کے بعد آپؐ نے ان سے فرمایا: ”مسلمان ہو جائیے“ آپؐ کی زبان مبارک سے یہ سنتے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابوقحافہ رضی اللہ عنہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جب مکے میں داخل ہوئے تو اسلامی علم ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ کہہ رہے تھے:

”آج قتل و عارت کا دن ہے آج کفار کی عزت و حرمت منانے کا دن ہے۔“ (کچھ راوی یہ قول عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب

کرتے ہیں)

بہر حال جب کسی نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات آنحضرت ﷺ کو سنائی تو آپؐ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”سعد سے علم لے لو اور اسے لے کر تم مکے میں داخل ہو“ اس کے علاوہ آپؐ نے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے یہ بھی فرمایا: ”آج کعبۃ اللہ کی عزت اور اس کے احترام کا دن ہے“ ظاہر ہے کہ آپؐ کے اس قول سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے قول کی نفی مقصود تھی۔

کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا تھا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے علم لے کر ان کے بیٹے قیس کو دے دیا جائے جس سے سعد رضی اللہ عنہ کی طرف تادیب مقصود تھی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکے میں داخلے سے ایک روز قبل آنحضرت ﷺ نے خیف بنی کنانہ میں پڑاؤ فرماتے ہوئے ارشاد

فرمایا تھا:

”ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہماری منزل مکہ ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح سے ہمکنار فرمائے گا۔“

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ ان سے عبد اللہ ابن ابی نحج اور عبد اللہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ صفوان بن امیہ عکرمہ

بنی جمہل اور سہیل بن عمرو نے مکہ میں جمع ہو کر فتح مکہ سے قبل مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہاتھ مشورہ اور تیاری کر رہے تھے۔

دوسری طرف بی ہرہ بھائی بند حماس بن قیس بن خالد اپنے ہم پر اٹھ جلتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی تلوار کی تیریف میں اشعار بھی کہتا جا رہا تھا۔ تب اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ تیاری کس کے مقابلے کے لیے ہو رہی ہے تو وہ بولا: ”محمدؐ اور ان کے صحابہ سے مقابلے کے لیے۔“ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا: ”محمدؐ اور ان کے صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔“ اس پر حماس بن قیس بولا: ”میں ان کے بعض صحابہ کا تو خاتمہ کر ہی دوں گا۔“

جب یہ سب لوگ خدمہ میں جمع تھے تو انہیں مسلمانوں کی ایک جماعت نے جو خالد بن ولیدؓ کے ساتھیوں پر مشتمل تھی، دیکھ لیا۔ پہلے کرز بن جابر نے بنی محارب بن مہر کے ایک شخص کو قتل کیا۔ پھر یہ لوگ دوسروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ خالد بن ولیدؓ جن کے لشکر کے یہ ساتھی کفار کے اس گروہ کے ہر شخص کو قتل کرنا چاہتے تھے خود اس لشکر میں شامل تھے لیکن انہوں نے راستہ کاٹ کر اور دوسری طرف سے آ کر ان کا فروں کو گھیر لیا اور صفوان و عکرمہ نیز حماس بن قیس کے علاوہ جو میدان چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے چن چن کر سب کو قتل کر ڈالا۔ اس معرکے میں خالد بن ولیدؓ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں بارہ یا تیرہ مشرکین قتل ہوئے۔

حماس بن قیس جب خدمہ سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کوئی البدیہہ اشعار میں جیسا کہ اکثر عربی قبائل کی عادت تھی اس کے دریافت حال پر یہ داستان سنا لی کہ اس نے اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا لیکن جب صفوان اور عکرمہ بن ابو جہل میدان چھوڑ بھاگے تو اسے بھی مجبوراً بھاگنا پڑا۔ مذکورہ بالا معرکہ حق و باطل میں مشرکین کے ہاتھوں کئی مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے۔

طبرانی نے مختلف حوالوں کے ساتھ فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے درج ذیل حدیث نبویؐ بھی تحریر کی ہے۔ طبرانی کے بقول آنحضرت ﷺ نے اس روز فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے روز اس شہر (مکہ) میں قتل و غارت کو حرام قرار دے کر اسے اور اس کی گردو پیش سرزمین کو سورج اور چاند کی طرح منور فرمایا۔ مجھ سے پہلے بھی یہاں قتل و غارت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شخص کے لیے حرام تھے۔ اس نے (صرف) مجھے آج یہاں ایک ساعت کے لیے کفار کو قتل کرنے اور اس کا حکم دینے کی اجازت دی ہے جس کے بعد یہ شہر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت آج بے گناہ ہے۔“ (حدیث نبویؐ کا مشہور و صحیح ترین ترجمہ۔ ترجمہ)

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی کے بعد کسی نے آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! یہ خالد بن ولیدؓ جو یہاں اب تک کفار کو بے دریغ قتل کیے چلے جا رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں یا آپ نے صرف انہیں اس کا حکم دیا ہے؟“

اس شخص کے اس سوال پر آنحضرت ﷺ نے اسی شخص سے فرمایا:

”اٹھو اور اسی وقت خالدؓ (ابن ولید) کو میرے پاس لے آؤ۔“

یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان

اپنے حکم کی خلاف ورزی پر ان کے ہاتھوں کی اور پوچھا:
 ”کیا میں نے تمہیں (اپنے حکم کے بغیر) کسی کو قتل کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟“
 تو وہ بولے:

”یا رسول اللہ (ﷺ) فلاں شخص نے مجھے آپ کا یہ حکم سنایا تھا کہ ”بس شخص پر تم قابو پا لو اسے قتل کر دو۔ اس کے علاوہ مجھے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم معلوم تھا کہ ”حرم میں بھی اگر کوئی کافر تم سے لڑے تو تم اسے قتل کر سکتے ہو۔“ اس کے بعد خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا:
 ”کیا حضور سے اس سلسلے میں اجازت طلب کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھلی اجازت پر ترجیح دی جاسکتی ہے؟ یہاں جن مواضع پر میں نے کفار کو قتل کیا وہ وہی تھے جن پر خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے قتل کی اجازت دی ہے۔“

خالد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے مندرجہ بالا سوال کے جواب میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ یہ دلیل سن کر آپ خاموش ہو گئے اور کسی رد عمل کا اظہار نہیں فرمایا۔

ابن اسحاق مزید کہتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے جواب کے بعد آنحضرت ﷺ کے سکوت کی وجہ تھی کہ خود آپ نے اسی روز مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ”اگر کفار تم سے لڑتے ہوئے بیت اللہ کے زیر سایہ بھی پہنچ جائیں تو انہیں قتل کر دو۔“ اور آپ کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بیت اللہ شریف میں یا اس کے زیر سایہ بھی جن لوگوں کا نام لے کر انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا ان میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی تھا جو پہلے مسلمان ہو کر کچھ عرصے تک کاتب وحی بھی تھا لیکن بعد میں مرتد ہو کر کے چلا آیا تھا۔ وہ فتح مکہ کے روز آپ کے حکم کے مطابق قتل ہونے سے بچ گیا تھا اور اس نے بھاگ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو اس کے رضاعی بھائی تھے پناہ لے لی تھی۔

اس کے بعد چونکہ آنحضرت ﷺ نے اسے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے معاف فرما دیا تھا اور اس نے خود بھی توبہ کر کے اسلام سے رجوع کر لیا تھا اور دوبارہ صدق دل سے مسلمان ہو کر بلند کردار ثابت ہوا تھا اسی لیے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے عہد خلافت میں اسے عامل میں شامل کیا تھا۔

جب فتح مکہ کے روز وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ:

”جب وہ خود ہی اپنے آپ کو قتل کر چکا تھا تو میں اس کے بعد اسے کیا سزا دیتا۔“ (حدیث نبوی کا منہوی ترجمہ)

اس کے بعد بھی جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ:

”اگر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور عافی طلب کرنے کے بعد دوبارہ مسلمان نہ ہو جاتا تو آپ اس کے

میں کیا حکم صادر فرماتے؟

اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا:

”نبی مفروضات پر قتل کا حکم نہیں دیا کرتے۔“

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی وفات صبح کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں اور بعض روایات کے مطابق اس کے فوراً بعد اس کے گھر میں ہوئی تھی جس کا ذکر ہم حسب موقع ان شاء اللہ عنقریب تفصیل سے کریں گے۔ (مؤلف)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے مذکورہ بالا حکم کے تحت جو لوگ فتح مکہ کے روز قتل ہونے سے بچ گئے تھے ان میں بنی تیم بن غالب کا ایک شخص عبداللہ بن نطل بھی تھا۔

کہا جاتا ہے کہ قبول اسلام سے قبل اس کا نام عبدالعزیٰ بن نطل تھا اور قبول اسلام کے بعد اس کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ (مؤلف)

ابن اسحاق کے بقول جہاں تک بعض مستند روایات سے انہیں معلوم ہوا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور عبدالعزیٰ بن نطل کے علاوہ دو افراد اور ایسے تھے جن کے قتل کا حکم آنحضرت ﷺ نے دیا تھا۔ عبدالعزیٰ بن نطل کے مسلمان ہو جانے کے بعد آپ نے اسے کسی کام سے مدینے کے باہر بھیجا تھا اور اس کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص بھی بھیجا تھا۔ عبدالعزیٰ بن نطل نے جس کا نام اس وقت عبداللہ تھا کسی بات پر غصے میں آ کر اپنے غلام کو جو اس کے ساتھ قتل کر دیا لیکن اس کے بعد بھاگ کر نہ صرف مرتد ہو گیا تھا بلکہ آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کی جو کیا کرتا تھا جس میں اس کی بیوی اور اس کی کنیز بھی شامل ہو جاتی تھیں۔ عبداللہ بن نطل اور اس کی بیوی کی کنیز کو ابو برزہ اسلمی اور سعید بن حریش مخزومی نے قتل کر دیا لیکن اس کی بیوی حرم میں چھپ کر بھاگ نکلی تھی۔ ان کے علاوہ ان لوگوں میں حویرث ابن نقیذ بن وہب بن عبد قیس بھی تھا جو ہجرت سے قبل مکہ میں آنحضرت ﷺ کو حد سے زیادہ ایذا پہنچایا کرتا تھا۔ جب عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہجرت کے اولین زمانے میں آنحضرت ﷺ کی بیٹیوں فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو آپ کے پاس لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر یہ دونوں سوار تھیں اسے اسی حویرث نے راستہ روک کر بدکا دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی مذکورہ بالا دونوں بیٹیاں اس اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑی تھیں فتح مکہ کے روز حویرث کا خون بھی مسلمانوں پر مباح کر دیا گیا تھا لیکن اسے خانہ کعبہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔

ابن اسحاق نے مذکورہ بالا اشخاص کے علاوہ متیس بن صبابہ کا ذکر بھی کیا ہے جس نے اپنے بھائی کے قاتل کو سہواً قتل کر دیا لیکن جب اس سے دیت طلب کی گئی تو وہ بھی بھاگ کر مرتد ہو گیا تھا۔ اسے فتح مکہ کے روز اسی کے قوم کے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا تھا۔

ابن اسحاق نے ان لوگوں کے ساتھ جن کا خون بہانا آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے روز مسلمانوں کے لیے مباح فرما دیا تھا بنی عبدالمطلب اور عکرمہ بن ابو جہل کی ایک کنیز سارہ کا بھی ذکر کیا جو مسلمان ہونے کے بعد حاطب کا خط لے کر مدینے سے مکہ آ رہی تھی اور راستے میں پکڑی گئی تھی۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ہجرت سے قبل مکہ میں آپ کو نکالیف پہنچانے میں پیش پیش رہتی تھی

لیکن جہاں تک بعض دوسرے اہل علم سے ہمیں معلوم ہوا ہے اور ہم پہلے اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں سزاہ کو گرفتاری کے بعد آنحضرت ﷺ نے معاف فرمادیا تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہ کر مدینے ہی میں کسی کے گھوڑے کے نیچے آ کر مری تھی۔ (مؤلف)

کہا جاتا ہے کہ مکہ کی مکمل فتح کے بعد آنحضرت ﷺ نے طواف کے بعد خانہ کعبہ میں ایک ہی سلام سے آٹھ رکعتیں نماز ادا فرمائی تھیں جیسا کہ آپ کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فتح مدائن کے بعد ایوان کسریٰ میں آٹھ رکعت نماز شکرانہ ادا کی تھی لیکن سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے برعکس ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرا تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن جعفر بن زبیر نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن ثور اور صفیہ بنت شیبہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے بعد مکمل اطمینان ہو جانے پر مقام استبلام پر سات بار حجر اسود کا طواف کرنے کے بعد عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا اور ان سے کعبے کی کنجیاں لے کر اس کا دروازہ کھلوا دیا اور جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں کبوتر کی شکل کا سامنے ہی ایک بت دیکھا اور اسے آپ نے اپنے ہاتھ سے توڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے ہمراہ مسجد الحرام میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی یاد و سجدے کیے۔ اس کے بعد آپ زمزم پر تشریف لے گئے اور وہاں پہلے پانی طلب فرما کر پیا، پھر وضو فرمایا۔

جب آپ کے ہمراہ وہاں آنے والے مسلمانوں نے وضو کرنا شروع کیا تو مشرکین انہیں حیرت سے دیکھنے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ: ”ایسی عجیب و غریب بات تو ہم نے پہلے کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی“۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو فتح مکہ سے سرفراز فرمایا اور دشمنوں کو شکست دی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ:

”یا اللہ مجھے یہاں کے مال و منال سے کوئی رغبت نہیں ہے کیونکہ تیرے دین کے مقابلے میں تیرے فضل و کرم سے یہ سب کچھ میرے لیے بچ اور میرے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے لیے کعبے کی خدمت اور حجاج کی سقائی کافی ہے اگر میرے ہاتھوں یہاں سہواً کوئی بے جا قتل ہوا ہے تو میں اس کی دیت فی کس سوانٹوں کے حساب سے ادا کروں گا“۔ (حدیث نبوی کا تشریحی ترجمہ۔ مترجم)

اس کے بعد آپ نے مشرکین قریش سے جو وہاں جمع ہو گئے تھے یوں خطاب فرمایا:

”اے قریش کے لوگو! تم سے زمانہ جاہلیت کی نخوت اور اپنے آباء و اجداد پر بے جا نخوت (آج) چلی گئی، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے“۔

اس کے بعد آپ نے یہ قرآنی آیت ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ فرمایا کہ یہ خالق کائنات خدائے واحد کا مخلوق انسانی سے خطاب ہے۔ (حدیث نبوی کا تشریحی ترجمہ)

اس کے بعد آپ نے مشرکین مکہ سے دریافت فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ (آج) میرا تم سے کیا سلوک ہوگا؟“
 آپ کے اس سوال کے جواب میں قریش مکہ نے یک زبان ہو کر کہا: ”وہی جس کی ایک مہربان بھائی کے بیٹے سے امید کی
 باسکتی ہے۔“ ان کے اس جواب پر آپ نے فرمایا: ”جاؤ تم سب آزاد ہو۔“
 اس کے بعد آنحضرت ﷺ مسجد الحرام میں جا کر تشریف فرما ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے قریب کھڑے ہو کر
 آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ) ہمارے لیے کسی ادب خانہ (بیت الخلاء) اور اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کے بندوبست کا حکم دے
 دیجئے۔“

آپ نے علی رضی اللہ عنہ کی اس درخواست کے جواب میں فرمایا: ”عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ۔“ جب عثمان بن طلحہ
 آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا: ”بیت اللہ کی مفتاح برداری کا کچھ کرشمہ دکھانے، آج نیکی اور وفا کا دن
 ہے۔“

ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ انہیں بعض اہل علم نے بتایا کہ فتح مکہ کے روز جب آنحضرت ﷺ بیت اللہ شریف میں
 داخل ہوئے تو آپ نے وہاں دیواروں پر فرشتوں وغیرہ کی تصاویر بنی ہوئی دیکھیں جن میں ایک تصویر ایسی تھی جس میں حضرت
 ابراہیم رضی اللہ عنہ کو فال لینے کے تیروں سے تقسیم کرتے دکھایا گیا تھا جس کا زمانہ جاہلیت میں عربوں میں عام دستور تھا۔ آپ نے وہ
 تصویر دیکھ کر فرمایا:

”خدا انہیں ہلاک کرے جنہوں نے ہمارے ان بزرگ کو اس تصویر میں فال لینے کے تیروں کے ذریعہ تقسیم کرتے دکھایا
 ہے (معاذ اللہ) کہاں شان ابراہیمی اور کہاں فال لینے کے تیر۔“

اس کے بعد آپ نے یہ قرآنی آیت تلاوت فرمائی:

﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

اس کے بعد آپ کے حکم سے وہ تمام تصاویر بیت اللہ شریف کی ان اندرونی دیواروں سے منادی گئیں۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ ان تمام تصاویر کو آپ کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مٹایا تھا اسی روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ میں
 اس روز حضور نبی کریم ﷺ نے سنگین ستونوں پر رکھے ہوئے تین سو یا بعض روایات کے مطابق تین سو ساٹھ بت دیکھے تھے۔ آپ
 ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہر بت کے منہ پر اپنا عصا مارتے اور فرماتے جاتے تھے:

﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

بخاری متعدد حوالوں کے ساتھ ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ان کی طرف اپنے عصا سے

اشارہ کرتے ہوئے فرماتے جاتے تھے:

﴿ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْمُبِينُ إِنَّ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَالْمَاجِدُ ﴾

اس کے بعد جب آنحضرت ﷺ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ان کا کوئی نشان نہ دیکھا کیونکہ وہ وہاں سے ہٹا دیئے یا توڑ پھوڑ دیئے گئے تھے۔

بخاری اور لیث کہتے ہیں کہ ان سے یونس نے بیان کیا کہ انہیں نافع نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا کہ آنحضرت ﷺ جب مکے کے بالائی حصے سے سواری پر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لائے تو آپ کے پیچھے یکے بعد دیگرے ایک ہی قطار میں اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما وغیرہ تھے۔ آپ نے کعبہ میں پہنچ کر بیت اللہ کے اندرونی دروازے کی کنجیاں طلب فرمائیں اور اسامہ بن زید بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ وہاں داخل ہوئے پھر مسجد الحرام میں تشریف لا کر دن کا ایک بڑا حصہ وہاں گزارا دوسرے لوگ جو آپ کی قدم بوسی کے لیے بے قرار تھے ان میں آگے آگے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے دروازے پر بلال رضی اللہ عنہ مستعد کھڑے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”آنحضرت ﷺ نے نماز کہاں پڑھی؟“ تو بلال رضی اللہ عنہ نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنا بھول گئے کہ آنحضرت ﷺ نے وہاں جس طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کتنی رکعات نماز پڑھی تھی یا کتنے سجدے کیے تھے۔

امام احمد کی اس بارے میں یہ روایت ہے کہ انہیں متعدد ثقہ افراد نے یثیم ابن عون نافع اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا کہ جب رسول اللہ ﷺ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہمراہ فضل بن عباس، اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہما تھے۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو دروازہ کھولنے کے لیے فرمایا اور وہاں خاصی دیر تشریف فرما رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ سے وہاں سب سے پہلے وہی ملے تھے اور انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے نماز کہاں پڑھی؟ تو انہوں نے دوستوں کی طرف اشارہ کر کے کہا: ”ان دوستوں کے درمیان“۔

صحیح بخاری میں یہ روایت یوں درج ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب اس وقت نماز ادا فرمائی تو بیت اللہ کا دروازہ آپ کے سامنے اور باقی عمارت جس کا ایک ستون آپ کے داہنی جانب اور دوستوں بائیں جانب تھے آپ کے پس پشت تھی اور بیت اللہ کے تین دوسرے ستون وہاں سے کچھ دور تھے۔ بخاری کے بقول خانہ کعبہ کی پوری عمارت اس زمانے میں صرف چھ ستونوں پر قائم تھی اور اس کے احاطے کی دیوار وہاں سے ہر طرف تین جریب کے فاصلے پر تھی۔ (مؤلف)

امام احمد فرماتے ہیں کہ انہیں اسماعیل اور لیث نے مجاہد اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا کہ آنحضرت ﷺ جب فتح مکہ کے روز خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم سے وہاں اذان دی اس وقت ابوسفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبہ سے بہت دور بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب کے بقول اللہ تعالیٰ کو غالباً یہ بات ناپسند تھی کہ قریش کے یہ سردار اس وقت اذان کی آواز سن سکیں کیونکہ وہ پہلے اسے سن کر طیش میں آ جاتے تھے۔ تاہم اس وقت آواز اذان سن کر انہیں غصہ نہیں آیا تھا۔

عبدالرزاق نے معمر اور ایوب کے حوالے سے ابن ابی ملیکہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بلال رضی اللہ عنہ کو

خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا تھا اور جب مشرکین قریش نے بلال رضی اللہ عنہ کو وہاں چڑھے دیکھا تو بولے:

”اس حبشی غلام کو تو دیکھو کہ یہ کہاں چڑھا ہوا ہے۔“

محمد بن سعد نے واقدی، محمد بن حرب، اسماعیل بن ابی خالد اور ابی اسحاق کے حوالے سے بیان کیا ہے فتح مکہ کے روز ابوسفیان شاید ایک جگہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ قریش کو جمع کر کے کاش ایک بار پھر آنحضرت ﷺ سے جنگ کر سکتا کہ اچانک آپؐ اسی وقت اس کے سر پر پہنچ گئے اور آپؐ نے اس کے سینے پر مکار کر فرمایا: ”آج تجھے اللہ نے ذلیل کیا ہے۔“ آپؐ کی زبان مبارک سے یہ سن کر ابوسفیان سر اٹھا کر بولا:

”کیا میں نے آپؐ کو یقین نہیں دلایا ہے کہ اب میرے نزدیک آپؐ (سچے) نبی ہیں اور تاقیامت رہیں گے؟“

بیہقی کہتے ہیں کہ انہیں عبد اللہ الحافظ ابو حامد بن حسن المقری، احمد بن یوسف سلمی، محمد بن یوسف الفریابی اور یونس بن ابی اسحاق نے ابی السفر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا کہ فتح مکہ کے روز آنحضرت ﷺ وہاں کی ایک عام سڑک سے گزر رہے تھے اور ابوسفیان آپؐ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور مشرکین مکہ اس پر آوازے کس رہے تھے تو یقیناً وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا کہ کاش وہ آپؐ سے آخری بار اور جنگ کر سکتا کیونکہ اس وقت آپؐ نے پلٹ کر اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا: ”تجھے یہ ذلت اللہ نے دی ہے۔“

بیہقی نے متعدد حوالوں سے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے روز بعض اہل اسلام خانہ کعبہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ رات سے صبح تک تکبیر و تسبیح و تہلیل اور طواف میں مصروف رہے تھے اور ابوسفیان نے یہ دیکھ کر ہند سے کہا تھا: ”یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔“ اور اس نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ: ”ہاں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔“

جب صبح کو ابوسفیان آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ نے اس سے فرمایا:

”کیا تم نے ہند سے رات یہ کہا تھا کہ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے؟“

ابوسفیان نے جواب دیا: ”جی ہاں! میں نے یہی کہا تھا۔“

اس کے بعد ابوسفیان نے کہا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپؐ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ہر شخص ہند کے سوا یہ سن کر میری تائید کرے گا۔“

یاد رہے کہ فتح مکہ کے روز جن مشرکین کے قتل کا حکم آنحضرت ﷺ نے دیا تھا ان میں عکرمہ بن ابوجہل بھی شامل تھا لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر مکے سے فرار ہو گیا اور یمن جا پہنچا تھا۔ تاہم اس کی بیوی جو مسلمان ہو کر مدینے چلی گئی تھی اسے یمن سے مدینے لے آئی تھی اور اس نے اسے آپؐ کی خدمت میں لے جا کر اس کے لیے آپؐ سے معافی طلب کی تھی تو آپؐ نے اسے معاف فرمایا تھا جس کے بعد وہ اپنے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر صدق دل سے مسلمان ہو گیا تھا۔ (مؤلف)

بخاریؒ فرماتے ہیں کہ انہیں دوسرے متعدد لوگوں کے بیانات کے علاوہ مجاہد کے بیان سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ

نے فتح مکہ کے روز جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے صاف طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ:

”اللہ تعالیٰ نے مکے کی سرزمین اور اس کے گرد و پیش کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن سے سرزمین حریت قرار دیا ہے یہاں اس کے حکم کے مطابق نہ شکار کھیلا جاسکتا ہے یعنی کسی جانور یا پرندے کو شکار کیا جاسکتا ہے نہ مارا جاسکتا ہے یہی حکم یہاں کی فضا میں پرندوں کے شکار پر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم یہاں جنگ و جدل اور قتل و غارت کے بارے میں بھی ہے البتہ لڑائی کے موقع پر جو ابی کارروائی کی اجازت ہے۔“

کسی نے پوچھا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) جو آبی پرندے یہاں کی فضا سے اُڑتے ہوئے گزریں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟“۔

اس سوال پر آپ نے قدرے سکوت فرما کر جواب دیا: ”وہ حلال ہیں“۔

آخر میں آپ نے فرمایا کہ:

”یہ حکم مجھ سے پہلے بھی تھا اور میرے بعد بھی تا قیام قیامت برقرار رہے گا۔“ (حدیث نبوی کا مفہومی و تشریحی ترجمہ۔ مترجم)

فتح مکہ کے روز آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ بالا حکم کے تحت حرمت مکہ کے سلسلے میں وہاں بیت اللہ ہونے کے سبب اپنے مندرجہ بالا ارشادات گرامی کا عامۃ الناس کے لیے مکمل عملی ثبوت فراہم فرمایا تھا اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے آپ نے اس روز چند مخصوص ازلی دشمنان خدا و اسلام کے سوا کے میں قتل و غارت کی سختی سے ممانعت فرمادی تھی بلکہ مکے میں داخل ہونے سے قبل جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے آپ نے خندمہ ہی میں فرمادیا تھا کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے جو اپنا گھر بند کر کے بیٹھ جائے اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ مامون و مصون رہے گا۔ فتح مکہ کے روز آنحضرت ﷺ کے اس قول و عمل کی بنیاد پر جمہور علمائے اسلام نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی قوم سے صلح کے بعد اس کے کسی شہر میں مسلمانوں کا وہاں داخل ہو کر مال غنیمت کے حصول کے لیے کسی کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے۔

جیسا کہ متعدد مستند روایات سے ثابت ہوتا ہے آنحضرت ﷺ نے مشرکین مکہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ:

”تمہارے جو لوگ مر چکے وہ مر چکے اور جو زندہ ہیں وہ زندہ رہیں گے۔“

یعنی نہ انہیں قتل کیا جائے گا نہ ان سے کوئی تعارض کیا جائے گا۔ فتح مکہ کے بعد وہاں مشرکین سے مال غنیمت کا عدم حصول اور تقسیم سے دستبرداری تاریخ اسلام کا سنہری باب اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔

ابن ہشام کے بقول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر متعدد مسلمان شعراء نے فتح مکہ کے بعد آنحضرت ﷺ اور مجاہدین اسلام کی مدح میں کثرت سے اشعار کہے تھے جب کہ عرب کے مشرک شعراء نے ان کی بجزو میں اشعار کہے تھے۔

مشہور شاعر عبد اللہ بن زبیری سہمی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اس کے علاوہ عرب کے دیگر مشرک شعراء نے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں اور اسلام کی بجزو کرنے میں اپنا دفاع اور سارازور قلم صرف کر دیا تھا لیکن بعد میں توبہ کر کے جب مسلمان ہو گئے تھے تو پھر ان کا سارازور قلم دین اسلام کی مدح و ثنا میں صرف ہونے لگا تھا۔ (مؤلف)

فصل:

فتح مکہ کے شرکاء و مشاہدین کی تعداد

ابن اسحاق نے فتح مکہ میں شریک مجاہدین اسلام اور اس کا مشاہدہ کرنے والے دوسرے لوگوں کی جو اس روز مسلمان ہوئے تھے مجموعی تعداد کے بارے میں جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

مجاہدین بنی سلیم ایک ہزار

مجاہدین بنی غفار چار سو

مجاہدین مزینہ چار سو

مدینے کے مہاجرین و انصار مجاہدین قبائل

تمیم و قیس اور بنی اسد کے مجاہد اور ان قبائل

کے حلیف قبائل

چھ ہزار نو سو

کل میزان دس ہزار

بعض روایات میں جن کے راوی عروہ، زہری اور موسیٰ بن عقبہ ہیں صرف مجاہدین اسلام کی تعداد بارہ ہزار بتائی گئی

ہے۔ واللہ اعلم (مؤلف)



فتح مکہ کے بعد بنی جزیمہ بن کنانہ کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مہم

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف نے ابی جعفر محمد بن علی کے حوالے سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مختلف عربی قبائل کی طرف ان سے جنگ و جدل کے لیے نہیں بلکہ انہیں دعوت اسلام دینے کے لیے روانہ فرمایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے قبائل عرب سلیم بن منصور اور مدح بن مرہ کے کچھ لوگ بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر اور مذکورہ بالا عرب قبائل کے لوگوں کے ساتھ قبیلہ بنی جزیمہ بن عامر بن عبدمنات بن کنانہ کی بستی کے سامنے پہنچے تو اس قبیلے کے لوگ بھی مسلح ہو کر ان سے مقابلے کے لیے سامنے آ گئے۔

خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر ان لوگوں سے کہا:

”تم لوگ اپنے ہتھیار رکھ دو کیونکہ ہم تم سے لڑنے نہیں بلکہ تمہیں دعوت اسلام دینے آئے ہیں اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔“

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ بنی جزیمہ کے ایک معتبر صاحب علم شخص نے انہیں بتایا:

”جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ہم سے ہتھیار رکھنے کے لیے کہا تو ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے آگے آ کر اپنے اہل قبیلہ سے کہا:

”تم انہیں نہیں جانتے یہ خالد ہیں، جب تم ہتھیار رکھ دو گے تو تمہاری گرفتاری اور اس کے بعد تمہارا قتل عام یقینی ہے۔ خیر میں تو ہرگز ہرگز اپنے ہتھیار نہیں رکھوں گا۔“

اپنے قبیلے کے اس شخص کی یہ بات سن کر دوسرے لوگوں نے اسے پکڑ کر کہا:

”تمہاری عقل تو نہیں ماری گئی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے قبیلے والوں کا خون بہہ جائے۔“

اس کے بعد بنی جزیمہ نے اتفاق رائے سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیئے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بنی جزیمہ کے اسی معتبر صاحب علم شخص نے انہیں بتایا کہ جو نبی اس کے قبیلے والوں نے اپنے ہتھیار زمین پر پھینکے خالد نے ان سب کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں چن چن کر قتل کرادیا۔

ابن اسحاق آخر میں کہتے ہیں کہ جب اس سانحے کی خبر آنحضرت ﷺ کو ہوئی تو آپ نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا

کر فرمایا:

”یا اللہ! میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ جو کچھ خالد نے کیا مجھے اس سے بری الذمہ رکھنا۔“

آنحضرت ﷺ کو جب کسی اور شخص نے اس سانحے کی خبر پہنچائی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر وہی التجا

تین بار کی جس کا ذکر طور بالا میں آچکا ہے۔ پھر جب آپ کو کچھ اور لوگوں کے ذریعہ یہی اطلاع ملی تو جیسا کہ متعدد روایات سے ظاہر ہوتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہی التجا اس طرح دوبار کی اور یہ بھی فرمایا کہ:

”افسوس ہے خالدؓ نے زمانہ جاہلیت کی باتیں ابھی تک ترک نہیں کیں۔“

خالد ابن ولیدؓ کی بنی جزیمہ سے مراجعت سے قبل جو کچھ لوگ وہاں سے مکے واپس آ گئے تھے آنحضرت ﷺ نے جب ان میں سے ایک سے دریافت فرمایا کہ خالدؓ کو مذکورہ بالا اقدامات سے روکنے کی کسی نے کوشش کی تھی یا نہیں تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ:

”ایسی کوشش صرف دو آدمیوں نے کی تھی جن میں سے ایک میرا بیٹا عبداللہؓ ہے اور دوسرا ابی حذیفہ کا غلام سالمؓ ہے۔“

یہ بات حضرت عمرؓ نے اس شخص سے ان دونوں کے قد و قامت، رنگ اور چہرے مہرے کی نشانیاں پہلے پوچھ کر کہی تھی۔ اس کے بعد جب خالد بن ولیدؓ مکے واپس آئے تو کہیں عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان سے کہہ دیا:

”تم نے اسلام میں بھی بنی جزیمہ کے بارے میں زمانہ جاہلیت کی روش اختیار کی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ روش اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملی ہے۔“

عبدالرحمنؓ کی اس بات کے جواب میں خالدؓ نے کہا: ”مجھے تو نہیں لیکن تمہیں وہ روش اپنے باپ سے ضرور وراثت میں ملی ہے۔“ عبدالرحمنؓ بولے:

”تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ میں نے تو اس زمانے میں بھی صرف اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا تھا لیکن تمہیں اس زمانے کی روش یقیناً اپنے چچا فاکہ بن مغیرہ سے وراثت میں ملی ہے اور اس کا ثبوت تمہاری وہ روش ہے جو تم نے بنی جزیمہ بن کنانہ کے ساتھ اختیار کی۔“

خالد اور عبدالرحمنؓ میں اس گفتگو کے بعد اور زیادہ تلخ کلامی ہوئی۔ اس کی اطلاع جب رسول اللہ ﷺ کو ہوئی تو آپ نے خالد ابن ولیدؓ کو بلا کر ان سے فرمایا:

”خالد! تم میرے صحابہؓ کے ساتھ اس قسم کی گفتگو سے باز رہو، تم نے ان کی طرف سے میری حمایت اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سب کچھ قربان کر دینے کا حال نہیں دیکھا، اگر دیکھتے تو ان میں سے کسی کے ساتھ یہ رویہ ہرگز اختیار نہ کرتے، تم میرے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت و حرمت اور عظمت سے ابھی واقف نہیں ہو۔“

(حدیث نبوی کا مفہومی و تفسیری ترجمہ۔ مترجم)

زمانہ جاہلیت میں قریش اور عرب کے دوسرے قبائل کی روش اور ان کی اولاد میں وہ روش وراثتہ منتقل ہونے کے بارے میں بنی جزیمہ بن کنانہ کے حوالے سے خالد اور عبدالرحمنؓ کے درمیان جو تلخ گفتگو ہوئی تھی اس کا پس منظر جو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے یہ ہے:

”خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چچا فاکہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے والد عوف کے بیٹے عبدالرحمن اور عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس اور عفان کے بیٹے عثمان رضی اللہ عنہ بغرض تجارت یمن گئے تھے اور ان کے ساتھ بنی جزیمہ بن کنانہ کا ایک شخص بھی اسی غرض سے یمن گیا تھا اور وہاں اتفاقاً بلاک ہو گیا تھا۔ جب مذکورہ بالا دوسرے لوگ اس کا مال لے کر اس کے قبیلے بنی جزیمہ کی طرف آ رہے تھے تو ان کے اس شخص کے ورثا کے پاس پہنچنے سے پہلے اسی قبیلے کے ایک شخص جسے خالد بن ہشام کہا جاتا تھا اور اس کے ساتھیوں نے ان سے اس شخص کا وہ مال اور سامان مانگا لیکن مذکورہ بالا لوگوں نے انکار کر دیا جس پر ان میں لڑائی چھڑ گئی جس میں دونوں طرف کے کچھ آدمی مارے گئے جن میں عبدالرحمن کے والد اور خالد کے چچا فاکہ بھی شامل تھے بعد میں عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے تو موقع پا کر اپنے والد کے قاتل کو قتل کر کے بدلہ چکا دیا تھا لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا کے قاتل کو تلاش کر کے اسے قتل کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا اور خالد کے ہاتھوں بنی جزیمہ کے ساتھ مذکورہ بالا سانحہ پیش آیا تو عبدالرحمن کے خیال میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جزیمہ سے اپنے چچا فاکہ کے خون کا بدلہ لینے کا اب موقع ملا تھا اور انہوں نے اس قبیلے کے بیشتر لوگوں کو اسی لیے بے دریغ قتل کر ڈالا تھا لیکن چونکہ یہ برسوں دشمنی چلنے اور قتل و قتال کا دستور زمانہ جاہلیت کی روش تھی جسے داعی اسلام حضور نبی کریم ﷺ مٹانے کی مسلسل کوشش فرما رہے تھے اسی لیے عبدالرحمن نے خالد پر اعتراض کیا تھا جس کے نتیجے میں بات بڑھ گئی تھی اور نوبت تلخ کلامی سے جھگڑے تک جا پہنچی تھی۔“

اس واقعے کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنی جزیمہ میں امن وامان قائم کرنے اور ان کے جان و مال کی تلافی کے لیے وہاں بھیجا تو ان کی مصلحانہ و مصالحانہ تدابیر سے وہاں نہ صرف امن وامان قائم ہو گیا بلکہ اس قبیلے کے تمام لوگ خوشی سے مسلمان بھی ہو گئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے مقتولوں کے خون کی فردا فردا نہ صرف خاطر خواہ دیت ادا کی بلکہ اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں سے مکے واپس آ کر اپنی اس کارکردگی کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو دی تو آپ نے ان کی رائے کو صائب قرار دے کر ان کی مصلحانہ و مصالحانہ تدابیر کو بھی سراہا۔

علمائے اسلام و فقہاء کی اسناد پر مؤرخین نے بنی جزیمہ کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا طرز عمل کی مختلف توجیہات پیش کر کے انہیں ناقابل گرفت قرار دیا ہے۔ ان توجیہات میں سے ایک توجیہ میں امیر لشکر یا امام کی اجتہادی خطابتائی گئی اور دوسری یہ کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنی جزیمہ کے لوگوں کو دعوت اسلام دی تھی تو انہوں نے اپنی مقامی زبان میں ”صباناً“ کہا تھا جس کا مطلب حجاز کی شہتہ و رفتہ زبان میں ”اسلمنا“ ہوتا تھا لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی مقامی زبان کے روزمرہ سے ناواقفیت کی وجہ سے اسے ان کا انکار سمجھے۔ اس کا جو نتیجہ ہونا تھا وہی ہوا۔

علماء و فقہاء نے اپنی ان توجیہات کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ اسی وجہ سے خود آنحضرت ﷺ نے انہیں معزول فرمانے کے بجائے انہیں امیر لشکر کی حیثیت سے برقرار رکھا تھا جس کے بعد ان کی نصرت اسلام کے کارنامے ناقابل فراموش ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے نزدیک بھی یہ توجیہات نہ صرف قابل قبول تھیں بلکہ انہیں ہی آپ کی۔

انہدامِ عزیٰ کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی

ابن جریر کہتے ہیں کہ سال ہشتم ہجری میں ماہ رمضان کے ابھی پانچ دن باقی تھے جب مشرکین عرب کے مشہور بت عزیٰ کو منہدم کیا گیا۔ اس کے انہدام کے لیے آنحضرت ﷺ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تھا۔

یہ بت نخلہ میں مشرکین کے ایک معبد میں نصب تھا جس کی قریش بنی کنانہ اور بنی مضر بڑی عزت کرتے تھے۔ اس کے لیے حاجب اور خدمت گار بنی ہاشم کے حلیف قبائل بنی شیبان اور بنی سلیم نے فراہم کیے تھے۔ جب عزیٰ کے حاجب سلمیٰ نے اس کے انہدام کے لیے کئے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی کی خبر سنی تو پہلے تو میان سے تلوار نکال کر بلند کی پھر دوڑتا ہوا اس پہاڑی پر چلا گیا جس کی چوٹی پر بنے ہوئے معبد میں عزیٰ کا بت نصب تھا اور اس معبد میں داخل ہو کر عزیٰ کے سامنے دعا کرنے لگا کہ ”اے عزیٰ تو اپنی قوت کا مظاہرہ کر اور خالد کو اپنے پاس تک نہ پھٹکنے دے“ وغیرہ وغیرہ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نخلہ پہنچتے ہی اسے منہدم کر دیا۔

جب خالد نے اسے منہدم کرنے کے بعد مکے واپس پہنچ کر آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا: ”تم نے وہاں کیا دیکھا؟“ خالد نے عرض کیا: ”میں نے وہاں کوئی خاص چیز نہیں دیکھی“ آپ نے فرمایا: ”(اچھا تو) پھر وہاں لوٹ کر جاؤ“۔

آنحضرت ﷺ کے اس حکم کی تعمیل میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب نخلہ کی پہاڑی پر اس معبد کے سامنے پہنچے تو اس کے اندر سے ایک جشی عورت جس کے سر کے بال اس کی ایزویوں سے نیچے زمین تک لٹک رہے تھے نکل کر بڑے خوف ناک انداز میں تلوار کے ساتھ ان کی طرف جھپٹی لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے تلوار کے ایک ہی وار میں قتل کر دیا، اس معبد کو بھی منہدم کر دیا اور نذرانوں کا جو مال اس میں جمع تھا اسے اپنے قبضے میں لے کر مکے واپس آ گئے۔ جب انہوں نے اس کی خبر آنحضرت ﷺ کو سنائی تو آپ نے فرمایا:

”بس وہی عزیٰ تھی جس کی پرستش اب ابد تک کوئی نہیں کرے گا“۔



مکہ میں آنحضرت ﷺ کے قیام کی مدت

اس بارے میں راویوں کے درمیان کوئی باہم اختلاف نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد آنحضرت ﷺ نے جتنے دن مکہ میں قیام فرمایا اتنے دن قصر نماز پڑھی اور روزے بھی قضا فرمائے۔ علماء نے آپ کے اس عمل کے بارے میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ شریعت کی رو سے اگر کوئی مسافر اپنے سفر کے دوران میں کسی ایک جگہ اٹھارہ دن سے زیادہ قیام کا قصد نہ رکھتا ہو تو جس طرح وہ وہاں قصر نماز پڑھ سکتا ہے بالکل اسی طرح رمضان کے روزے بھی قضا کر سکتا ہے۔

بخاریؒ کہتے ہیں کہ انہیں ابو نعیم اور سفیان نے بتایا اور ان سے سفیان کے علاوہ قبیصہ نے یحییٰ بن ابی اسحاق اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم کے حوالے سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد آنحضرت ﷺ کے ساتھ مکہ میں قیام کیا تھا بیان کیا کہ انہوں نے انہیں (قبیصہ کو) بتایا: ہم نے فتح مکہ کے بعد آنحضرت ﷺ کے ساتھ وہاں دس روز قیام کیا اور قصر نماز پڑھی۔

قبیصہ کے علاوہ دوسرے متعدد لوگوں نے بھی یحییٰ بن ابی اسحاق رضی اللہ عنہم اور انس (بن مالک) کے حوالے سے یہی بات بتائی ہے۔

بخاریؒ مزید فرماتے ہیں کہ انہیں عبد اللہ اور عاصم نے بھی عکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے ان دنوں کے میں انیس روز قیام فرمایا تھا اور ہر وقت کی دو رکعت قصر نماز پڑھی تھی۔

بخاریؒ اور ابو حصین دونوں نے اور ان کے علاوہ ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی عاصم بن سلیمان الاحول، عکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ابو الاسود کی زبانی ان دنوں آنحضرت ﷺ کے قیام کی مدت سترہ روز بیان کی ہے لیکن احمد بن یونس اور احمد بن شہاب نے عاصم، عکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مدینے سے مکہ تک سفر میں اور مکہ کے دوران قیام میں مجموعی طور پر انیس دن قصر نماز پڑھی تھی تاہم جہاں اس سے زیادہ قیام رہا وہاں (فرض نماز) پوری پڑھی تھی (واضح رہے کہ احمد بن یونس اور احمد بن شہاب نے جن حضرات کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے وہ سب حضرات اس دوران میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہے تھے)

ابو داؤد، ابراہیم بن موسیٰ، ابن علیا اور علی بن زید نے ابی نصرہ اور عمران بن حصین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آخر الذکر یعنی حصین نے جو فتح مکہ کے موقع پر بھی آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے بتایا: میں تمام غزوات میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہا اور فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس وقت آپ نے مکہ میں اٹھارہ راتیں گزاریں لیکن اس دوران میں آپ نے کسی وقت کی نماز دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ البتہ آپ نے ان لوگوں سے جو مکہ کے مستقل باشندے تھے اور وہاں آپ کے دوران قیام میں مسلمان ہو گئے تھے فرمایا کہ وہ پوری نماز پڑھا کریں۔

ترمذی نے یہ روایت علی بن زید بن جدعان کے حوالے سے پیش کرتے ہوئے اس روایت میں جو حدیث ہے اسے حدیث حسن قرار دیا ہے۔ ترمذی نے یہی روایت محمد بن اسحاق بن زہری کی زبانی اور زہری عبید اللہ بن عبد اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے پیش کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر مکے میں پندرہ روز قیام فرمایا تھا اور اس دوران میں جملہ اوقات کی نماز قصر پڑھی تھی لیکن آخر میں یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں جن دوسرے کئی اشخاص نے یہ بات بتائی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا حوالہ نہیں دیا۔

ترمذی کی طرح ابن ادریس بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ انہیں محمد بن اسحاق، محمد بن علی ابن الحسین عاصم بن عمرو بن قتادہ، عبد اللہ بن ابی بکر اور عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہم وغیرہ نے بتایا کہ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے وہاں پندرہ روز قیام فرمایا تھا۔



فصل

مکہ کے دوران قیام میں آنحضرت ﷺ کے احکام

آنحضرت ﷺ کے مکہ میں دوران قیام میں آپ کے احکام کے متعلق ایک روایت عبد اللہ بن مسلم کی زبانی اور سنانک بن شہاب، عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بخاری نے بیان کی ہے اور دوسری لیث نے یونس کی زبانی ابن شہاب، عروہ بن زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے پیش کی ہے۔ ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ابن ولیدہ زمعہ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ابن ولیدہ ان کا یعنی عتبہ کا بیٹا ہے۔“

جب رسول اللہ ﷺ فتح کے روز مکہ میں تشریف لائے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابن ولیدہ زمعہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے میرے بھائی عتبہ نے قسم کھا کر بتایا ہے کہ ابن ولیدہ زمعہ ان کا بیٹا ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہی عبد بن زمعہ نے آگے بڑھ کر آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) دراصل اب ولیدہ میرا بھائی اور ابن زمعہ ہے کیونکہ یہ میرے باپ زمعہ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں:

”آنحضرت ﷺ نے عبد بن زمعہ سے دریافت فرمایا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کہ ابن ولیدہ زمعہ کے بستر پر پیدا ہوا تھا اس کے ثبوت میں کوئی اور دلیل ہے کہ وہ یعنی ابن ولیدہ زمعہ درحقیقت اس کا بھائی اور زمعہ کا بیٹا ہے؟ اس کے بعد آپ نے ابن ولیدہ زمعہ کی طرف غور سے دیکھا تو وہ واقعی شکل و صورت، چہرے مہرے اور قد و قامت کے لحاظ سے عتبہ بن ابی وقاص کی تصویر بلکہ دوسرا عتبہ بن ابی وقاص تھا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے بعد فرماتی ہیں:

”یہ دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے سودہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”سودہ رضی اللہ عنہا سے یعنی ابن ولیدہ زمعہ کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔“ پھر فرمایا: ”بچہ (دراصل) فرش یا بستر کا ہوتا ہے (یعنی جس پر وہ پیدا ہو) (اور) زنا کے لیے وہاں جانے والے کے لیے وہ پتھر ہوتا ہے۔“

ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی یہی تشریح کی ہے۔

بخاری متعدد حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اسی زمانے میں مکہ کی کوئی عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس

کی قوم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے بڑی عاجزی اور الحاح و زاری کے ساتھ درخواست کی کہ وہ آنحضرت ﷺ سے اس کی سفارش کر دیں۔

بہر کیف جب اس عورت کو پوری کے الزام کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور شریعت کی رو سے اس کے جرم کا ثبوت بھی مل گیا تو اس سے قبل کہ آپ اس کے بارے میں کوئی حکم صادر فرمائیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی کہ وہ آپ سے کچھ عرض کرتے آپ نے خود ہی اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”اسامہ! تم (غالباً) اس عورت کے بارے میں مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن یاد رکھو کہ اب جاہلیت کا وہ زمانہ گیا جب شریف اور مال دار لوگ اپنے جرائم کی سزا سے اس لیے بچ جاتے تھے کہ وہ (دنیا کی نظر میں) بڑے لوگ ہوتے تھے مگر غریبوں کو سزا ضرور ملتی تھی: ”خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی یہ جرم سرزد ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا“۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر اسامہ رضی اللہ عنہ دم بخود رہ گئے اور آپ کے حکم کے مطابق اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔“

کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ عورت تابہ ہو کر نیک چلن ہو گئی تھی اور اس کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”وہی عورت کسی ضرورت سے پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور میں نے اس کی ضرورت آپ سے بیان کر دی تھی۔“

مسلم اور بخاری اس سلسلے کی آخری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے ابن وہب نے یونس زہری اور عروہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر کے مطابق آنحضرت ﷺ نے مکے میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو متعہ کی اجازت دے دی تھی لیکن اس کے بعد اس کی ممانعت فرمادی تھی۔

صحیح مسلم میں ابی بکر بن ابی شیبہ کی زبانی یونس بن محمد، عبدالواحد بن زیاد، ابی عمیس، ایاس بن سلمہ بن اوع اور آخر الذکر کے والد کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ سال او طاس (یعنی سال فتح مکہ) کے دوران میں آنحضرت ﷺ نے تین بار متعہ کی اجازت دی اور اس کے بعد اس کی ممانعت فرمادی۔

بیہقی کہتے ہیں کہ بسرہ کے بقول سال او طاس پہلے فتح مکہ کے سال کو کہا جاتا تھا۔ (مؤلف)

غزوہ خیبر کی چند معتبر و مستند روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں آنحضرت ﷺ نے متعہ کی اباحت اور حرمت کا دو بار سے زیادہ حکم دیا تھا۔ واللہ اعلم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے صرف ایک بار اس کی اجازت دی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں صرف ضروری حالات میں اس کی اجازت دی تھی اور اس کے بعد اسی صورت حال کے تحت اس کی عمومی اجازت دے گئی تھی جو تا حال بدستور قائم ہے۔ یہی قول امام احمد اور ان کے علاوہ جیسا کہ مشہور ہے ابن عباس، ان کے ساتھیوں یعنی ہم عصر لوگوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک اور جماعت کا ہے ہم نے حسب موقع اس مسئلے پر اپنی کتاب ”الاحکام“ میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ (مؤلف)

فصل:

فتح مکہ کے بعد مشرکین کی آنحضرت ﷺ سے بیعت

امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے عبدالرزاق اور ابن جریج نے بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ بات انہیں عبداللہ بن عثمان بن خثیم نے محمد بن اسود بن خلف سے سن کر بتائی کہ فتح مکہ کے بعد وہاں آنحضرت ﷺ کے دوران قیام میں اسود کے بزرگوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مشرکین سے بیعت لیں۔ چنانچہ آپ نے مکے میں قرن مستقبلہ کے قریب ایک جگہ تشریف فرما کر مشرکین کو بیعت کی دعوت دی تو فوراً ہی بوڑھے بچے مرد عورتیں جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور آپ ان سے اسلام اور شہادت پر بیعت لینے لگے۔

جب محمد بن اسود سے شہادت کا مطلب دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایمان کے بعد ان سے لا الہ الا اللہ وان محمداً عبده ورسوله پر بیعت لی جاتی تھی۔

بیہتی نے بھی اس روایت کو بطور خاص پیش کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔

ابن جریر کہتے ہیں:

”جب اسلام پر بیعت کے لیے لوگ کثرت سے جمع ہونے لگے تو جیسا کہ مجھے معلوم ہوا آنحضرت ﷺ نے صفا پر تشریف فرما ہو کر ان سے بیعت لینا شروع فرمائی۔“

ابن جریر مزید بیان کرتے ہیں کہ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بائیں مجلس کھڑے ہو کر ہر شخص کی بیعت کے الفاظ سن رہے تھے اور جو لوگ بیعت کے لیے یکے بعد دیگرے آتے جاتے تھے وہ حتی الامکان اللہ اور اسلام کی اطاعت کی بیعت کرتے تھے۔

ابن جریر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جب وہاں جتنے مرد تھے بیعت کر چکے تو اس کے بعد عورتوں کی باری آئی جن میں سب سے آگے ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا مشہور ہے۔ ہند کو خوف تھا کہ آنحضرت ﷺ اس کے اس عمل کا اس سے مواخذہ کریں گے لیکن جب وہ بیعت کے لیے آپ کے قریب آئی تو آپ نے اس سے فرمایا: ”عہد کرو کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناؤں گی۔“

یہ سن کر ہند بولی:

”یا رسول اللہ (ﷺ) پہلے یہ فرمائیے کہ آپ میرے پچھلے اعمال اور میں مردوں کا جو مال اب تک لے چکی ہوں اس پر

مجھ سے مواخذہ تو نہیں کریں گے؟“

آپ نے فرمایا: ”عہد کرو کہ چوری نہیں کرو گی۔“

ہند نے عرض کیا:

”اور میں پہلے وقتاً فوقتاً ابوسفیان کا کچھ مال چوری چوری لے چکی ہوں اس کا کیا ہوگا؟ اپنے شوہر ابوسفیان کا وہ مال میں اس لیے چراتی تھی کہ وہ بہت کنجوس ہے اس لیے وہ مجھے گھر کے خرچ کے لیے جو کچھ دیتا تھا اس میں میرا اور میرے بچوں کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ مجھے اس کے زرقہ میں سے مجبوراً تھوڑا بہت چرانا پڑتا تھا۔“

ابوسفیان جو اپنی بیوی ہند کے قریب کھڑا اس کی یہ باتیں سن رہا تھا بولا:

”تم نے پہلے میرے مال میں سے جتنا بھی چوری سے لیا ہے وہ میں نے تمہیں معاف کیا۔“

آنحضرت ﷺ نے ہند سے پوچھا: ”تم عقبہ کی بیٹی ہو؟“ وہ بولی ”جی“ آپ نے فرمایا:

”بیعت کے بعد تمہارے پچھلے اعمال کا تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ (اچھا اب) عہد کرو کہ زنا کاری سے اجتناب کرو

گی۔“

ہند بولی: ”کیا شریف عورتیں بھی کہیں اس کی مرکتب ہوتی ہیں؟“

آپ نے فرمایا: ”اچھا عہد کرو کہ اپنی کسن اولاد کو (آئندہ) قتل نہیں کروگی۔“

ہند بولی:

”اور آپ نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہمارے صغیر سن افراد اور بزرگوں کو بدر میں جو قتل کر دیا ہے؟“

ہند سے یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے تو ہنس پڑے پھر فوراً ہی غور سے آنحضرت ﷺ کے ارشادات سننے لگے۔ آپ نے

نے ہند سے ارشاد فرمایا:

”عہد کرو کہ کسی عورت کے سامنے یا اس کے پیچھے اس پر کوئی بہتان نہیں باندھوگی۔“

ہند نے اس کا عہد کر لیا اور اس کے بعد جب آپ نے اس سے معصیت سے اجتناب اور نیک باتوں پر عمل کرنے کا عہد بھی لے لیا۔ تو اس کی بیعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ آپ کی طرف سے باقی عورتوں سے بیعت لیں۔ یعنی پچھلے اعمال کی توبہ کرائیں اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں کہ وہ غفور رحیم ہے۔

ابن جریر اسی روایت میں متعدد ثقہ حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں یا ان خواتین کے سوا جن کے آپ محرم تھے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوتے تھے اور ہند سے آپ نے بیعت لیتے وقت اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا۔

صحیحین (صحیح بخاری و صحیح مسلم) میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول درج کیا گیا ہے کہ:

”آنحضرت ﷺ نے کسی محرم عورت کے ہاتھ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔“

ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ عورتوں سے ان میں سے کسی

کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھوائے بغیر ہمیشہ زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔

ابوداؤد عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے حوالے سے اپنے مجموعہ احادیث میں بیان

فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر کسی سے دوسری باتوں کے علاوہ (جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے) جہاد اور نیک نیتی کے سوا ہجرت کی بیعت نہیں لی اور جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ:

”اب ہجرت کا زمانہ گزر گیا اب آئندہ اگر مسلمان کہیں سے بشرطیکہ انہیں وہی صورت حال درپیش نہ ہو جو مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرتے وقت پیش آئی تھی یعنی ان کے جان و مال اور دین و ایمان کو خطرہ نہ ہو، کسی دوسری جگہ بوجہ دیگر منتقل ہوں گے تو اسے ہجرت نہیں کہا جائے گا“۔ (حدیث نبوی کا تشریحی ترجمہ۔ مترجم)

اس حدیث نبوی کا یہ مطلب ہوا کہ فتح مکہ کے بعد سے ہجرت کا ملہ یا حقیقی ہجرت کا ان شرائط کے علاوہ جو اس حدیث میں درج کی گئی ہیں خاتمہ ہو گیا۔ (مؤلف)



غزوہ ہوازن یوم حنین

اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

محمد بن اسحاق بن یسار نے اپنی کتاب میں فتح مکہ کے ذکر کے بعد آنحضرت ﷺ کی ہوازن کی طرف روانگی کی تاریخ پانچ شوال سن آٹھ ہجری بیان کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کے خیال میں فتح مکہ جب ہوئی تھی اس وقت ماہ رمضان ختم ہونے میں ابھی دس روز باقی تھے اور ماہ شوال کے دس روز گزرنے سے قبل آپ ہوازن کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یہی روایت ابن مسعود اور عروہ بن زبیر کی ہے جسے احمد اور ابن جریر نے انہی کے حوالے سے اپنی اپنی تحریر کردہ کتب تاریخ میں پیش کیا ہے۔

واقفی کہتے ہیں کہ ابھی ماہ شوال کے چند روز سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ آنحضرت ﷺ ہوازن کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور ماہ شوال کے دسویں روز حنین جا پہنچے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”حنین میں ہم دشمن کی قلت تعداد کی وجہ سے اس پر غالب نہیں آئے تھے تاہم وہاں بھی دشمن نے بنو سلیم اہل مکہ اور دیگر دشمنان اسلام کی طرح ہمارے مقابلے میں شکست کھائی تھی“۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی مکہ میں فتح کی خبر سنتے ہی اہل ہوازن نے نہ صرف اپنے قبیلے کے لوگوں کو آپ سے مقابلے کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا تھا بلکہ قرب وجوار کے مشرک قبائل اور اپنے اور ان کے حلیفوں کو بھی اپنی امداد کے لیے بلا بھیجا تھا اور وہ سب جمع ہو کر ہوازن پہنچ گئے تھے اس لیے آنحضرت ﷺ کو مجبوراً ان سرکش قبائل کو راہ راست پر لانے کے لیے وہاں جانا پڑا۔

ابن اسحاق کے بقول اہل ہوازن اور قرب وجوار کے دیگر قبائل اور ان کے خلفاء کے عساکر تمام کے تمام تو منہمند جوانوں پر مشتمل تھے اور اپنی اپنی جگہ ان کی تعداد بھی بہت بڑی تھی۔ ان جملہ عساکر میں صرف ایک بوڑھا شخص تھا اور اسے بھی اس کی فنون حرب میں مہارت اور مختلف لڑائیوں میں طویل تجربے کی بناء پر مشورے کے لیے رکھا گیا تھا۔

ان سب قبائل کے لوگ اپنے اپنے سرداروں کی سربراہی میں ہوازن کے سردار مالک بن عوف نصری کی امداد کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے۔ جب ان سب قبائل کا مجموعی لشکر مل کر آنحضرت ﷺ کے مقابلے کے لیے چلا تو اس میں مال و دولت کے

ذہیروں کے علاوہ ان کی عورتیں اور بچے بھی شامل تھے اور ان کے ساتھ درید بن صمعد بھی ہولیا تھا۔ اس نے پہلی منزل پر مالک بن عوف نصری سے پوچھا: ”اس وقت ہم کس وادی میں ہیں؟“ اس نے جواب دیا: ”وادی اوطاس میں“ یہ سن کر درید بولا: ”لیکن یہاں تو نہ بڑ کی آوازیں ہیں نہ دھونسوں کی دھول دھاں ہے میں تو یہاں سرف اونٹوں کی بانٹاؤں اور گدھوں کی رینگیں سن رہا ہوں۔“

اس کے بعد اس نے کہا:

”مالک! تم تو اس لشکر کے امیر ہو، تمہیں اس جنگ سے خدا جانے کن فوائد کی امید ہے لیکن میں تو اس کے نتیجے میں صرف عورتوں کی فریاد اور بچوں کی آہ و بکا کی امید رکھتا ہوں۔“

آخر میں اس نے کہا:

”میری رائے یہ ہے کہ اس مال و زر کے انبار اور عورتوں بچوں کو ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ہمارے بعد کیا یہ عورتیں اور بچے ہمارے مقابل لشکر سے لڑیں گے؟“

درید بن صمعد نے پھر مالک بن عوف نصری سے پوچھا: ”یہ کعب و کلاب کے لوگ کہاں ہیں؟“ مالک نے جواب دیا: ”میں نے ان میں سے اب تک کسی ایک کی صورت نہیں دیکھی۔“ یہ سن کر درید بولا: ”اگر ہمارا کوئی بڑا اور جشن کا دن ہوتا تم دیکھتے کہ وہ سب کے سب یہاں موجود ہوتے۔ بہر حال تم اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو؟“

جب درید نے اس جنگ کے بارے مالک سے اور بہت کچھ طنزیہ انداز میں کہا تو مالک بولا:

”اگر تم نے مجھ پر اور میرے قبیلے پر اور زیادہ طعنہ زنی کی تو میری یہ تلوار ہے اور تم ہو یا تو پھر میں نہیں یا تم نہیں۔“

اس کے بعد مالک بن عوف نصری نے درید بن صمعد کی کوئی بات سننے سے انکار کرتے ہوئے اس کی طرف سے کراہت سے منہ پھیر لیا۔ پھر اپنے لشکر کو مخاطب کر کے بولا:

”جب تم مسلمانوں کا لشکر آتا دیکھو تو ادھر ادھر منتشر ہو جانا اور پھر ایک ایک کر کے یکبارگی اس پر ٹوٹ پڑنا۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے امیہ بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان نے بیان کیا کہ انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ مالک بن عوف نصری نے اس تقریر کے بعد اپنے کچھ لوگوں کو آنحضرت ﷺ کے لشکر کا سراغ لگانے اور اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آگے بھیجا لیکن وہ لشکر اسلام کے چند لوگوں کو دیکھتے ہی بھاگ نکلے اور پھر مختلف سمتوں سے جمع ہو کر جب ہانپتے کانپتے مالک کے پاس پہنچے تو وہ چیخ کر بولا:

”کم بختو! آخر تمہیں ہوا کیا ہے جو یوں کانپ رہے ہو؟ کیا تمہاری جو انمردی اور جنگجویی کی یہی شان ہے؟“

جب مالک اپنے ان لوگوں کو سرزنش کر کے کسی قدر خاموش ہوا تو وہ ڈرتے ڈرتے ایک زبان ہو کر بولے:

”جی ہم ابھی یہاں سے کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ہمیں انڈے کی طرح سفید سر کے کچھ لوگ ابلق گھوزوں پر سوار اپنی

طرف بڑھتے نظر آئے تو ہم نے ان کے سامنے سے بھاگ کر اپنی جان بچائی ورنہ وہ اپنی چمکتی تلواروں سے ہمارے

مکڑے کر دیتے، ہمیں تو وہ انسان نہیں معلوم ہوتے تھے۔“

محمد بن اسحاق انہی مذکورہ بالا حوالوں کے ساتھ مزید بیان کرتے ہیں کہ دوسری طرف جب آنحضرت ﷺ کو ان قبائل کے اجتماعی لشکر کے کچھ دور پڑاؤ کی خبر ملی تو آپ نے عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ وہاں جا کر ان سے ان کے عزائم کے علاوہ ان کے لشکر کے بارے میں اپنے طور پر مکمل معلومات حاصل کر کے آپ کو مطلع کریں۔ چنانچہ عبداللہ مالک اور دیگر قبائل کے اجتماعی لشکر میں کسی نہ کسی طرح گھوم پھر کر جتنی معلومات حاصل کر سکے واپس آ کر ان سے آنحضرت ﷺ کو آگاہ کر دیا۔

جب آنحضرت ﷺ کے سے ہوازن کی طرف روانہ ہونے لگے تھے تو آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ صفوان بن امیہ کے پاس کافی جنگی اسلحہ موجود ہے اگر وہ اس سے لے لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ نے کسی کو صفوان کے پاس وہ اسلحہ اور دوسرا سامان جنگ منگوانے کے لیے بھیجا تو صفوان نے اس شخص سے پوچھا: یہ سامان رسول اللہ ﷺ (ﷺ) کس طرح لینا چاہتے ہیں عاریۃً یا اسے لے کر غصب کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا: ”بھلا رسول اللہ ﷺ تمہارا اسلحہ غصب کیوں کرنے لگے وہ اسے عاریۃً لینا چاہتے ہیں اور وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔“ یہ سن کر صفوان نے کہا: تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اس کے پاس جس قدر بھی اسلحہ اور دوسرا سامان جنگ تھا آپ کے فرستادہ شخص اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔

جیسا کہ متعدد مستند روایات سے ظاہر ہوتا ہے صفوان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاہم انہوں نے سوز رہیں جو دوسرے اسلحہ تلواروں اور نیزوں وغیرہ کے لیے کافی تھیں آنحضرت ﷺ کو بھیجا دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صفوان سے صرف اتنا ہی اسلحہ منگوا لیا تھا جتنا اس کے ہاں سے آپ کے لشکر تک آسانی سے منتقل کیا جاسکے غزوہ ہوازن یا یوم حنین کے بعد جب آنحضرت ﷺ نے صفوان کو وہ اسلحہ واپس بھیجوا لیا تو اس میں سے کچھ ضائع ہو گیا تھا۔ جب آپ نے اس ضائع شدہ اسلحہ کا معاوضہ صفوان کو دینا چاہا تو اس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ (ﷺ) آپ کی ذات بابرکات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے میں تو اب

مفہوم اسلام سے واقفیت کے بعد اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔“

صفوان رضی اللہ عنہ کے اس جواب میں آپ نے خوش ہو کر انہیں دعائے خیر دی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کے سے ہوازن کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ بارہ ہزار مجاہدین پر مشتمل لشکر تھا جس میں دو ہزار وہ لوگ شامل تھے جن میں کچھ تو مکے میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے افراد شامل تھے اور باقی راستے میں مسلم قبائل کے افراد شامل ہو گئے تھے۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ غزوہ مکہ کے لیے مدینے سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ روانہ ہونے والے لشکر کی تعداد دس ہزار تھی جس کے بعد مختلف قبائل کے افراد اور مکے میں مسلمان ہو جانے والے اشخاص کی تعداد ملا کر یہ تعداد بارہ ہزار ہو گئی تھی اور اب کے سے اس میں مزید شامل ہونے والے افراد کی دو ہزار تعداد ملا کر ظاہر ہے چودہ ہزار ہو گئی ہوگی۔ (مؤلف)

مذکورہ بالا روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک عظیم ہبز رنگ کا درخت تیار کیا تھا جس کی مختلف شاخوں پر وہ اسلحہ جنگ رکھا کرتے تھے اور ہر جنگ کے موقع پر وہ درخت جس میں پیسے لگے ہوئے تھے ان کے لشکر کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ مکے سے فتح مکہ کے بعد جب آنحضرت ﷺ ہوازن کی طرف روانہ ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے پایا کہ وہ درخت بھی مع اسلحہ ساتھ لے لیا جائے لیکن آنحضرت ﷺ اسے زمانہ جاہلیت کی ”روایت اور ظاہری نمائش“ فرما کر ان لوگوں کی اس خواہش کو رد فرما دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکے سے ہوازن کی طرف روانگی کے وقت آنحضرت ﷺ نے وہاں اپنی نیابت کے لیے عتاب بن اسید ابن ابی العیص بن امیہ بن عبد شمس اموی کا تقریر فرمایا تھا۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ ان سے ابو توبہ اور معاویہ بن زید نے بیان کیا کہ انہیں زید ابن سلام نے اپنے والد ابو سلام سے سنا ہوا وہ واقعہ سنایا جو ابن سلام کے والد نے سلولی سے سنا تھا اور سلولی کو سہل بن حنظلیہ نے سنایا تھا۔ سہل بن حنظلیہ نے بیان کیا کہ وہ یعنی سہل بن حنظلیہ غزوہ حنین کے موقع پر مکے سے ہوازن کی طرف سفر میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تھے وہ بتاتے ہیں کہ اس سفر میں ایک روز جب وہ اور سارے اسلامی لشکر آنحضرت ﷺ کی قیادت میں نماز ظہر کے لیے صف بستہ تھا تو ایک گھڑسوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) میں آپ کے حکم سے ہوازن کے راستے پر اہل ہوازن اور ان کے لشکر کی موجودگی کے ادھر ادھر آثار تلاش کرتا ہوا اتفاق سے دور تک نکل گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں ہوازن پہنچ گیا ہوں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ہوازن کا لشکر حنین کی طرف جا رہا ہے۔ اس لاؤ لشکر میں اسلحہ جنگ اور دوسرے سامان کے علاوہ میں نے خوراک کے بہت سے ذخائر بھی دیکھے لیکن میں یہ دیکھنے کے بعد کوشش کر کے ان کی نظروں سے بچتا ہوا واپس یہاں حاضر ہوا ہوں۔“

سہل بن حنظلیہ مزید بیان کرتے ہیں:

”میری زبانی آنحضرت ﷺ نے یہ خبر سن کر تبسم فرماتے ہوئے فرمایا: ”وہ سارے سامان ان شاء اللہ کل تک ہمارے لشکر کا مال غنیمت بن جائے گا۔“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا: ”آج رات کو طویا یہ گردی پر کون ہو گا؟“ آپ کے اس سوال کے جواب میں انس بن ابی مرثد نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ (ﷺ) یہ فرض آج میرا ہے۔“ آپ نے انس سے یہ سن کر فرمایا: ”تو پھر اس فرض کی ادائیگی کے لیے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔“

سہل بن حنظلیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا یہ حکم سنتے ہی انس گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مذکورہ فرض کی ادائیگی کے لیے کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے ان سے فرمایا:

”رات بھر سامنے کی پہاڑی گھٹائی کا اوپر تک خاص طور سے خیال رکھنا تا کہ ادھر سے کوئی شخص ادھر نہ آنے پائے۔“

سہل کہتے ہیں کہ:

”جب صبح ہوئی تو فجر کی ۱۰ رکعت نماز ادا فرما کر آپ نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ اسلامی لشکر کے سواروں کو مستعد رہنے کا حکم دے دیا گیا تھا یا نہیں اور جب آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ حکم دے دیا گیا تھا تو آپ پھر مصلے پر تشریف فرما ہو کر ذرا الٹی میں مسروف ہو گئے لیکن آپ مسلسل سامنے کی مذکورہ گھائی کی طرف بھی متوجہ رہے اور کچھ ہی دیر بعد آپ نے آس پاس کے لوگوں سے فرمایا: ”دیکھو اوہ سوار کیا خبر لایا ہے؟“۔

تاہم وہ سوار جو انس ابن مرشد رضی اللہ عنہ تھے فوراً ہی اس سامنے کے پہاڑ سے اتر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا: ”تم اس گھائی کے سامنے سے رات کے کسی حصے میں بڑے تو نہیں تھے؟“ انس بن مرشد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”سوائے رفع حاجت اور نماز کے علاوہ میں وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بٹا لیکن میں نے وہاں یہ عجیب بات دیکھی کہ وہ پہاڑی گھائی جو پہلے ایک ہی نظر آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد دو نظر آنے لگیں لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں میری نظروں سے غائب ہو گئیں“۔

انس ابن مرشد رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر نبی اکرم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”خیر تم نے اپنا فرض ادا کر دیا“۔ یہ روایت اسی طرح نسائی نے بھی محمد بن یحییٰ، محمد بن کثیر الحراتی اور ابی توبہ الرزق بن نافع کے حوالے سے پیش کی ہے۔



حنین سے کچھ مسلمانوں کے فرار اور پھر متقین کی کامیابی کا واقعہ

یونس بن بکیر وغیرہ نے اس سلسلے میں محمد بن اسحاق کا بیان پیش کیا ہے جو کہتے ہیں: ”مجھ سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے عبدالرحمن ابن جابر بن عبداللہ اور آخر الذکر کے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ مالک بن عوف جب اپنا لشکر لے کر حنین کی طرف جا رہا تھا تو آنحضرت ﷺ نے اسلامی لشکر کو اس کے تعاقب کا حکم دیا لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے لشکر سمیت بھاگ کر دائیں بائیں پہاڑوں پر چڑھ کر غائب ہو گیا اور صبح تک ساری وادی میں ان کا نشان تک نہ تھا لیکن یہ مالک بن عوف کی ایک جنگی چال تھی کیونکہ جب اسلامی لشکر اہل ہوازن اور دوسرے باغی قبائل کی طرف سے مطمئن ہو کر وادی حنین میں ٹھہر گیا تو وہ ٹڈی دل کی طرح ادھر سے ادھر اٹھ آیا اور اسلامی لشکر کو گھیرے میں لے کر اس پر ٹوٹ پڑا تو اکثر مسلمان اس آفت ناگہانی سے ایسے گھبرائے کہ انہیں تن بدن کا ہوش نہ رہا اور ان میں سے جس کا جس طرف منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا اور آنحضرت ﷺ انہیں پکارتے رہ گئے کہ ”اے لوگو! کدھر جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ“ میں اللہ کا رسول ہوں، دیکھو میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔“ لیکن اس افراتفری میں آپ کی آواز بھی صد الصبح اثابت ہوئی البتہ جن اہل ایمان نے اس وقت بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنی قلیل تعداد کے باوجود مالک بن عوف کے اس ٹڈی دل لشکر کا منہ پھیر دیا ان میں آپ کے اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں میں ابوسفیان ابن حارث بن عبدالمطلب، ان کے بھائی ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب، فضل بن عباس اور ایک روایت کے مطابق فضیل بن ابوسفیان، ایمن بن ام ایمن اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم پیش پیش تھے۔ ان کے علاوہ مہاجرین کا ایک گروہ جن میں قثم بن عباس اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے اپنی جگہ مضبوطی سے جمارہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتہائی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی سفید اونٹنی کو جس پر آپ سوار تھے ایک درخت کے نیچے لاکر اس کے گرد و پیش جم کر کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف جیسا کہ محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے ہوازن کا ایک شخص سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار اور ایک ہاتھ میں سیاہ پرچم اور دوسرے میں انتہائی لمبائی لہانیزہ لیے ہوئے آپ کی طرف بڑھتا آ رہا تھا اور اس کے پیچھے اہل ہوازن کی کثیر تعداد تھی۔ محمد بن اسحاق کے مطابق وہ ہوازن کا امام تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا نیزہ آنحضرت ﷺ کی طرف بڑھایا اور اس کے ساتھی آپ کے محافظین کی طرف بڑھے لیکن اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے اس شخص پر تلوار ماری جو اس کے سر سے سینے تک اتر گئی اور ایک انصاری نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی تک اپنی تلوار سے کاٹ کر الگ کر دیا تو وہ اپنے اونٹ سے زمین پر آ رہا جس کے بعد اس کے ساتھی بلکہ سارا لشکر ان چند مسلمانوں کے تابو توڑ حملوں کی تاب نہ لا کر پسا ہونے پر مجبور ہو گیا۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد اسلامی لشکر کے بھگڑوں کو بھی ہوش آیا لیکن جب وہ پلٹ کر آنحضرت ﷺ کے قریب

آئے تو انہوں نے ہوازن کے اسیران جنگ کو آپ کے سامنے دست بستہ کھڑا پایا۔

امام احمد نے یعقوب بن ابراہیم زہری کی ایک روایت ان کے والد اور ابن اسحاق کے حوالے سے پیش کی ہے جس میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ حنین میں آخر کار ہوازن کی شکست فاش اور غازیان اسلام کی قابل رشک کامیابی و فتح کے بعد آنحضرت ﷺ سب سے پہلے ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب کی طرف توجہ ہوئے اور پوچھا: ”یہ کون ہیں؟“ جواب دیا گیا: آپ کے چچا کے بیٹے یا رسول اللہ (ﷺ) ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب جو مذکورہ بالا آفت ناگہانی اور افراتفری میں بھی آپ کی سواری کی لگام تھامے مستقل مزاجی سے جھے کھڑے رہے تھے مسلمان ہو کر درحقیقت بہترین مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ابوسفیان بن حارث بن حارث تھے جن کے دائرہ اسلام میں آ جانے کے بعد بھی ان کی زمانہ جاہلیت کی کمزوریوں خصوصاً فال کے تیروں کے ذریعہ تقسیم حصص کا اکثر ذکر رہتا تھا غزوہ حنین میں ان کا قول تھا کہ مسلمان شکست کھا کر سمندر سے اس طرف نہیں ٹھہریں گے لیکن بعد میں مشرک عربوں کی مثالی شجاعت اور دم خرم کا جنازہ نکلتا دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ صفوان بن امیہ کی باطل پرستی کا سحر بھی حنین ہی میں ٹوٹا تھا اور وہ جو ایک طویل مدت تک مشرک رہے تھے اس روز کہہ رہے تھے کہ قریش کا ایک آدمی بھی مجھے سارے قبیلہ ہوازن سے زیادہ عزیز ہے۔

امام احمد متعدد حوالوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حنین میں ہوازن اپنے ساتھ اپنی عورتوں اور بچوں کے علاوہ ہزاروں اونٹ اور دوسرا ساز و سامان لے کر آئے تھے اور ان کی ہزیمت کے بعد آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ”مسلمانوں میں سے جس نے کسی کافر کو قتل کیا اس کا مال اس کا ہوگا“۔ چونکہ ابوطالب رضی اللہ عنہ نے اس روز دس کافروں کو قتل کیا تھا اس لیے ان سب کا مال بطور مال غنیمت انہی کے حصہ میں آیا تھا۔ اس پر موقع پر ابوقحادہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا تھا: ”یا رسول اللہ (ﷺ) میں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا لیکن اس کی زرہ نہ جانے کس نے اتاری؟“ یہ سن کر قریب سے ایک شخص شرمندہ ہو کر بولا: ”وہ میں نے اتاری تھی، لیجیے یہ حاضر ہے۔“

اس روز جس مسلمان نے جس چیز کا دعویٰ کیا تھا اور کسی دوسرے نے اس کی تردید نہیں کی تھی تو وہ چیز اسی شخص کو دے دی گئی تھی۔

ابوطالب نے ام سلیم کے پاس ایک خنجر دیکھ کر ان سے پوچھا: ”یہ خنجر تمہیں کہاں سے ملا؟“ وہ بولیں: ”یہ خنجر مجھے کسی مشرک کا پیٹ چاک کرنے کے لیے ملا ہے۔“ جب یہ بات آنحضرت ﷺ تک پہنچی اور آپ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے وہی سوال کیا تو وہ بولیں: ”یا رسول اللہ (ﷺ) میں ایک ہزیمت خوردہ مشرک کا تعاقب کر رہی تھی تو وہ یہ خنجر چھوڑ بھاگا۔ پھر تو یہ میرا ہی ہوانا؟“ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے یہ سن کر آپ ہنس پڑے اور پھر خاموش ہو گئے۔

ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا تھا: ”یا رسول اللہ (ﷺ) آج شیروں کے شیر (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کو اتنا مال غنیمت نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔“ اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”عمر! تم نے سچ کہا،“ ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا گیا ہے۔

بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ مکے سے وہاں چار سو مسلمان ہو جانے والے لوگوں کے علاوہ باقی سولہ سو دوسرے افراد جو وہاں سے ہوازن کی طرف آنحضرت ﷺ کی روانگی کے وقت آپ کے ساتھ ہو لیے تھے وہ صرف مال غنیمت کے لالچ میں وہاں آپ کے ساتھ گئے تھے دن میں ابی سفیان صخر بن حرب اور سفوان بن امیہ بھی تھے لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں بھی ہوازن کے مال میں سے کچھ نہ کچھ مل ہی گیا تھا نیز یہ کہ ان لوگوں کو جو بھگڑوں میں شامل نہیں تھے اس سے محروم نہیں رکھا گیا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حنین میں ہوازن کی شکست کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے لیے آنحضرت (ﷺ) نے مسعود بن عمرو غفاری (رضی اللہ عنہ) کو مقرر فرمایا تھا۔

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ ہوازن کی شکست کے بعد وہاں کی سرداری مالک بن عوف نصری ہی کے پاس رہی تھی۔ ابن اسحاق یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس روز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک عورت قتل ہو گئی تھی اور جب آنحضرت ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: ”خالد کو تلاش کرو اور ان سے کہو کہ وہ عورتوں، بچوں اور غیر مسلح لوگوں کو قتل نہ کریں۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب بھی آنحضرت ﷺ کے حکم سے کسی غزوے میں مقدمۃ الجیش کے امیر کی حیثیت سے آپ کے ساتھ گئے تو آپ نے انہیں ہمیشہ یہی حکم دیا کہ وہ عورتوں، بچوں یا کسی غیر مسلح شخص کو قتل نہ کریں۔



غزوہ اوطاس

غزوہ اوطاس کا سبب یہ تھا کہ جب قبیلہ ہوازن نے حنین میں مسلمانوں سے شکست کھائی تو ان کا ایک گروہ مالک بن اوس نصری کی سربراہی میں ان سے الگ ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو گیا اور ایک دوسرا گروہ ایک اور قلعہ میں جسے قلعہ اوطاس کہا جاتا تھا فوج جمع کر کے جا بیٹھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کی طرف ابو عامر اشعری کی سربراہی میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم پر مشتمل ایک فوجی رسالہ بھیجا جس نے وہاں جا کر ان سے جنگ کی اور ان پر غالب آیا۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ خود بہ نفس نفیس طائف تشریف لے گئے اور اس کا محاصرہ کیا جس کا ذکر ہم ان شاء اللہ عنقریب آگے چل کر کریں گے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حنین میں ہوازن کی شکست کے بعد ان کا ایک گروہ طائف چلا گیا اور ایک گروہ نے اوطاس کو اپنا مرکز بنا کر وہاں فوج جمع کر لی۔ ان کا ایک گروہ نخلہ بھی گیا لیکن وہ صرف بنی ثقیف کی ایک شاخ بنو غیرہ کے لوگ تھے۔ ان کا ایک آخری گروہ جس نے آنحضرت ﷺ کی اطاعت اختیار کر لی تھی اس کا تعلق اس قبیلے کی شاخ ثایا سے تھا۔

بہر کیف ربیعہ بن ریح بن ابان سلمیٰ نے اوطاس میں درید بن صمعه کو دیکھا تو انہوں نے اس کے اونٹ کی ٹیبل پکڑ لی۔ ربیعہ کو معلوم ہوا تھا کہ قلعہ اوطاس میں کوئی عورت حکمرانی کر رہی ہے اس لیے وہ درید کو پہچان نہ سکے جو کافی سن رسیدہ تھا۔ درید بن صمعه جو اپنی ماں کے نام سے ابن دغنه مشہور تھا اسی رشتے سے ربیعہ کا عزیز تھا اور وہ اس کوئی جوان آدمی سمجھتے تھے لیکن ایک بوڑھے کو اپنے سامنے دیکھ کر چمکا گئے اور جب اس نے پوچھا: ”تم میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟“ تو وہ بولے ”میں تمہیں قتل کر دوں گا اور واقعی انہوں نے اسے قتل کر دیا لیکن جب ربیعہ نے اپنی ماں سے اس کا ذکر کیا تو وہ افسوس کرتے ہوئے بولی: ”کبخت تو نے اپنے رشتے کے بھائی ہی کو قتل کر دیا۔“

اس کے بعد اسحاق نے بتایا ہے کہ درید پر کئی لوگوں نے مریضے بھی کہے تھے۔ البتہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس سے قبل اوطاس کی میدانی لڑائی میں اس درید بن صمعه نے تیر مار کر ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو ہلاک کیا تھا۔

ابن اسحاق نے ایک دوسرے بیان میں بتایا ہے کہ جس لشکر کا سربراہ بنا کر آنحضرت ﷺ نے ابو عامر اشعری کو اوطاس روانہ فرمایا تھا جب وہ وہاں پہنچا تو سب سے پہلے ابو عامر رضی اللہ عنہ ہی نے ان لوگوں کو جو ہوازن میں شکست کھا کر وہاں جمع ہوئے تھے اور اب پھر آنحضرت ﷺ کے خلاف بغاوت پر آمادہ تھے اس لیے ابو عامر رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی لیکن جب وہ تیر کھا کر شہید ہو گئے تو ان کا علم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھال لیا تھا جو ابو عامر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ غزوہ اوطاس میں سب سے پہلے ابو عامر رضی اللہ عنہ کا دس مشرک بھائیوں سے مقابلہ ہوا تھا

اور انہوں نے ان میں سے ہر ایک پر حملہ کرنے سے قبل اسے دعوت اسلام دی تھی لیکن اس کے انکار پر انہوں نے اسے قتل کیا تھا اور اسی طرح انہوں نے نوبھائی قتل کر دیے لیکن دسویں نے جب کہا کہ وہ دین اسلام کے سوا کسی اور دین کی شہادت تو نہیں دے رہا ہے تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور ابن اخطاب کے بقول: "..... ان شخص بعد میں باقاعدہ مسلمان ہو کر بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔"

حنین و اوطاس کے شہداء:

حنین اور اوطاس کے شہداء کی مجموعی تعداد صرف چار تھی جن کے نام ذر ج ذیل ہیں:

ابن ام ایمن جو عبید کے بیٹے اور آنحضرت ﷺ کے غلام تھے زید بن زمعہ بن اسود بن مطلب، سراقہ بن مالک بن حارث بن عدی انصاری جن کا تعلق بنی عجلان سے تھا اور ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہم جنہیں آنحضرت ﷺ نے اوطاس میں امیر لشکر بنا کر بھیجا تھا۔

جن شعراء نے غزوہ ہوازن (حنین) پر بڑے قابل قدر اشعار کہے ہیں ان کے نام یہ ہیں:

یحیر بن زہیر بن ابی سلمیٰ، ابن ہشام، عباس بن مرداس سلمیٰ، عباس۔

ان شعراء کے علاوہ دیگر کئی شعراء نے غزوہ ہوازن پر زور قلم دکھایا اور ان کے جواب میں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ایک آدھ مشرک شاعر نے بھی شاعری میں اپنی مہارت کا ثبوت دیا تھا اور غزوہ ہوازن کے سلسلے میں یہ شعری سرمایہ بھی عربی ادب میں ادب کی حد تک اور اظہار جذبات کی حد تک آج تک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔



غزوہ طائف

عروہ اور موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین سے فراغت کے بعد آنحضرت ﷺ نے طائف کا محاصرہ کیا اور یہ واقعہ بھی ماہ شوال سال ہشتم ہجری کا ہے۔

محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حنین میں بنی ثقیف کے شکست خوردہ لوگوں نے وہاں سے طائف کا رخ کیا اور اس شہر میں گویا اپنے نزدیک مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیا۔ انہوں نے وہاں ایسے اسلحہ جنگ بھی تیار کر لیے جن کے متعلق عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل حنین یا طائف میں ان کی نظر سے نہیں گزرے تھے مثلاً منجیق، دبا بے اور قلعہ کی دیواروں تک پہنچنے کے آلات وغیرہ۔

بہر کیف بنی ثقیف کی طائف میں ان تیاریوں کا حال سن کر آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اور دوسرے مجاہدین کو ساتھ لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے جس کا حال کعب بن مالک نے بڑی خوبصورتی سے نظم کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے اس سفر کا حال جیسا کہ امام محمد بن اسحاق نے بتایا ہے، عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے قابل قدر اشعار میں پیش کیا ہے جنہیں یہاں درج کرنے سے ہم نے بخوف طوالت عذر گریز کیا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حنین سے طائف کی طرف سفر کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ پہلے نخلہ یمانہ پہنچے وہاں سے آگے قرن پھریج اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر لیہ کے بحرۃ الرعاء میں قیام فرمایا جہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈال کر وہیں نماز ادا فرمائی اور وہیں ایک قتل کا فیصلہ بھی فرمایا جس کا مقدمہ اسلام میں آپ کے سامنے پہلی بار پیش کیا گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ بنی لیث کے کسی شخص نے بنی ہذیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور آپ نے قاتل کے قتل کا حکم دیا تھا جس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ وہیں آپ کو مالک بن عوف نصری کا تیسرہ کردہ ایک (کچا) قلعہ ملا تھا جسے آپ کے حکم سے منہدم کر دیا گیا تھا۔

اس سے آگے آپ نے ضیقہ کی راہ پر پیش قدمی فرمائی اور اس راستے کا نام دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ ”اس راستے کا نام ضیقہ ہے“۔ آپ نے فرمایا: ”یہ تو آسان راستہ ہے اس لیے اسے ضیقہ (مشکل) نہیں آسان کہنا چاہیے“۔

اس کے بعد آپ نے نخب کی راہ سے آگے بڑھ کر ایک درخت کے زیر سایہ قیام فرمایا جسے ”صدرہ“ کہا جاتا تھا اور اس درخت کے علاوہ اس کے گرد پیش کی زمین بنی ثقیف کے ایک شخص کی تھی۔

آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے کہلویا کہ وہ آپ سے گفتگو کے لیے اپنے اس پختہ مکان سے باہر آئے جسے وہ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا لیکن اس کے انکار کرنے پر جیسا کہ اسے پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا، اس کی اس پناہ گاہ کو آپ کے حکم سے منہدم کر دیا گیا۔

ابن اسحاق متعدد دوسرے حوالوں کے علاوہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زبانی جو طائف کی طرف سفر میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تھے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا:

”جب ہم حنین سے طائف کی طرف آنحضرت ﷺ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں کسی کی قبر تھی۔ آنحضرت ﷺ نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ: ”یہ قبر بنو ثقیف کے ایک شخص ابی رغال کی ہے جو پہلے قوم ثمود کے ساتھ رہتا تھا۔ جب قوم ثمود پر عذاب الہی نازل ہوا تو وہ بھاگ کر یہاں آ گیا اور یہیں اپنے لیے قیام گاہ تعمیر کر لی۔“ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ: ”مرتے وقت ابی رغال نے وصیت کی تھی کہ اس کا جمع کردہ خزانہ اس کی میت کے ساتھ اس کے مدفن میں دفن کر دیا جائے۔“

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ابی رغال کی قبر کھودی گئی تو آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کے مطابق اس میں سے اس کا مدفن خزانہ برآمد ہوا جس کے متعلق مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص اس کا کسی قدر حصہ بھی اپنے تصرف میں لایا تو وہ انتہائی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا لیکن اہل اسلام نے اسے پچھلے لوگوں کی توہم پرستی پر محمول کیا اور یہی آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا۔

یہ روایت ابوداؤد نے بھی یحییٰ بن معین، وہب ابن جریر بن حازم، ان کے والد اور ابن اسحاق کے حوالے سے پیش کی ہے اور اسے بیہقی نے بھی یزید بن زریع کی زبانی روح بن قاسم اور اسماعیل بن اُمیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس جگہ سے آگے سفر فرماتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے طائف کے سامنے پہنچ کر اسلامی لشکر کو وہیں پڑاؤ کا حکم دیا اور بنی ثقیف کے جو لوگ ہوازن چھوڑ کر طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے ان سے کہلوا بھیجا کہ اگر وہ قلعہ سے باہر نکل کر صلح جو یا نہ گفتگو پر آمادہ ہوئے تو ان سے جنگ نہیں کی جائے گی لیکن انہوں نے اس سے نہ صرف قطعی انکار کیا بلکہ قلعہ کی کمین گاہوں سے تیر اندازی کر کے آپ کے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب طائف کے نزدیکی علاقے سے آنحضرت ﷺ نے آگے بڑھ کر اسلامی لشکر کو اس جگہ پڑاؤ کا حکم دیا تھا۔ جہاں آج کل ایک مسجد واقع ہے جسے بنی ثقیف نے اسلام قبول کرنے کے بعد تعمیر کیا تھا۔ بنی ثقیف کے بقول اس مسجد میں ایک ایسا گنبد تعمیر کیا گیا تھا جس پر صبح سے طلوع آفتاب کے بعد شام تک کسی وقت دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ تاہم بعض لوگوں نے اس کی تردید بھی کی ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ طائف میں بنی ثقیف کے اس قلعہ کا محاصرہ بیس روز سے کچھ زیادہ عرصے تک جاری رہا تھا جب کہ ابن ہشام کے مطابق یہ مدت سترہ دن تھی۔

عروہ و موسیٰ بن عقبہ زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حنیف سے طائف کی طرف سفر کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے زائد از ضرورت سامان جرعانہ میں چھوڑ دیا تھا اور اس کے لیے ایک جگہ مقرر کر کے کچھ محافظ وہاں چھوڑ دیئے تھے۔

زہری کے بقول آنحضرت ﷺ نے جرعانہ سے آگے بڑھ کر قلعہ طائف کے قریب اکمہ میں قیام فرمایا تھا اور وہیں بنی ثقیف سے دس روز کے قریب مجاہدین اسلام کا مقابلہ ہوا تھا جس میں پہلے دونوں طرف کے کچھ لوگ کام آئے تھے۔ اس کے بعد

بنی ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے اور آنحضرت ﷺ کے حکم سے مجاہدین نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ کے اس اعلان کے باوجود کہ بنی ثقیف کے جتنے غلام قلعے سے نکل کر اسلامی لشکر میں آ جائیں گے انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ابی بکرہ بن مسروح کے ملاوہ جو ماں کی طرف سے زیاد کے بھائی تھے ایک شخص بھی قلعے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ابی بکرہ بن مسروح کو آپ کے مذکورہ بالا اعلان کے مطابق آزاد کر دیا گیا تھا۔

اس سے قبل دست بدست جنگ میں بنی ثقیف کے بہت سے آدمی قتل اور زخمی ہونے کے علاوہ ان کے اٹھوڑ کے باغات بھی پامال ہو گئے تھے جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ:

”ان پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے اس لیے انہیں برباد نہ کرنا۔“

غزوہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے مذکورہ بالا اعلان کے بعد ابی بکرہ بن مسروح کے علاوہ اور کئی غلام قلعہ طائف سے بھاگ کر اسلامی لشکر میں آ گئے تھے جنہیں آپ نے آزاد فرما کر فردا فردا کسی نہ کسی مسلمان کی تحویل میں دے دیا تھا۔

عروہ کے بقول جب بنی ثقیف کے کسی شخص نے ان چند غلاموں کے علاوہ قلعے سے باہر قدم نہ نکالا تو آنحضرت ﷺ نے بنی ثقیف کو طیش دلا کر باہر نکلنے اور وہاں جنگ پر مجبور کرنے کے لیے حکم دیا کہ مجاہدین میں سے ہر شخص طائف کے باغات کے کم سے کم پانچ درخت کاٹے اور اتنی ہی ان کے گرد انگور کی بیلیں کاٹے۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا مذکورہ بالا اعلان کہ بنی ثقیف کے جتنے غلام لشکر اسلام میں آ جائیں گے انہیں آزاد کر دیا جائے گا عمومی حیثیت کا نہیں تھا بلکہ ان کے قبول اسلام کے ساتھ مشروط تھا اور اس کی شرعی حیثیت بھی یہی تھی۔ امام احمد کے بقول آنحضرت ﷺ کے اس اعلان کی شرعی حیثیت بھی جس میں اس سے قبل آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ”جو مسلمان کسی کافر کو قتل کرے گا اس کا مال اسی مسلمان کا ہوگا۔“ یہی تھی۔

بہر کیف اکثر معتبر و مستند روایات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ اعلان اس وقت فرمایا تھا جب دباؤں کے ذریعہ قلعہ طائف کی دیواروں کے نزدیک پہنچنے والے مجاہدین اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مجاہدان کی تیر اندازی اور منجنيقوں کے ذریعہ سنگ باری سے شہید ہو چکے تھے۔ نیز آپ نے بنی ثقیف کے طائف میں واقع باغات کے درخت اور وہاں انگوروں کی بیلیں کاٹنے کا حکم بھی اس کے بعد ہی دیا تھا اور جو بنی ثقیف کے غلام قلعے سے بھاگ کر لشکر اسلام میں آ گئے تھے انہیں بشرط قبول اسلام آزاد کر دیا گیا تھا۔

اس کے بعد جب محاصرہ نے طول پکڑا تو بنی ثقیف کا ایک وفد جن میں ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ بھی شامل تھے امن کی درخواست کے بعد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بنی ثقیف کو معاف فرمادینے کی درخواست کی تو آپ نے شرط قبول اسلام ان کی یہ درخواست قبول فرمائی۔

اس کے بعد بنی ثقیف کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور باقی لوگ بھی ماہ رمضان سال نہم ہجری میں مسلمان ہو گئے جس کا ذکر ہم ان شاء اللہ آگے چل کر حسب موقع تفصیلی طور پر کریں گے۔

آنحضرت ﷺ کی طائف سے مراجعت اور غنائم ہوازن کی تقسیم

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ طائف کے معاملات سے فراغت کے بعد جب آنحضرت ﷺ نے وہاں سے مراجعت فرمائی تو آپ نے واپسی میں پہلے ہجرانہ میں قیام فرمایا جہاں آپ حنین میں اہل ہوازن سے حاصل کردہ مال غنیمت اور دوسرا غیر ضروری سامان جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت میں چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت آپ کے لشکر کے علاوہ وہ اہل ہوازن بھی آپ کے ہمراہ تھے جو طائف میں مسلمان ہو گئے تھے۔

ابن اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ ہجرانہ میں جو مال غنیمت چھوڑا گیا تھا وہ چھ ہزار دینار زرنقہ کے علاوہ اہل ہوازن کی گرفتار شدہ عورتوں، خیموں اور بے شمار اونٹوں اور بکریوں پر مشتمل تھا۔

ابن اسحاق کے بقول ہجرانہ میں نماز ظہر سے فراغت کے بعد آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ہوازن کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کی عورتیں اور مال انہیں واپس کر دیا جائے، باقی مال میں سے خمس یعنی بنی عبدالمطلب کا حصہ نکال کر مجاہدین میں مساوی تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کے لیے جو اہل ہوازن میں سے مسلمان ہو گئے تھے دعائے خیر فرمائی اور ان کے باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ انہیں بھی ہدایت دے۔

اسی وقت اہل ہوازن کے خطیب زہیر بن سرد ابوصرد نے اٹھ کر آنحضرت ﷺ سے دست بستہ عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) ہوازن کی جنگ میں آپ کی طرف سے ہمیں وہ مصائب نہیں اٹھانے پڑے جو ابن ابی شمر یا نعمان بن منذر نے ہمیں پہنچائے۔ بہر حال آپ کریم ابن کریم اور اللہ کے رسول ہیں، ہمیں امید ہے کہ اب آپ کا کرم ہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔“

اس کے بعد اہل ہوازن کے خطیب زہیر بن سرد نے آنحضرت ﷺ کی شان میں ایک مدحیہ قصیدہ بھی فی البدیہہ پڑھا جس کا پہلا شعر یہ ہے:

أمنن علينا رسول الله في كرم
فإنك المرء نسر جوه و تنظر

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اہل ہوازن کے خطیب زہیر بن سرد کے ذریعہ ان سے دریافت فرمایا کہ انہیں اپنی عورتیں اور اپنے بیٹے زیادہ عزیز ہیں یا اپنا زر و مال؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں وہ بولے کہ انہیں اپنا زر و مال بھی عزیز ہے لیکن اپنی عورتیں اور بیٹے اس سے زیادہ عزیز ہیں۔

ان کے اس جواب کے بعد آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ہوازن کے مسلمان ہونے والے لوگوں کی گرفتاری کی جائے

والی سورتوں اور ان کے سفیرین بیٹوں کے ساتھ ان کا مال بھی واپس کر دیا جائے۔

بہب آنحضرت ﷺ نے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے باقی مال غنیمت کے بارے میں حکم دیا کہ اس میں سے آپ کا یعنی خمس اور بنی عبدالمطلب کا حصہ نکال کر اسے مجاہدین اسلام میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے تو مجاہدین ایک زبان ہو کر بولے:

”ہم اپنا حصہ رسول اللہ ﷺ کو دیتے ہیں۔ یہی بات انصار نے بھی کہی لیکن عباس بن مرداس نے اپنی اور بنی سلیم کی طرف سے کہا کہ وہ اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان سب کی حسبِ خواہش مال غنیمت کی تقسیم کے بعد آنحضرت ﷺ ہجرانہ سے روانہ ہو گئے۔“



آنحضرت ﷺ پر بعض اہل شقاق کے اعتراضات

بخاریؒ فرماتے ہیں کہ ان سے قبیصہ اور سفیان نے اعمشؒ ابی وائل اور عبد اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ نزوہ حنین میں حاصل شدہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں انصار کے ایک شخص نے کہا:

”کیا رسول اللہ (ﷺ) نے یہ تقسیم خدا کو حاضر و ناظر جان کر عادلانہ کی ہے؟“۔

عبد اللہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو دی تو آپؐ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ موسیٰ (علیہ السلام) پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ ایذا کیں دی گئیں (اور) انہوں نے ان پر صبر فرمایا“۔

یہ روایت مسلمؒ نے بھی اعمش کے علاوہ کئی دیگر متعدد حوالوں سے پیش کی ہے۔

بخاریؒ مزید فرماتے ہیں کہ ان سے تہیبہ، سعید اور جریر نے منصور ابی وائل اور عبد اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آنحضرت

ﷺ نے حنین کے مال غنیمت سے اقرع بن حابس کو سوا اور اتنے ہی اونٹ عینہ کو دیئے تھے اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو آپؐ کے

حکم سے حصہ رسد وافر مقدار میں مال غنیمت دیا گیا لیکن پھر بھی ان میں سے ایک شخص نے کہا:

”کیا آنحضرت ﷺ نے مال غنیمت کی یہ تقسیم عادلانہ فرمائی ہے؟“۔

جب عبد اللہ نے اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو دی تو آپؐ نے فرمایا:

”اللہ موسیٰ (علیہ السلام) پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ ایذا دی گئی (لیکن) انہوں نے اس پر صبر کیا“۔

بخاریؒ ہی کی پیش کردہ ایک اور روایت میں جو انہوں نے منصور کی زبانی معتمر کے حوالے سے پیش کیا ہے بیان کیا گیا ہے

کہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جب یہی بات ایک شخص نے کہی اور اس کی خبر آنحضرت ﷺ کو ہوئی تو آپؐ نے فرمایا:

”اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرتا تو اور کون کرتا ہے؟“ اس کے بعد آپؐ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں مندرجہ بالا

جملہ بھی دہرایا۔

ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ ان سے ابو عبیدہ بن محمد بن یاسر نے حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق بیان کیا کہ وہ تقسیم

آنحضرت ﷺ نے عبد اللہ بن حارث بن نوفل کے غلام ابی القاسم کے ہاتھ سے کرائی تھی اور انہوں نے سنا تھا کہ اس پر کسی نے

اعتراض بھی کیا تھا۔

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب وہ اور ان کے ساتھ تلید بن کلاب لیشی کے گئے تھے تو انہوں نے عبد اللہ بن عمرو ابن العاص کو

کعبے میں طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا اور ان سے دریافت کیا تھا کہ آیا وہ اس وقت جب حنین کا مال غنیمت آنحضرت ﷺ کے

حکم سے تقسیم کیا جا رہا تھا آپؐ کی خدمت میں حاضر تھے اور اس تقسیم پر کسی نے اعتراض کیا تھا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب جیسا کہ

ابو عبیدہ بن جراح نے ابن اسحاق کو بتایا عبداللہ بن عمر و بن العاص نے یہ دیا:

”ہاں میں اس وقت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا جب بنی تمیم کے ایک شخص نے جس کا نام ذوالخویصرہ تھا اس مالِ ثیمت کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے آپ سے کہا: ”یا محمد! کیا آپ سہیلین کے مالِ ثیمت کی اس تقسیم کو دیکھ رہے ہیں؟“ آپ نے ذوالخویصرہ سے دریافت فرمایا: تم نے اسے کیسا دیکھا؟ (یعنی اس میں کوئی غلطی پائی؟)۔“

تو وہ بولا:

”میں نے جو دیکھا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ نے اس کی تقسیم کا عادلانہ حکم نہیں دیا ہے۔“

ذوالخویصرہ کی اس نازیبا بات پر آپ نے برہم ہو کر فرمایا:

”کبھت! کیا تو سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے زیادہ عادلانہ تقسیم ممکن ہے؟“۔

عبداللہ کہتے ہیں کہ ذوالخویصرہ کے یہ نازیبا و گستاخانہ کلمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی جو آنحضرت (ﷺ) کی

خدمت میں حاضر تھے سنے تو آپ سے عرض کیا: ”کیا میں اسے قتل کر دوں؟“۔

آنحضرت (ﷺ) نے فرمایا:

”جانے دو دین میں ایسے اشخاص کے شامل ہونے اور خارج ہونے کی مثال اس تیر کی سی ہے جو کمان میں آ کر نکلتا ہے

تو کسی طرف راہ نہ پا کر (سر کے بل) زمین پر آ رہتا ہے۔“

اس روایت کو دوسرے متعدد ثقہ راویوں نے بھی مذکورہ بالا حوالوں کے علاوہ دیگر مستند حوالوں سے بیان کیا ہے۔



جہرانہ میں آنحضرت ﷺ کی اپنی رضاعی بہن سے ملاقات

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے بنی سعد بن بکر کے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ غزوہ ہوازن کے دوران میں آنحضرت ﷺ نے مجاہدین سے فرمایا تھا کہ اگر وہ نجدیوں پر قابو پالیں تو ان میں سے بنی سعد بن بکر کے کسی شخص پر سختی نہ کی جائے۔ لہذا جب اہل ہوازن پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو آپ کے ارشاد گرامی سے مطابق بنی سعد بن بکر کے گرفتار شدہ لوگوں کو ان پر کسی سختی کے بغیر آپ کی خدمت میں ضرر کر دیا گیا۔

ابن اسحاق مزید کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے مذکورہ بالا ارشاد کے بارے میں انہیں بتایا انہوں نے ہی انہیں یہ بھی بتایا کہ بنی سعد بن بکر کے ان گرفتار شدہ لوگوں کے ساتھ شیماء بنت حارث بن عبد العزیٰ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی جس نے آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) ”میں آپ کی رضاعی بہن ہوں“ اس سے یہ سن کر آپ نے فرمایا: ”اس کا کوئی ثبوت؟“۔

شیماء بولی:

”بچپن میں میرے ساتھ کھیلتے کھیلتے جب میں نے آپ کو ستایا تھا تو آپ نے میری کمر میں کاٹ لیا تھا جس کا نشان اب تک میری پشت پر موجود ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے شیماء کی زبان سے یہ سن کر فرمایا:

”تم ٹھیک کہتی ہو مجھے اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد ہے۔“

اس کے بعد آپ نے شیماء کو محبت سے اپنی ردائے مبارک پر بٹھایا اور اظہار شفقت فرمایا۔ پھر اس سے دریافت فرمایا کہ وہ اپنے عزیز واقارب میں جانا چاہتی ہے یا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس نے عرض کیا کہ وہ اپنے عزیزوں میں جانا چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے اس کے عزیزوں کے پاس بھجوایا دیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہیں بنی سعد بن بکر کے انہی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے شیماء کو رخصت فرماتے وقت اس کی خدمت کے لیے کھول نامی ایک لڑکا اور ایک کنیز عنایت فرمائی تھی جس کی بعد میں اس غلام سے شادی ہو گئی تھی لیکن ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

بیہقی ابونصر بن قتادہ، عمرو بن اسماعیل ابن عبد السلمی، مسلم، جعفر بن یحییٰ بن ثوبان کے حوالے سے اسی قبیل کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں مسلم کو جعفر بن یحییٰ بن ثوبان نے بتایا:

”جب آنحضرت ﷺ غزوہ ہوازن کے روز مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت میں ایک جوان لڑکا تھا اور میرا

کام مال غنیمت کے اونٹوں کو سنبھالنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جب آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے اپنی ردائے مبارک بچھا کر اس پر اسے بڑے احترام سے بٹھایا۔ میں نے اس عورت کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت بنی سعد میں سے آپ کی رضاعی (دودھ شریک) بہن کی ماں ہے۔“

بیہقی کی پیش کردہ یہ روایت بڑی عجیب و غریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ غزوہ ہوازن کے وقت جب خود آنحضرت ﷺ کی عمر شریف ساٹھ سال تھی تو آپ کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ رضاعی کی عمر اگر وہ زندہ تھیں اس وقت کیا ہوگی اور بنی سعد کی اس عورت کی عمر بھی جس کی بیٹی کو حلیمہ سعدیہ نے آپ کے ساتھ دودھ پلایا تھا اس وقت کیا رہی ہوگی جسے آپ نے یوں اپنی ردائے مبارک پر احتراماً بٹھایا تھا؟ بہر حال ہمارے نزدیک یہ روایت قرین قیاس نہیں ہے۔ واللہ اعلم (مؤلف)



آنحضرت ﷺ کی بھرانہ سے عمرہ کے لیے روانگی

امام احمد کہتے ہیں کہ ان سے یہ روایت بیان کرتے ہوئے بہز اور عبدالصمد مغنی نے کہا کہ انہیں ہمام بن یحییٰ نے قتادہ کی زبانی بتایا کہ آخر الذکر یعنی قتادہ نے جب انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ آنحضرت ﷺ نے کتنے حج ادا فرمائے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ حج تو آپ نے صرف ایک مرتبہ ادا فرمایا لیکن عمرے چار بار ادا فرمائے جن میں سے پہلا تو وہ تھا جو آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ادا فرمایا۔ دوسرا ماہ ذیقعدہ میں مدینے سے مکے جا کر ادا فرمایا، تیسرا عمرہ آپ نے بھرانہ سے وہاں ہوازن کا مال غنیمت تقسیم فرمانے کے بعد براہ راست مکے تشریف لے جا کر ادا فرمایا اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے پہلے اور آخری حج کے ساتھ ادا فرمایا۔

یہ روایت بخاری، مسلم اور ابوداؤد نے کئی دیگر مختلف ذرائع اور ہمام بن یحییٰ کے حوالے سے پیش کی ہے اور ترمذی نے اسے حسن اور صحیح بتایا ہے۔

امام احمد نے ابونصر نے اور داؤد یعنی العطار تینوں نے عمرو، عکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے چار بار عمرہ ادا فرمایا، پہلا عمرہ حدیبیہ، دوسرا عمرہ قضا، تیسرا عمرہ بھرانہ سے براہ راست مکے جا کر اور چوتھا اول و آخر حج کے ساتھ۔

یہی روایت ابوداؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے داؤد ابن عبدالرحمن العطار کی زبانی عمرو بن دینار کے حوالے سے پیش کی ہے۔ امام احمد، یحییٰ ابن زکریا، ابن ابی زائدہ اور حجاج بن ارطاط نے جو عمرو بن شعیب کے والد اور دادا اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے حوالے سے آنحضرت ﷺ کے صرف تین بار عمرے کا ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے یہ تینوں عمرے ماہ ذیقعدہ میں ادا فرمائے تھے لیکن چوتھے عمرے کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے نہیں کیا کہ وہ چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ ماہ ذی الحجہ میں ادا فرمایا تھا اور انہوں نے اسے حج ہی میں اس مہینے کے واقعات کے ساتھ شامل کر لیا۔

نافع نے جو آنحضرت ﷺ کے ادائیگی عمرہ کی تعداد صرف تین بتا کر آپ کے بھرانہ سے ادائیگی عمرہ سے کلیتہً انکار کیا ہے وہ حیرت ناک ہے کیونکہ دوسرے راویوں نے خود اسی کے حوالے سے ان کی تعداد چار بتائی ہے۔

جن راویوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آنحضرت ﷺ کی ادائیگی عمرہ کا ذکر کیا ہے انہوں نے انہی کے حوالے سے آپ کے ایک عمرہ کا ذکر ماہ رجب میں کیا ہے۔ اس طرح بھی آپ کے عمروں کی مجموعی تعداد چار ہو جاتی ہے۔

بہر کیف آنحضرت ﷺ کے چار عمروں سے انکار کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب کہ صحیحین کی متعدد روایات میں بھی ان کی مجموعی تعداد چار ہی بتائی گئی ہے نیز دوسرے متعدد راویوں نے عمرہ بھرانہ کو بھی ان میں شامل کیا ہے۔

کعب بن زہیر بن ابی سلمیٰ کا قبول اسلام اور ان کے قصیدے بانٹ سعاد کا قصہ

ابن اہلق کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ غزوہ طائف سے فارغ ہو کر جہرانہ تشریف لائے اور وہاں سے آپؐ نے تقسیم غنائم کے بعد مکے جا کر ادائیگی عمرہ کا قصد فرمایا تو بحیر بن زہیر بن ابی سلمیٰ نے اپنے باپ زہیر کی طرف سے اپنے بھائی کعب بن زہیر کو خط لکھا اور اس میں اسے آگاہ کیا کہ آنحضرت ﷺ نے مکے کے اس شخص کو جو فتح مکہ سے قبل بلکہ آپؐ کی مکے سے مدینہ کو ہجرت سے قبل بھی اپنے اشعار میں آپؐ کی ہجو کیا کرتا تھا قتل کر دیا ہے اور اس کے بعد قریش کے شاعروں میں صرف ابن الزبیری اور ہبیرہ بن ابی وہب باقی تھے جو مکے سے ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں لہذا اگر اسے اپنی جان عزیز ہے تو وہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے کیونکہ سنا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے پچھلے اعمال سے تائب ہو کر آپؐ سے معافی کا طالب ہوتا ہے تو آپؐ اسے قتل نہیں کرتے بلکہ معاف فرمادیتے ہیں۔

بحیر بن زہیر نے اپنے باپ کی طرف سے اپنے بھائی کعب کو یہ بھی لکھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے زمین کے کسی گوشے میں پناہ نہیں مل سکے گی۔

بحیر کے اس خط کے جواب میں کعب نے اپنے بھائی بحیر کو ایک منظوم خط لکھا جس میں اس نے اپنے پچھلے اعمال کا سچے دل سے اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو مامون و مصنون سمجھتا ہے اور یہ بھی لکھا کہ وہ آنحضرت ﷺ سے اس خط کو نہ چھپائے۔

چونکہ حبیر اس سے پہلے ہی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے پچھلے گناہوں سے تائب اور آپؐ کے دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہو چکا تھا اور چونکہ اس کے بھائی کعب نے اسے لکھا بھی تھا کہ اس کا وہ خط آپؐ سے چھپایا نہ جائے اس لیے اس نے وہ خط آپؐ کی خدمت میں پیش کر دیا جسے سن کر آپؐ نے فرمایا:

”اس نے (اپنے گناہوں کے اعتراف کی حد تک سچ کہا لیکن اس نے یہ جھوٹ کہا کہ وہ اب تک (مامون ہے) اور مامون و مصنون رہے گا“۔

حبیر نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کے مذکورہ بالا منظوم خط کے جواب میں آنحضرت ﷺ سے جو کچھ سنا تھا اسے لکھ بھیجا تو اسے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہونے لگی۔ اس کے علاوہ اس نے دوسرے لوگوں سے یہ بھی سنا کہ وہ اپنے آپ کو اب مقتول سمجھے تو وہ واقعی گھبرا گیا اور سچ پوچھے تو اس نے صرف خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی توفیق بخشی کہ اس نے آپؐ کی مدح میں ایک ایسا قصیدہ کہا جو عربی میں سب مدحیہ قصائد سے زیادہ مشہور اور ہر لعزیز ہے۔ وہ قصیدہ آج تک عربی میں قصیدہ بانٹ سعاد کے نام سے مشہور چلا آتا ہے۔

اس قصیدہ میں کعب بن زہیر نے آنحضرت ﷺ کی کریمانہ صفات کی مدح کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ وہ

نے اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھے کیونکہ اسے ان کی طرف سے بے حد خوف تھا۔

یہ قصیدہ لے کر کعب بن زہیر مدینے پہنچا اور ایک ایسے شخص کے پاس ٹھہرا جس کے ساتھ اس کا بہینہ میں خاصے عرصے تک میل جول رہا تھا۔

اگلے روز کعب بن زہیر صبح ہی صبح مسجد نبوی پہنچا اور آنحضرت ﷺ کی قیادت میں صبح کی نماز ادا کی جس کے بعد اسے اشارہ کر کے بتایا گیا کہ:

”یہ رسول اللہ (ﷺ) ہیں اور اس سے کہا گیا کہ وہ آپ سے امن طلب کرنے۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جیسا انہیں بتایا گیا، کعب بن زہیر اٹھ کر آنحضرت ﷺ کے سامنے آ کر بیٹھا اور آپ کا دست مبارک ادب کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

رسول اللہ ﷺ نے چونکہ کعب بن زہیر کو پہچانا نہیں تھا اس لیے اس نے آپ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) اگر کعب بن زہیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ سے امن کا طالب ہو اور اپنے پچھلے گناہوں

سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنا چاہے تو کیا آپ اس کی معذرت قبول فرما کر اس کی گزشتہ زیادتیوں اور کوتاہیوں کو نظر

انداز فرماتے ہوئے اسے معاف فرمادیں گے؟“

آنحضرت ﷺ کے جب اس کے اس سوال کا جواب اثبات میں دیا تو کعب بن زہیر سر جھکا کر بولا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہیں عاصم بن عمر بن قتادہ نے بتایا کہ اس کی زبان سے یہ سن کر انصار کے ایک شخص نے آنحضرت

ﷺ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔“

اس انصاری کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا:

”تم اس سے دور رہو کیونکہ یہ تو بہ کر کے اپنے پچھلے گناہوں کی عاجزی کے ساتھ معافی طلب کرنے آیا ہے۔“

(حدیث نبوی کا مفہومی و تشریحی ترجمہ۔ مترجم)

اس کے بعد ابن اسحاق مذکورہ بالا حوالے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کعب بن زہیر کو اس انصاری کی یہ بات سن کر غصہ آ گیا

تھا اور جب وہ اپنے ساتھیوں میں واپس پہنچا تو اس نے ان کے سامنے انصار کو برا بتایا لیکن مہاجرین کو کلمات خیر سے یاد کیا اور

اس کے بعد بھی انہیں ہمیشہ کلمات خیر ہی کے ساتھ یاد کرتا رہا۔

بعض مؤرخین نے اس کی تردید کی ہے کہ قصیدہ بانس سعاد کعب بن زہیر کا کہا ہوا ہے لیکن جیسا کہ مشہور ہے اور صحیح بھی ہے

کہ آنحضرت ﷺ نے کعب بن زہیر کی زبانی قصیدہ بانس سعاد سن کر انہیں اپنی بیٹی یمنی ردائے مبارک عطا فرمائی تھی۔

قصیدہ بانس سعاد کا آخری شعر یہ ہے:

مت عننا ہا الہم و فدا مکبلا

بانت سعاد فقلی الیوم متعلا

سال ہشتم ہجری کے مشہور واقعات و اموات

سال ہشتم ہجری کے ماہ جمادی الاول میں کعب بن زہیر نے وفات پائی، اس سے قبل ماہ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا جس کے بعد ماہ شوال میں غزوہ ہوازن ہوا، اس کے بعد اسی سال طائف کا محاصرہ کیا گیا، ماہ ذیقعدہ میں عمرہ بھرا، اور اسی ماہ میں مکہ سے آنحضرت ﷺ کی مدینہ واپسی ہوئی۔

واقعی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب مدینہ واپس تشریف لائے تو ماہ ذی الحجہ ختم ہونے میں چند راتیں باقی تھیں۔

واقعی یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سال آنحضرت ﷺ نے عمرو بن عاص کو جیفرا اور عمرو ابی الجعدی کی طرف ازد بھیجا تھا تاکہ وہاں کے مجوسیوں اور گردو پیش کے غیر مسلم عربوں سے جزیہ وصول کر کے وہ دونوں آپ کی خدمت میں روانہ کریں۔

واقعی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اسی سال آنحضرت ﷺ نے فاطمہ بنت ضحاک سے عقد کیا تھا لیکن اسے دین کے مقابلے میں دنیا کی طرف مائل دیکھ کر اس سے مفارقت اختیار فرمائی تھی۔

یہ بیان بھی واقعی ہی کا ہے کہ اسی سال ماہ ذالحجہ میں ماریہ قبطیہ بنتی حنیفہ کے بطن سے آنحضرت ﷺ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تھی اور اس وجہ سے کہ اس کے بطن سے آپ کا فرزند زینہ پیدا ہوا تھا امہات المؤمنین اس پر رشک کرنے لگی تھیں۔ اس زچگی کے دوران میں ماریہ بنت حنیفہ کی قابلہ (دائی) آنحضرت ﷺ کی کینز سلمیٰ تھیں اور انہی نے ابی رافع کو ابراہیم ابن رسول ﷺ کی ولادت کی خبر دی تھی اور پھر رافع نے یہ خوشخبری آنحضرت ﷺ کے گوش گزار کی تھی جس پر آپ نے رافع کو آزاد کر کے انہیں ام برہ بنت منذر بن اسید بن خدش بن عامر بن عدی بن نجار کے پاس ان کے شوہر البراء بن اوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول کی خدمت کے لیے بھیج دیا تھا۔

اس سال کے واقع کے ضمن میں ہم شہداء کے اسمائے گرامی پہلے پیش کر چکے ہیں نیز اسی سال کے اہم واقعات میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں نخلہ میں مشرکین کے اس معبد کے انہدام کا ذکر بھی کیا جا چکا ہے جس میں مشرکین عرب عزلی کی پرستش کیا کرتے تھے۔

اس معبد کو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے سال ہشتم ہجری کے ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پانچ روز قبل منہدم کیا تھا۔

واقعی کے بقول اس کے علاوہ اسی سال ایک ایسا ہی معبد جو سواع کا تھا اور جس کی ہذیل برہاٹ پرستش کیا کرتے تھے منہدم کیا گیا تھا۔ اسے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے منہدم کیا تھا لیکن اس میں سے کوئی خزانہ برآمد نہیں ہوا تھا۔

اسی سال مثلث میں منات کا معبد جس کی اوس و نزر ج کے لوگ پرستش کرتے تھے منہدم کیا گیا تھا۔ اسے سعد بن زید اشہلی نے منہدم کیا تھا۔

ہم نے مشرکین کے ان بتوں کے بارے میں سورہ نجم میں آیہ شریفہ:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾

کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ (مؤلف)

بخاری نے فتح مکہ کے بعد نغم کی اس عبادت گاہ کا ذکر کیا ہے جس میں مشرکین اس کی پرستش کرتے تھے اور اسے کعبہ مکہ کی ایک شاخ سمجھا اور کعبہ یمانہ کہا جاتا تھا جب کہ کعبہ مکہ کو مشرکین عرب کعبہ شامیہ کہتے تھے۔ بخاری فرماتے ہیں:

یوسف بن موسیٰ اور ابو اسامہ نے اسماعیل بن ابی خالد قیس اور جریر کے حوالے سے بیان کیا کہ جریر سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”کیا تم ذوالخلصہ کو ختم نہیں کرو گے؟“

جریر نے عرض کیا: ”ضرور“۔

اس کے بعد جریر کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ڈیڑھ سو سوار لے کر یمن کے قابل نغم و بجیلہ کی طرف جانے لگے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے ان سواروں کے بارے میں عرض کیا جو غیر تو بیت یافتہ تھے اور اس وجہ سے جریر کو ان کی کارکردگی پر بھروسہ نہیں تھا۔

جریر کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر اس طرح رکھا کہ انہیں اپنے سینے میں اس کا اثر محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

”یا اللہ اسے ثابت قدم رکھنا اور اسے ہادی و مہدی بنا دینا“۔

جریر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان سواروں کی طرف سے کوئی کوتاہی دیکھنے میں نہیں آئی۔

جریر مزید بیان کرتے ہیں کہ ذوالخلصہ یمن میں ایک عمارت تھی جس میں نغم اور بجیلہ کے بت نصب تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے اور اسے کعبہ یمانہ کہتے تھے۔ جریر نے اس عمارت کو پہلے منہدم کیا اور پھر جلا کر رکھ کر دیا۔

جریر کہتے ہیں کہ جب وہ یمن پہنچے تو انہیں وہاں ایک شخص ملا جو زمانہ جاہلیت کے عام دستور کے مطابق تیروں کے ذریعہ فال نکالا کرتا تھا۔

اس شخص نے جریر سے کہا:

”اگر تمہارا رسول واقعی اللہ کا رسول ہے تو جو تیر میں چلاؤں گا تمہاری گردن میں پیوست نہیں ہوگا“۔

چنانچہ جریر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس شخص نے تیر چلا تو اس کا نشانہ ڈھلا ہو گیا۔

اس کے بعد جریر نے میان سے تلوار نکال کر اس شخص سے کہا
 ”اگر اب تو اشدان لاله الا اللہ نہیں کہے گا تو میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔“
 بہر کیف جریر نے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا مذکورہ بالا عمارت کو منہدم کرنے کے بعد اسے جا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔
 جب جریر نے یمن سے لوٹ کر آنحضرت ﷺ کو اس عمارت کے انہدام و احترام کی خوشخبری سنائی تو آپؐ نے ”بارک
 اللہ“ فرمایا اور ان کے ساتھی سواروں میں سے ہر ایک کو یکے بعد دیگرے پانچ پانچ بار مبارکباد دی۔
 مسلمؒ نے یہ روایت متعدد ذرائع اور اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم اور جریر بن عبد اللہ الحمیلی کے حوالوں سے اسی
 طرح پیش کی ہے۔

